

تعمیر ملت



خواجہ عبدالحکیم انصاری

تعمیر ملت

خواجہ عبدالحکیم انصاری



جب ہمارا دین مکمل، نبی برحق اور قرآن اللہ کی جہی کتاب ہے تو پھر ملتِ اسلامہ کے زوال کی وجہ کیا ہے؟۔


بانی سلسلہ عالیہ توحید یہ قبلہ خواجہ عبدالکبیر انصاری کا درد بھی سوال ہے جس کے مداوا کے لیے آپ نے نہ صرف کتاب ہذا "تعمیر ملت" تحریر فرمائی بلکہ ملتِ اسلامہ کی اصلاح و فلاح اور دینِ اسلام کی سر بلندی کے لیے سلسلہ عالیہ توحید یہ کے نام سے ایک نئے سلسلہ تصوف کی بنیاد بھی رکھی۔

آپ کی اس کتاب میں زوالِ ملت کے داخلی و خارجی اسباب پر بڑی مدلل و جامع بحث کی ہے۔ آپ کی نظر میں احیائے ملت کے لیے سب سے پہلی ضرورت مسلمانوں میں ایمانِ کامل اور قوتِ عمل پیدا کرنا ہے۔

آپ کا مشن اس لیے قابلِ تقلید ہے کہ آپ جس راستہ پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں وہ سرکارِ ابدِ قرار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا راستہ ہے۔ تصوف کے حوالے سے آپ کی مخصوص خدمت اس مبارک علم کو مشرکاً نہ عقائد سے پاک کرنا ہے۔ آپ نے تمام عمر تعمیرِ ملت، اصلاحِ معاشرہ اور اخلاقِ عالیہ کے فروغ میں صرف کی۔ نتیجتاً آپ کے ہزاروں مریدین آپ کے فیضانِ نظر سے اللہ کے محبوب و مقرب بندوں میں شامل ہو گئے۔ آپ کا قائم کردہ یہ سلسلہ رشد و ہدایت درحقیقت احیائے ملت کی ایک تحریک ہے۔

گوکہ یہ کتاب 1955 میں تحریر ہوئی مگر ایک زندہ کتاب ہونے کے ناطے، ملتِ اسلامیہ کے لیے آج بھی زندگی بخش نسخہ ہے اور یہ نسخہ تحریر فرمانے والے بلاشبہ "ہادیِ ملت" ہیں۔

عمر باد رکعبہ و بت خانمی نالہ حیات
تاز بزمِ عشق یک دانائے راز آید بروں




حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاری ^{رحمہ اللہ}
بانی سلسلہ لیبیا توحیدیہ

ناشر

قبلہ غلام رسول شاہد مدظلہ ^{رحمہ اللہ}

شیخ سلسلہ لیبیا توحیدیہ

92 جی ماڈل ٹاؤن لاہور



جملہ حقوق بحق شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ محفوظ ہیں

پیشتر شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ قبلہ غلام رسول شاہ مدظلہ تعالیٰ
مصنف امام خواجگان قبلہ خواجہ عبدالحکیم انصاری

پہلا ایڈیشن 1956ء

دوسرا ایڈیشن 1960ء

تیسرا ایڈیشن 1972ء

چوتھا ایڈیشن 1979ء

پانچواں ایڈیشن 1991ء

چھٹا ایڈیشن 1993ء

ساتواں ایڈیشن 1997ء

آٹھواں ایڈیشن 2003ء

نواں ایڈیشن 2010ء

مطبع پبلی کیشنز رائل پارک لاہور

قیمت 350/- روپے

کسی ادارہ، فرد یا افراد کو پیشتر کی تحریری اجازت کے بغیر کتاب یا اس کے کسی حصہ کو کسی بھی طرح چھاپنے،
نقل کرنے یا محفوظ کرنے کی اجازت نہیں۔

فہرست مضامین

68	ہمارے صوفی	1	امام خواجگان حضرت خواجہ عبدالکیم انصاریؒ
71	ہمارے امراء	15	اہم سوال
72	ہمارے حکام	21	قرن اول میں مسلمانوں کی ترقی
74	زوالِ ملت کے خارجی اسباب	23	ایمان
74	پہلی وجہ	24	توحید
74	دوسری وجہ	29	اتحاد
74	تیسری وجہ	30	رابطہ
74	چوتھی وجہ	32	اطاعت
74	پانچویں وجہ	34	عمل
75	چھٹی وجہ	37	قرآن
75	ساتویں وجہ	39	اسبابِ زوال
75	آٹھویں وجہ	39	داخلی اسباب
76	نویں وجہ	40	توحید
77	دسویں وجہ	52	اتحاد
89	مذہبِ اسلام	55	رابطہ اور اطاعت
89	عقائد	55	عمل
92	ایمان محکم کس طرح پیدا ہوتا ہے؟	59	دنیا سے نفرت
95	تصوف	62	ہمارے عوام
101	حکمت	63	ہمارے علمائے دین
101	طلبِ صادق	66	ہمارے علمائے دنیا
102	بیعت یا شاعر گردی	67	ہمارے ادیب اور شاعر



جستجو قوم کو ہے ایسے مسلمانوں کی
جن کو ملتا ہو سکوں گوں میں طوفانوں کی

امام خواجگان خواجہ عبدالکیم انصاریؒ




پوسٹ بکس نمبر 5050 لاہور پاکستان

198	عمل	184
200	حقوق العباد	185
203	گھر	185
205	نکاح	186
207	تعداد ازدواج	188
208	طلاق	189
209	اسلام میں عورت کا درجہ	192
212	پردہ	194
214	تعلیم نسواں	195
214	جوڑے کا انتخاب	195
214	خاندان کے فرائض	196
217	بیوی کے فرائض	196
223	گھر کے دوسرے مکین	196
225	والدین	196
227	نوکر چاکر	196
228	گھر سے باہر	197
230	میل ملاقات	197
232	لباس	197
232	گفتگو	197
234	دعوتیں	197
234	کھانے کے آداب	197
235	آداب نشست و برخاست	198
236	چلنے پھرنے کے آداب	198

نماز و حائیت پیدا کرتی ہے	184
نماز ہی ولی کامل بناتی ہے	185
دعا	185
روزہ	186
حج	188
زکوٰۃ	189
جہاد	192
معاملات اور اخلاق و آداب	194
حقوق اللہ	195
حقوق نفسی	195
صحت	196
غذا	196
لباس	196
مکان	196
پابندی اوقات	196
غسل	197
عبادت	197
درزش اور کھیل کود	197
کام	197
تفریح	197
علم و تجربہ	197
عزت نفسی	198
خود اعتمادی	198

153	تیسرے سوال کا جواب	106
156	پانچویں بات	110
160	سلوک کا حاصل	113
160	پہلا دور	114
167	دوسرا دور	116
174	تجلیات ذاتی	116
174	تزکیہ اخلاق	116
175	تیسرا دور	118
175	چوتھا دور	120
177	عبادات	121
178	طہارت	122
180	نماز	124
180	نماز صحیح انسانی کردار پیدا کرتی ہے	126
181	نماز ڈسپلن پیدا کرتی ہے	132
181	نماز تنظیم کا ذریعہ ہے	134
182	نماز قوت عمل پیدا کرتی ہے، کس طرح؟	136
182	نماز کا دہرا فائدہ	145
182	نماز سے سکون اور اطمینان قلب	148
183	حاصل ہوتا ہے	149
183	نماز برائیوں سے بچاتی اور	149
183	اخلاق کو سدھارتی ہے	149
183	نماز احساس فرائض پیدا کرتی	150
184	اور اس کو قائم رکھتی ہے	151

آداب سلوک	106
سلوک اور اس کے عملی طریقے	110
پاس انفس	113
نفی اثبات	114
نماز	116
تلاوت	116
قطع ماسوی اللہ	116
تسلیم و رضا	118
غصہ اور نفرت کی نفی	120
نفرت	121
عالمگیر محبت و صداقت	122
تقلّر	124
تقلّر بالمشاہدہ	126
تقلّر بالمراقبہ	132
خدمتِ خلق	134
عالمِ روحانی	136
موت و سفرِ آخرت	145
پہلی بات	148
دوسری بات	149
تیسری بات	149
چوتھی بات	149
پہلے سوال کا جواب	150
دوسرے سوال کا جواب	151



امام خواجگان حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ

255	تجسس اعمال اور بدگمانی	238	خرید و فروخت
257	غیبت اور بدگوئی	239	کسبِ معاش
258	چغلی	239	زراعت
259	حسد	240	تجارت
259	جھوٹ	241	صنعت و حرفت
259	لحاظ و مرآت	243	ملازمت
260	عجز و انکساری	244	قابلیت
262	کبر و فرور	244	خود اعتمادی
262	قناعت	244	قوتِ برداشت
264	خلاصہ کتاب	245	احساسِ ذمہ داری
264	توحید	245	جدت
264	رسالت و قرآن	245	تعاون
264	ایمان کامل پیدا کرنے کی ترکیب	245	ضبط و نظم
266	عبادت	245	جذبہ خدمت
266	برائیوں کی نفی	245	دیانت داری
266	محبت و صداقت	247	محاسن اور معائب اخلاق
266	حقوق العباد	247	احسان
267	عمل	249	دیانت
267	تقدیر	250	ایثار
267	حسنِ اخلاق	251	ایقائے عہد
268	خدمتِ خلق	251	اصلاح
269	علاج	253	انصاف
		254	انتقام اور معافی



سلطان الاولياء خواجه عبدالستار خان



سکواڈرن لیڈر (ر) غلام رسول شاہد مدظلہ



روضہ شریف کا اندرونی منظر



سالانہ تقریب سعید کا منظر

امام خواجگان حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ

انسان خالق کائنات کی بہترین تخلیق ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے اشرف المخلوقات اور مسجود ملائکہ ہونے کا شرف بخشا۔ حضرت آدمؑ کو کل اشیاء کے نام سکھائے اور انسان کی بھلائی و راہنمائی کے لئے اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے رشد و ہدایت کا ایک نہایت مضبوط و مربوط نظام عطا فرمایا۔ اس سلسلے کا پہلا دور انبیاء و رسل پر مشتمل ہے جو حضرت آدمؑ سے شروع ہو کر حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس پر اپنے درجہ کمال کو پہنچتا ہے۔ جہاں اتمام نعمت اور اس اظہار و اقرار کے ساتھ دین اسلام کے مکمل ہو جانے کا اعلان کیا جاتا ہے کہ بس ایک یہی دین اللہ کا پسندیدہ اور اس کے ہاں مقبول ہے اور سلسلہ نبوت و رسالت ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جاتا ہے۔

آنحضورؐ کی حیات طیبہ اور آپ کے وصال شریف کے بعد آپ کے تربیت و ہدایت یافتہ جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نے دین اسلام کا پیغام حق دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور بہت ہی قلیل عرصہ میں دنیا کا بیشتر حصہ ملت اسلامیہ میں شامل ہو گیا۔ جب تک سلطنت اسلامیہ کے حکمران اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور اکرم ﷺ کی سنت عالیہ پر عمل پیرا رہے، دنیا کی دیگر قومیں ان کے سامنے سرنگوں رہیں لیکن جب انہوں نے کتاب و سنت چھوڑ کر اختیار کی تقلید اپنائی تو وہ اپنا خدا داد عز و شرف قائم رکھ سکے نہ حکومت و ثروت۔ تاہم مسلمانوں کی جماعت میں ہنوز ایک گروہ ایسا بھی موجود تھا جو تبلیغ و اصلاح کے حوالے سے اسلام کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ تزکیہ نفس یعنی باطن کی پاکیزگی، تصفیہ قلب اور مکارم اخلاق پر زور دیتا رہا۔ یہی وہ مبارک لوگ تھے جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی اشاعت کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ برصغیر کا ہندو معاشرہ جو کفر و ضلالت، گمراہی و اوہام پرستی میں گھرا ہوا تھا ان قابل قدر بزرگ ہستیوں کے دم سے توحید کے نور سے منور ہو گیا مگر کچھ ہی عرصہ بعد اس معاشرے میں بہت سے غیر اسلامی تصورات ابھرنے لگے اور توحید اسلامی کی جگہ شرک و بدعت نے لے لی۔

خانقاہیں اور پیرخانے جو کبھی اخلاقی و روحانی تربیت، معرفت و حکمت اور رشد و ہدایت کے مراکز ہوا کرتے تھے، قبر پرستی حاجت روائی مشکل کشائی اور نذر و نیاز کی آماجگاہ بن کر رہ گئے۔ یہاں تک کہ شریعت سے کامل فرار کو تصوف سمجھا جانے لگا۔ روحانیت کے جھوٹے دعویداروں اور جاہل صوفیوں نے اس مبارک علم

کی مٹی اس قدر بلیدی اور مسلمانوں کو ایسا نقصان پہنچایا کہ جس کے ذکر سے جگر پھٹتا اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بالخصوص برصغیر پاک و ہند میں خود ساختہ پیروں نے مصائب زدہ عوام کی اوہام پرستی ضعیف الاعتقادی اور نفسیاتی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف معصوم لوگوں کو مادی اور نفسیاتی طور پر برباد کیا بلکہ تصوف جیسی انمول شے کو ایک بدنام پیشے میں بدل دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ روحانی ارتقاء کا یہ عظیم راستہ محض ایک لائسنسی علمی بحث، سمجھ میں نہ آنے والی لفاظی اور متنازع موضوعات کا مرقع بن کر رہ گیا۔ ایسے میں اللہ حکیم و خیر کو اپنے بندوں پر رحم آیا اور جہالت و بربادی کے ان اتھاہ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اپنے ایک خاص بندے خواجہ عبدالکیم انصاریؒ کی صورت میں ملتِ اسلامیہ کی راہنمائی کے لئے ایک حکیم و ہادی عطا فرمایا۔ جس نے تائید ایزدی سے ایک نئے سلسلہ تصوف ”سلسلہ عالیہ توحیدیہ“ کی بنیاد رکھی۔

حضرت خواجہ عبدالکیم انصاریؒ 29 جولائی 1893ء بروز ہفتہ دہلی کے قصبہ فرید آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ اُمّۃ العائشہ سادات خاندان کی ایک مطہر، پاکباز اور نیک خاتون تھیں۔ والد محترم حافظ عبدالرحیم اور دادا حضور مولانا عبدالعزیز اپنے وقت کے جید عالم دین اور متشرع صوفی ہونے کے ساتھ کھنؤ میں صدر اعلیٰ یعنی سینئر سب جج کے عہدے پر فائز تھے۔ پردادا حضور بھی عابد و زاہد بزرگ تھے۔ جن کا زیادہ وقت ایٹ آباد میں گزرا۔ آخر پنجاب میں کرنال کے مقام سے اسی۔ اے۔ سی کے عہدے سے ریٹائرڈ ہو کر فرید آباد چلے گئے۔ آپ کے خاندان عالیہ کا شجرہ نسب حضرت ابویوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ حضرت خواجہ عبدالکیم انصاریؒ کی عمر مبارک ابھی دس برس تھی کہ دادا حضور اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے تاہم دادا حضور کی صحبت نے آپ میں موجود خدا دُخویوں اور صلاحیتوں کو ایسی جلا بخشی کہ کشف و کرامات کا ظہور لڑکپن سے ہی ہونے لگا لیکن آپ نے کبھی بھی ان کو روحانیت کا معیار نہ سمجھا۔ آپ کے نزدیک بزرگی کا اصل معیار ”اخلاقِ حسنہ“ تھا۔ اکثر فرمایا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سب سے غالب صفت اپنی مخلوق سے محبت اور ان کے ساتھ معاملہ رحمت ہے اور یہی اخلاق اللہ ہے۔ بندوں کو بھی چاہئے کہ اخلاق عالیہ اپنائیں اور اپنے ذمہ تمام حقوق چاہے وہ حقوق اللہ ہوں، حقوق نفسی یا حقوق العباد، خوشی خوشی ادا کریں۔

آپؒ روحانی تربیت کے ساتھ اپنے مریدوں کی اخلاقی اصلاح پر بہت زور دیتے۔ تزکیہ اخلاق کے لیے غصہ و نفرت چھوڑنے اور عالمگیر محبت اور صداقت اپنانے کا درس دیتے۔ اپنے تمام مریدین کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے، زندگی کے ہر شعبے اور معاملے میں ان کی رہبری و رہنمائی فرماتے۔ آپؒ نے ہمیشہ

سادگی، خوش اخلاقی اور صاف گوئی کی تلقین فرمائی! چنانچہ فرماتے ہیں۔ ”حلقہ کی تعداد بڑھانا ہرگز مقصود نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حلقہ میں کم سے کم آدمی ہوں لیکن وہ سب عقیدے کے لحاظ سے یکے مسلمان، کھرے توحیدی اور اعمال و اخلاق کے لحاظ سے اعلیٰ درجے کے مومن ہوں۔“

یوں آپؒ اپنے تمام مریدوں کو یکے مسلمان اور سچے توحیدی ہونے کے ساتھ ایمان کامل کے اعلیٰ درجے یعنی درجہ احسان پر فائز دیکھنا چاہتے تھے۔ آپؒ کی تعلیمات قرآن و سنت کا نچوڑ ہیں جنہیں آپؒ نے طالبانِ معرفت و حکمت کے لیے نہایت آسان، عام فہم اور سادہ الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ آپؒ کی تصنیف کردہ کتب میں معرکہ الآراء، کتاب تعمیر ملت متلاشیانِ حق کے لیے ایک روشن قندیل ہے۔ حلقہ توحیدیہ کے سالانہ اجتماعات پر دیئے گئے آپؒ کے کُطبات پر مشتمل کتاب ”چراغِ راہ“ ساکانِ راہ طریقت کے لیے ایک بے نظیر تحفہ ہے جو تصوف کے موضوع و مقاصد پر ایک حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ آپؒ کی ایک اور باکمال تصنیف ”حقیقت وحدت الوجود“ ہے۔ جس میں آپؒ نے کمال جرأت کے ساتھ فلسفہ وجودیت پر بحث کی ہے اور حضرت ابن عربیؒ کے اس روحانی مشاہدہ کی عرفانی غلطی کی نشاندہی فرمائی ہے جس میں وہ ایک کیفیت کو حقیقت سمجھ بیٹھے اور وجودیت کا شکار ہو گئے۔ تاکہ متلاشیانِ حق غلط راہ پکڑ کر گمراہ نہ ہو جائیں۔

سلسلہ عالیہ توحیدیہ سے وابستہ مریدین کے لیے ایک خاص کتاب ”طریقت توحیدیہ“ ہے یہ کتاب ساکانِ حق کے لئے ایک مکمل ہدایت نامہ ہے جس میں مریدین سلسلہ کے لئے بہری مریدی کے آداب عقائد و عبادات اور ذکر و فکر کے طریقے بیان کئے گئے ہیں۔ اسی کتاب میں سلسلہ عالیہ کی تنظیم اور دیگر قواعد و ضوابط کا بھی ذکر ہے۔

آپؒ کے دادا حضورؒ نے آپؒ کے قلب میں عشقِ الہی کا جو چراغ روشن فرمایا تھا وہ اُن کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ کے دیدار اور قرب و لقاء کی طلب بن گیا۔ چنانچہ آپؒ نے مختلف پیروں، فقیروں، بڑی بڑی درگا ہوں اور خانقاہوں کے سجادہ نشینوں سے ملاقات کے علاوہ تصوف کی مختلف کتب کا مطالعہ کیا۔ اس تلاش و جستجو کا نتیجہ بہت اچھا نکلا کہ آپؒ کے ایک قریبی عزیز شیخ عبدالرہمن دہلوی کے توسط سے آپؒ کی ملاقات حضرت مولانا کریم الدین احمدؒ سے ہوئی۔ تقریباً چھ گھنٹے کی اس پہلی ملاقات ہی میں آپ حضرت صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت مولانا کریم الدین احمدؒ نے دریافت فرمایا ”کس غرض سے بیعت ہونا چاہتے ہو؟“

آپؒ نے عرض کیا، تین مقاصد ہیں اول روحانی طاقت، دوسرے تزکیہ اخلاق، تیسرے دیدار باری تعالیٰ، مولانا نے فرمایا۔ ”پہلی دو چیزیں تو تم کو میرے ذریعہ سے مل جائیں گی لیکن تیسری چیز یعنی دیدار باری تعالیٰ میرے بس

کی بات نہیں۔ اس کے بدلے میں وعدہ کرتا ہوں کہ معرفت باری تعالیٰ کسی نہ کسی قدر حاصل ہو جائے گی۔“ آپ نے عرض کی کہ ”کیا دیدار خدا ممکن بھی ہے؟“

مولانا نے فرمایا ”ممکن کیوں نہیں۔ رسول اللہ ﷺ کو حاصل ہوا۔ حضور ﷺ کے صحابہ کبار کو میسر آیا۔ حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ ”میں دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھتا ہوں“ پھر حضور ﷺ کی امت اس سے کسی طرح محروم رہ سکتی ہے۔ اکابر اولیاء جتنے بھی گزرے ہیں سبھی جیتے جی اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار ان ظاہری آنکھوں سے نہیں ہوتا بلکہ ایک باطنی آنکھ پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنی طاقت کے مطابق دیکھتی ہے اور اسی کے بعد ایمان کا وہ درجہ نصیب ہوتا ہے۔ جو حق الیقین کہلاتا ہے اور جس میں کبھی کی اور شک پیدا نہیں ہوتا۔“

حضرت مولانا کریم الدین احمدؒ سے بیعت ہونے کے بعد آپ نے تین برس کی قلیل مدت میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا سلوک طے کر لیا اور مولانا صاحب نے آپ کو بیعت کرنے کی تحریری اجازت مرحمت فرمادی مگر ساتھ ہی یہ نصیحت فرمائی کہ چالیس برس کی عمر سے قبل کسی کو بیعت نہ کریں۔ اس وقت آپ کی عمر صرف ۲۱ برس تھی۔ کچھ ہی عرصہ بعد مولانا صاحب کا وصال ہو گیا اور دہلی کے معروف مہندپوں کے قبرستان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ ان کے بعد آپ مراد آباد میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک بلند پایہ بزرگ حضرت سید قاسم علی کلیمیؒ کے دستِ شفقت پر بیعت ہوئے اور سلسلہ چشتیہ کا سلوک طے کیا۔ چند ہی سالوں میں آپ کو حضرت صاحب مذکور کی طرف سے سلسلہ چشتیہ کی طرف سے خلافت عطا ہوگی مگر اصل گوہر مقصود یعنی دیدار باری تعالیٰ میسر نہ آیا تاہم اس سلوک سے طبیعت میں لطافت، اخلاق میں شیرینی، حُسن اور جمالیات کا ادراک اور عشق و محبت کا سوز و گداز میسر آ گیا۔ اپنے مُرشدِ معظم محمد قاسمؒ کی رحلت کے بعد آپ نے سلسلہ عالیہ قادریہ اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ کا بالاستیجاب مطالعہ کیا کیوں کہ دیدار باری تعالیٰ کی طلب نے آپ کو بے چین کر رکھا تھا۔ آخر رحمتِ خداوندی جوش میں آئی اور آپ کی ملاقات سلسلہ اویسیہ کے ایک بزرگ جناب رسالدار محمد حنیف خاں سے ہو گئی جن کے متعلق ایک رات خواب میں آپ کو آپ کے دادا حضورؒ نے اشارہ دیا تھا۔ حضرت رسالدار محمد حنیف خاں کے توسط سے آخر کار 1953ء میں آپ اپنے مقصدِ حیات یعنی رویت باری تعالیٰ سے مشرف ہوئے۔ یوں آپ کے پیرو مُرشد حضرت مولانا کریم الدین احمدؒ کی بات حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی کہ ”تمہارے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسی چیز پیدا کی ہے کہ جب تک تم زندگی میں اللہ کو نہ دیکھ لو گے مرو گے نہیں۔“

یہی وہ دولتِ گہری تھی جس کی طلب اور جستجو میں عمر شریف کے ساٹھ برس بیت چکے تھے چنانچہ آپ بہت خوش اور مطمئن تھے اور کراچی میں ملازمت کر رہے تھے۔ آپ نے چند ایک دوستوں کے اصرار پر انہیں سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت بھی کیا مگر کسی نئے سلسلے کے قیام کا آپ کو ہرگز خیال نہ آیا۔ اسی دوران آپ اپنے ایک عقیدت مند پروفیسر محمد ابراہیم سے ملنے بنوں تشریف لے گئے جہاں آپ کی ملاقات قبلہ عبدالستار خان کے والد ماجد حاجی علی محمدؒ اور ان کے اہل خاندان سے ہوئی۔ آپ ان کے اخلاق بالخصوص قبلہ خان صاحب کی بیگم محترمہ نور جہاں المعروف محترمہ امی حضورؒ کی خدمات سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں اپنی منہ بولی بیٹی بنا لیا۔ بعد میں یہ رشتہ اتنا مضبوط ثابت ہوا کہ اپنی مثال آپ بن گیا۔ پورا خاندان آپ کے دستِ شفقت پر بیعت ہو گیا مگر قبلہ خان صاحب جنہیں قبلہ انصاریؒ صاحب نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا کسی خاص گھڑی کے منتظر تھے۔ قبلہ خان صاحب کو اپنا بیٹا بنائے جانے کا واقعہ بھی بڑا اہم ہے۔ آپ نے قبلہ عبدالستار خان کے والد ماجد حاجی علی محمدؒ سے فرمایا کہ کیا آپ اپنا تختِ جگر عبدالستار خان مجھے دے سکتے ہو؟ قبل اس کے کہ حاجی صاحب کوئی جواب دیتے قبلہ خان صاحب کی بہنیں اور والدہ رونے لگیں کیونکہ قبلہ خان صاحبؒ بھی کا آنکھوں کا تارہ تھے اور سب گھر والے ان پر دل و جان سے فدا تھے مگر حاجی صاحب نے عرض کی کہ اللہ کی راہ میں ایک کیا ہزار بیٹے قربان ہیں۔ اس پر قبلہ انصاریؒ صاحب نے فرمایا کہ ”آج سے ہمارا رنا جینا اور ہماری دنیا و آخرت ایک ہوگی ہے۔ ہم فرش پر ہوں یا عرش پر اکٹھے ہو گئے۔ آج سے خان صاحب میرا بیٹا اور نور (قبلہ خان صاحب کی زوجہ محترمہ) میری بیٹی ہے۔“ بعد ازیں قبلہ انصاریؒ صاحب نے اس بات کا اعلان اپنے خاندان میں بھی فرمادیا اور قبلہ خان صاحبؒ، ان کی اہلیہ اور ان کی اکلوتی صاحبزادی ام کلثوم، قبلہ انصاریؒ صاحب کے خاندان کا حصہ بن گئے۔ آخر وہ مبارک گھڑی بھی آن پہنچی جب حضرت خواجہ عبدالکیم انصاریؒ کے واحد خلیفہ و جانشین قبلہ خان عبدالستار خان نے پانچ اگست 1955ء بروز جمعہ المبارک شام 5 بجے آپ کے دستِ شفقت پر باقاعدہ بیعت کر لی یہی وہ مبارک لمحہ تھا جو سلسلہ عالیہ توحیدیہ کے قیام کا نقطہ آغاز بنا اور قبلہ انصاریؒ نے فرمایا کہ آج سے جو کوئی بھی ہم سے ہمارے سلسلہ کے بارے میں پوچھے تو ہم علی الاعلان کہیں گے ”سلسلہ عالیہ توحیدیہ“۔ اس

ساعتِ مبارکہ کے بعد جتنے لوگ بیعت ہوئے ان سب کو سلسلہ عالیہ توحیدیہ میں بیعت کیا گیا۔ حضرت خواجہ عبدالکیم انصاریؒ ایک عدیم المثال بزرگ اور عصر حاضر کی نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ آپ بے پناہ روحانی قوت اور کشف و کرامات کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ محبت و صداقت، عنف و درگزر، علم و برد باری

ایثار و قربانی، صبر و تحمل، خدمت انسانی اور اخلاص کا پیکر تھے۔ دانش مندی، علم و فراست، صفائے قلب، عاجزی و انکساری اور خدمتِ خلق کا جذبہ آپ کی دلنشین شخصیت کا طغیہ امتیاز رہا۔ سائنسی لسانی و نفسیاتی علوم، حالات حاضرہ، معاشرتی حقائق اور دنیاوی معاملات کا ہر پہلو آپ کی دسترس میں تھا۔ علم و معرفت میں درجہ کمال حاصل تھا اور اللہ رب کریم کے قرب اور اسکی عنایات پر ناز کرتے تھے۔

قبلہ عبدالستار خان صاحب جو اپنی ملاقات کے پہلے دن ہی سے حضرت قبلہ انصاری صاحب پر جان و دل فدا کر چکے تھے، نے بیعت ہوتے ہی مجسم اطاعت بن کر اپنی زندگی قبلہ انصاری صاحب کی خدمت میں وقف کر دی۔ قبلہ عبدالستار خان صاحب محبت کا ایک ایسا اتھاہ سمندر تھے کہ جس سے ہر کوئی بلا تفریق فیضیاب ہوا۔ آپ شریف النفس، حلیم الطبع، صبر و شکر اور عفو و درگزر کی ایک ایسی مثال تھے کہ دشمنوں پر احسان فرماتے اور شفقت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے۔

حضرت قبلہ انصاری صاحب کی نگاہ گوہر شناس نے پہلی ہی ملاقات میں قبلہ عبدالستار خان صاحب کا انتخاب فرمایا تھا یوں جنوری 1961ء میں آپ نے ایک تحریری وصیت نامہ کے ذریعے آپ کو اپنا واحد خلیفہ و جانشین مقرر فرمایا اور اپنے تمام مریدین کو ہدایت فرمائی کہ قبلہ عبدالستار خان صاحب کی اطاعت اسی طرح بلا چون و چرا کریں جیسا کہ میری کرتے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ انصاری صاحب کو تین بیٹیاں اور ایک بیٹا عبدالہادی عطا فرمایا۔ پاکستان بننے ہی آپ نے تمام بیٹیاں بیاہ دیں مگر آپ کا بیٹا 21 برس کی عمر میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ احباب نے آپ کے ساتھ بیٹے کے وصال پر افسوس کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے فرمایا کہ ”ہم نے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھا ہے بیٹا تو کیا وہ ہماری جان لیکر بھی راضی ہو جائے تو سودا مہنگا نہیں“ اس کے بعد رات بھر معرفت و حکمت کی باتیں تھیں اور احباب حلقہ، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔

حضرت قبلہ انصاری صاحب نے سلسلہ عالیہ توحید یہ کا مقصد وحید ”اللہ ہی کا ہونا“ بیان فرمایا۔ عامۃ المسلمین اور سالکان حق کی راہنمائی کے لئے قرون اولیٰ میں مسلمانوں کی ترقی اور زوال کی وجوہات، اسلامی عقائد، تصوف و حکمت، سلوک اور اس کے عملی طریقے، سلوک کا ماحصل، عبادات میں طہارت، نماز، دُعا، روزہ، حج، زکوٰۃ و جہاد، معاملات اور اخلاق و آداب، حقوق اللہ، حقوق نفسی، حقوق العباد، کھانے، نشست و برخاست اور چلنے پھرنے کے آداب سے لیکر محاسن و مصائب اخلاق تک ایک ضخیم کتاب ”تعمیر ملت“ تحریر فرمائی ہے۔ سالکان راہ طریقت و معرفت، اللہ تعالیٰ کے قرب و لقاء دیدار کے طالب، قرآن و سنت کی صحیح

اور سچی اسلامی تعلیمات کے خواہشمند حضرات کی راہنمائی کے لیے بانی سلسلہ عالیہ توحید یہ نے علم تصوف یعنی تصوف صحوی اور تصوف سکری کی مدلل انداز میں وضاحت فرمائی۔

آپ کے نزدیک علم تصوف کا موضوع و مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب و دیدار کا حصول ہے۔ آپ کے نزدیک تصوف اور دوسرے علوم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دیگر علوم تو پہلے حاصل کیے جاتے ہیں پھر ان پر عمل کیا جاتا ہے لیکن تصوف میں اس کے برعکس پہلے کچھ عمل کرنے پڑتے ہیں پھر علم حاصل ہوتا ہے۔ ”عمل کیا کرنے پڑتے ہیں؟ علم سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ سلوک کی تعلیم پر عمل شروع کرنے سے پہلے تین باتوں کی سخت ضرورت ہے۔ اول طلب، دوم خلوص اور سوم بیعت۔ طلب یہ ہے کہ انسان کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ کا راستہ معلوم کرنے کی اس قدر سخت خواہش ہو کہ کھانا کھایا جائے نہ پانی پیا جائے، نیند آئے نہ کسی کام میں دل لگے۔ ہر وقت یہی جی چاہتا رہے کہ کسی طرح اللہ کا جمال روح پرور نظر آئے۔ اس کی قربت محسوس ہو۔ اس کی معرفت میسر آئے پھر اس طلب کو پورا کرنے کے لیے طالب دردر پھرے۔ جہاں کسی بزرگ کا پتہ لگے وہیں پہنچے۔ کچھ دن اُن کی خدمت کرے اور صحبت میں بیٹھے۔ اس کی زندگی اور اخلاق کا مطالعہ کرے۔ اس کی باتیں سنے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب کسی بزرگ سے عقیدت ہو جائے تو پھر اس سے بیعت کرے۔

خلوص یہ ہے کہ دنیاوی اغراض کے لیے ہرگز بیعت نہ ہو۔ صرف اللہ کا راستہ معلوم کرنے کی غرض سے بیعت ہو۔ اگر بیعت ہوتے وقت دل میں یہ بات ہو کہ بیعت ہونے سے میری دنیا سدھ جائے گی یا میں بھی بڑا پیر بن کر مزے کروں گا تو یہ منافقت ہے خلوص نہیں ہے۔ ایسا آدمی ریا کار ہے جو کبھی کامیاب نہ ہوگا۔

بانی سلسلہ عالیہ توحید یہ نے ایک نئے سلسلے کی بنیاد کیوں رکھی؟ آپ فرماتے ہیں۔ ”زمانہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے۔ بہت سی چیزیں اور باتیں معدوم اور نئی پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ مرور ایام سے بہت سی قومیں تباہ اور نابید ہو جاتی ہیں۔ بہت سی طاقتور قومیں کمزور اور کمزور قومیں طاقتور ہو جاتی ہیں۔ بہت سے پرانے علوم غائب یا بے قدر و قیمت ہو جاتے ہیں اور بہت سے نئے علوم پیدا ہو کر انسانی طبقات میں مقبولیت عام حاصل کر لیتے ہیں۔ پرانے علوم کے زوال اور نئے علوم کی ترقی کے ساتھ ہی انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں اہم تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ معیشت و معاشرت کے طریقے اور اصول تک بدل جاتے ہیں۔ نظریات میں تغیر آجاتا ہے۔ سوچنے اور فکر کرنے کے انداز میں فرق پڑ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ مذہبی عقائد بھی محفوظ نہیں رہتے۔ تصوف بھی مذہب کا ایک جزو لا ینفک ہے۔ یہ بھی محفوظ نہیں رہنے پاتا۔ تصوف کے بہت

سے اعمال و اشغال نئی ذہنیت کے لوگوں کی یا تسلی نہیں کر سکتے، یا حالات زمانہ کی وجہ سے ناممکن العمل ہو جاتے ہیں۔ یہی وقت ہوتا ہے جب بعض بزرگ توفیق و تائید الہی سے تصوف کے پرانے اعمال و اشغال میں مناسب تبدیلیاں اور ترمیم و تجدید کر کے ان کو نئے زمانے کی ذہنیت اور مقتضیات کے مطابق بنا لیتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ تبدیلیاں صرف فروعات و رسوم میں ہوتی ہیں اصول ہمیشہ وہی رہتے ہیں۔“ مزید فرماتے ہیں۔ ”طرح طرح کی ماڈرن ایجادوں اور اکتشافات نے مسلمانوں خصوصاً انگریزی تعلیم یافتہ نوجوانوں کے دماغ کو مسحور کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ قرآن اور احادیث کو نئے علوم کی روشنی میں پرکھنا اور جانچنا چاہتے ہیں۔ ان کے لئے اندھی تقلید اور ایمان بالغیب بے معنی بات ہے۔ وہ ہر بات پر کیوں؟ اور کیا؟ کا جواب چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ نماز سے کیا فائدہ؟ اگر یہ تضرع اوقات نہیں تو کیا ہے؟ روزے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اگر پیٹ کو ٹھیک رکھنے کے لئے فاقہ اچھی چیز ہے تو بھی ایک ماہ برابر فاقہ کرتے رہنا کہاں کی عقلمندی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم جو ہر وقت خدا خدا کرتے رہتے ہو اس کا کیا نتیجہ؟ یہ خدا کیا چیز ہے؟ اس کی شکل کیسی ہے؟ وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ مذہب اسلام اگر سچا ہے تو مسلمانوں پر دوسری قومیں کیوں فائق ہیں؟ اگر تمہارا مذہب دنیوی زندگی میں کامیابی کی راہیں نہیں دکھاتا تو اس سے چٹھے رہنے سے کیا حاصل؟

الغرض یہ اور ایسے کتنے ہی سوال ہیں جو انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں کے دماغ میں ابھرتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ ان کا تسلی بخش جواب نہیں پاتے تو بے دین ہو جاتے ہیں اور جو لوگ راسخ العقیدہ ہونے کی وجہ سے بے دین نہیں ہوتے کم از کم ان کا ایمان متزلزل ضرور ہو جاتا ہے اور وہ تلاش حق میں حیران و پریشان ادھر ادھر ٹامک ٹونیاں مارتے پھرتے ہیں۔

تلاش حق میں سرگرداں، روحانیت کے متلاشی تصوف کے چشمہ سے سیراب ہونے کے خواہشمندوں کی موجودہ زمانے کے اکثر و بیشتر صوفی اور پیر علوم حاضرہ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، تسلی نہیں کر سکتے لہذا آپ فرماتے ہیں۔ ”پس جس طرح ہمارے علمائے عظام کا فرض ہے کہ جہاں تک دین و شریعت کا تعلق ہے ہر طرح سے ان کی تسلی کریں ٹھیک اسی طرح ہمارے صوفیائے کرام کا بھی یہ فرض ہے کہ ان بھولے بھٹکے متلاشیان حق کو اللہ کا راستہ بتائیں۔ اسلامی تصوف سے ان کو آشنا کریں۔ ان کے اخلاق کی اصلاح کریں اور نور معرفت الہی سے ان کے قلوب کو جگمگادیں۔ لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے علماء اور صوفیاء خود ماڈرن علوم میں کامل دست گاہ پیدا کر کے موجودہ زمانے کے مقتضیات اور موجودہ نسلوں کی ذہنیت سے بدرجہ کمال واقف نہ

ہو جائیں۔ میں چونکہ خود اسی مغربیت زدہ طبقے سے ہوں اور میں نے بھی ایک عرصہ دراز تک سرگرداں و پریشان رہنے اور ہزاروں ٹھوکریں کھانے کے بعد حق کو پایا ہے اس لیے میں ان لوگوں کی ذہنیت، نظریات، انداز فکر اور طرز استدلال سے بخوبی واقف ہوں اور ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ان کی تسلی کر سکتا ہوں۔ بنا بریں میں نے محسوس کیا کہ ان گم کردہ راہ طالبوں کو راہ حق دکھانا میرا فرض ہے اگر میں نے ایسا نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا پس میں نے بھی پہلے بزرگان سلسلہ کی طرح ایک نئے سلسلے کی بنیاد ڈالی اور اس کا نام ”سلسلہ توحید“ رکھا ہے، مزید فرماتے ہیں ”موجودہ زمانے میں جتنے بھی سلسلے ہیں۔ ان سبھی میں (إِلَّا مَا خَاءَ اللَّهُ) پیر پرستی اور قبر پرستی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ اللہ تو کسی کو یاد ہی نہیں آتا۔ قبروں کو سجدے کرنا، ان سے منٹیں ماننا اس قدر عام ہو گیا ہے کہ عوام اس کو گناہ اور شرک تو کیا برا بھی نہیں سمجھتے۔ زندہ پیروں کی عزت میں اس قدر غلو برتا جاتا ہے کہ نماز کے ادب بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہزاروں پیر صاحبان اپنے پیروں سے خود اپنے آپ کو سجدے کراتے ہیں۔ اس کا نام انہوں نے سجدہ تعظیمی رکھا ہے اور اس کو جائز قرار دیا ہے۔ حالانکہ سجدہ سوائے اللہ کے اور کسی کو جائز نہیں۔ یہ لوگ قبر پرستی اور پیر پوجا میں اس قدر غرق ہو گئے ہیں کہ ان کو اللہ تو کیا رسول اللہ ﷺ بھی شاذ و نادر ہی یاد آتے ہیں۔ اور جو لوگ رسول اللہ ﷺ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے بہت زیادہ تو ایسے ہیں جو حضور ﷺ کو اللہ سے بڑھ کر نہیں تو اس کے برابر ضرور جانتے ہیں۔ آپ کو لاتعداد ایسے مسلمان ملیں گے۔ جو حضور اکرم ﷺ کو خدا کا اوتار مانتے ہیں۔ یعنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا خود رسول اکرم ﷺ کی شکل میں زمین پر اترا آیا تھا۔ حالانکہ اسلام اوتاریت کے عقیدے کو کفر بتاتا ہے۔ الغرض عقائد ہیں تو توحید کے خلاف، رسوم ہیں تو مشرکانہ۔ اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلہ کا نام ہی ”توحید“ رکھوں۔ تاکہ سلسلہ کے ہر مرید کو ہر وقت یہ بات یاد رہے کہ۔ ”میں بہ حیثیت ایک سچے مسلمان کے خالص توحید کا ماننے والا ہوں، مگر یاد رہے کہ توحید سے ہماری مراد وحدت الوجود ہرگز نہیں۔ ہماری توحید توحید سادی وہ توحید ہے جو قرآن میں بتائی گئی ہے۔“

تمام علوم کی تحصیل کے لیے ایک اُستاد و رہنما کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح تصوف کا علم ایک ہادی و مرشد کے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں سادک کی اصل منزل مقصود اللہ تعالیٰ کا قرب، دیدار اور معرفت ہے۔ قبلہ انصاری فرماتے ہیں۔ ”رہنما و ہر صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو خود منزل مقصود تک پہنچ چکا ہو اور راستے کے اتار چڑھاؤ اور پیچ و خم سے خوب واقف ہو۔ لیکن ایسے رہنما اور ہر سے بھی پورا فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو سچے طالب ہوں۔ جن

کی طلب اس قدر پختہ اور شدید ہو کہ منزل و مدعا تک پہنچنے کے لیے ہر طرح کی تکلیف خندہ پیشانی سے اٹھاسکیں اور کتنی ہی مصیبتیں پڑیں ان کے عزم و استقلال میں کمی نہ آئے۔“

راہ سلوک کے طالب کے لیے ذکر و اذکار کرنا لازمی ہے ذکر بنیاد ہے علم الہیات کے حصول کی۔ علم الہیات نام ہے اللہ کے قرب و لقاء اور اس کی معرفت کے حصول کا! علم الہیات سے عقل سلیم اور قلب سلیم پیدا ہو جاتا ہے۔ علم لدنی حاصل ہو جاتا ہے جس کے آگے پھر کسی علم کی ضرورت نہیں رہتی۔ سالک میں وہ روحانی جذبہ اور مقناطیسی کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اس کے پاس تھوڑی دیر بھی بیٹھتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے اس لیے تمام دنیاوی کام بھی ہمیشہ اس کے حسب دلخواہ انجام پاتے ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور خدا سے جو مانگتا ہے وہی ملتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا اور دوسروں کو خوش رکھتا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ خلق خدا کی اصلاح کرنا اور ان کو خدا تک پہنچانا ہے آخرت کے لحاظ سے وہ نہ بائیں والوں میں ہوتا ہے نہ دائیں والوں میں بلکہ آگے والوں میں ہوتا ہے اور ہمیشہ قرب اور لقاء الہی سے شاد کام رہتا ہے۔“

حضرت قبلہ انصاریؒ صاحب ایسی شخصیت صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے۔ ملت اسلامیہ کی تعمیر نو آپؒ کا فکر تھا۔ توحید و محبت آپؒ کا مسلک۔ اس خط الرجال کے زمانے میں رضائے رب کریم کی خاطر آپؒ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر ڈالا۔ اگر یہ کہا جائے کہ صدیوں بعد اور بالخصوص حضرت مجدد الف ثانیؒ کے بعد ملت اسلامیہ کو خالص تصوف سے روشناس کرانے والی ہستی آپؒ ہیں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اس سلسلے میں آپؒ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان تو ہیں مگر مومن نہیں۔ یوں آپؒ ایک جماعت تیار کرنا چاہتے ہیں۔ جو محض اللہ کے لیے اپنے آپ کو مسلمانوں کی بھلائی اور خدمت کے لیے وقف کر ڈالے۔ ایسی جماعت جن کے افراد بیک وقت طالبان علم و حکمت، دائم اور قائم المیل اور صائم الخمار، مجاہد و مومن، صالحین و شاکرین اور و تو اصبو بالحق و تو اصبو بالصبر کی عملی تفسیر ہوں۔

آج کے دور میں روایتی تصوف، ہندو اندر رسم و رواج اور مجوسی نظریات کا حامل نظر آتا ہے قبر پرستی، شخصی پوجا پاٹ، رہبانیت اور وجودیت کے رنگ نے اکثر آستانوں کو اپنی پلٹ میں لے رکھا ہے۔ شہنشاہ اکبر کے ایجاد کردہ دین الہی کی جھلکیاں کئی مزاروں پر نظر آتی ہیں جو تصوف اسلامی کی روح کے منافی ہیں۔ یوں اکثر پڑھے لکھے حضرات اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ تصوف اسلام (دین) میں کسی ایسی بدعت کا اضافہ ہے جو قرآن و سنہ کے منافی، خود ساختہ اور ہندووانہ مشق ہے۔ حالانکہ حقیقت یوں ہے کہ روحانی ترقی کے لیے ذکر و فکر کا وجوداً شخصور نبی

کریم ﷺ کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے اور آنحضرت ﷺ نے اپنے صحابہ کرام کو حکمت کی باقاعدہ تعلیم دی لیکن آہستہ آہستہ اس میں ایران سے جو سیانہ اور ہندوستان سے ہندووانہ رنگ شامل ہونے لگا یہی وہ رنگ ہے جس کی آپؒ نے مکمل طور پر نفی فرمائی اور توحید کو تصوف کی بنیاد خالص قرار دے کر اسے حیات نو بخشی۔“

حضرت قبلہ انصاریؒ عصر حاضر کے ہادی ملت ہیں امن و سلامتی، محبت و صداقت کے علمبردار، سکری تصوف کی بجائے تصوف صحوی عملی زندگی پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے مریدین کو علم و عمل کی ترغیب دیتے ہیں آپؒ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ”مخلصہ اور نفرت کی جھوٹی دیواریں گرا کر عالمگیر محبت اور صداقت کو اپنا شعار بنا لو عقیدہ توحید پر کاربند رہو۔ ذکر الہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو حتیٰ کہ تم کو موت آجائے، تمہیں کیا معلوم کہ اس کا صلہ کیا ہے؟ ہر دم اللہ کا ذکر کرو محض اللہ کے لیے اللہ اور اس کی مخلوق سے محبت کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ اللہ سے۔“

تصوف ہم کو دین و دنیا کی اتنی بے شمار اور نایاب نعمتیں دیتا ہے جن کا احاطہ تحریر و تقریر میں ممکن نہیں تاہم درج ذیل میں چند موٹی موٹی باتوں اور نعمتوں کا ذکر ہے جو ساکان حق کو اس مبارک علم کی بدولت نصیب ہوتی ہیں۔

(1) علم باطن:

علم باطن یا علم سریات ان چیزوں اور طاقتوں کا علم ہے جو حواس ظاہر سے معلوم و متحقق نہیں ہو سکتیں۔ ان میں وہ چیزیں خاص طور پر شامل ہیں جن پر بن دیکھے ایمان لانا آسمانی مذاہب کی اساس و بنیاد ہے مثلاً اُخذ افرشتے، آسمانی کتابیں، رسول، قیامت، حقیقت خیر و شر، حیات بعد الموت اور جنت و دوزخ وغیرہ۔ اس علم سے خدا پر ایمان اور دوسری زندگی میں جزاء و سزائے اعمال پر یقین اس قدر مستحکم ہو جاتا ہے کہ بال برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ لہذا ایسے آدمی سے دنیوی زندگی میں کوئی گناہ یا لغزش نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ صراطِ مستقیم پر چلتا رہتا ہے

(2) روحانی طاقت:

روحانی طاقت کا اظہار کرامات و خوارق کی شکل میں ہوتا ہے روحانی طاقت سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذریعے سے مہلک بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ جو لوگ واقعی کامل ہوتے ہیں ان میں اگرچہ یہ سب کچھ کرنے کی طاقت موجود ہوتی ہے لیکن وہ ان سب باتوں کو تفضیح اوقات اور حرکات طفلانہ سمجھ کر کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہاں اگر اللہ کا حکم ہو تو پھر سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے تو ان کی خاطر اپنی مشیت بدل دیتا ہے اور وہ اپنی کرامت دکھا دیتے ہیں ورنہ نہیں دکھاتے۔ ابتدائے سلوک ہی سے صوفیائے کرام کا مقصود اللہ تک رسائی ہوتا ہے، کرامتوں

کی قوت پیدا کرنا نہیں ہوتا۔ یہ ساری طاقتیں تو ان کو سلوک طے کرتے ہوئے خود بخود مل جاتی ہیں۔ اس لیے ان کے دل میں ان کی کوئی قدر بھی نہیں ہوتی۔

(3) عقل سلیم:

خدا کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے عقل بھی ایک بڑی نعمت ہے اور انسان وحشت اور بربریت کی زندگی سے تہذیب و تمدن کی موجودہ بلند یوں تک اسی کی مدد سے پہنچا ہے۔ عقل کے دو مدارج ہیں عقل صمیم اور دوسرا عقل سلیم۔ انسانی فکر جب عاجز ہونے لگتی ہے تو عقل سلیم آگے بڑھ کر رہنمائی کرتی ہے کہ جو چیز ترقی و تعمیر، بقاء، بہبود، خوشی و خوشحالی اور اطمینان و سکون کا موجب ہوتی ہے وہ خیر ہے اور جتنی چیزیں شر ہیں وہ تنزل و تخریب، ہلاکت و تباہی، فلاکت و افلاس اور انتشار و الم کا سبب بن جاتی ہیں۔ عقل سلیم سا لک کو صراطِ مستقیم پر ڈال کر ایک ایسے آستانِ قدسی تک پہنچا دیتی ہے جس میں داخل ہونے کے بعد ہر مشکل آسان اور ہر راہ ہموار ہو جاتی ہے اس آستان سے آگے کا راستہ قلب سلیم کی معیت و رہنمائی میں طے ہوتا ہے انسان کو تصوف کی بدولت جو نعمت فرشتوں سے افضل بنا دیتی ہے۔ وہ قلب سلیم ہے۔

عبادت، مجاہدہ، تزکیہ اخلاق اور ذکر و فکر کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سالک کا قلبی تعلق ساری دنیا سے قطع ہو کر صرف اللہ سے قائم ہو جاتا ہے یعنی مَصْدَقٌ وَ تَبَسُّلٌ اِلَيْهِ تَبَيُّنًا وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کا ہو رہتا ہے اللہ سے اس کی قوی نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ ہر امر میں اس کو اللہ سے براہ راست ہدایت ملنے لگتی ہے اور وہ خیر و شر کی پہچان اور اپنے حقوق و فرائض کی بجا آوری میں کبھی غلطی نہیں کرتا۔ صاحبِ قلب سلیم براہ راست اللہ کی نگرانی اور حفاظت میں آجاتا ہے اور ہر قسم کے مضرت و مہلکات سے بچا رہتا ہے، 'المختصر تصوف کی بدولت سالک برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اعمالِ صالح کی طرف از خود راغب ہو جاتا ہے۔

بانی سلسلہ عالیہ توحید یہ نے اپنے وصال شریف سے قبل سلسلہ کے تمام معاملات اپنے واحد خلیفہ و جانشین شیخ خواجہ عبدالستار خان صاحب کے سپرد کر دیئے۔ اپنے تمام مریدین سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ قبلہ عبدالستار خان صاحب کا ہر حکم اسی طرح بلا چون و چرا مانیں گے جیسا کہ خود ان کا مانتے آئے۔ بالآخر آسمانِ روحانیت کا یہ درخشندہ ستارہ انسانی اصلاح و تربیت اور تعمیرِ ملت یہ عظیم مشن قبلہ عبدالستار خان کے حوالے کر کے 23 جنوری 1977ء کو اپنے محبوب حقیقی سے جا ملا۔

قبلہ عبدالستار خان نے سلسلہ عالیہ توحید یہ کی جس محنت و جانفشانی سے آبیاری کی اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔

آپ کی ذات شفیق نے مرشد معظم کی جدائی کے غم میں ڈوبے ہوئے دلوں کو نئی زندگی عطا کی اور احبابِ حلقہ کی اس شفقت و محبت سے تربیت کی کہ آپ سلسلہ عالیہ میں شامل تمام افراد کے دلوں کی دھڑکن بن گئے۔ آپ کی محبت کی خوشبو جہاں پرانے بھائیوں کو معطر کرتی رہی وہاں ہزاروں نئے پروانوں نے بھی اس شمعِ محبت سے روشنی پائی۔

آپ نے سلسلہ عالیہ کو استحکام بخشنے میں کوئی دقیقہ فرغ نہ کیا اور خط و کتابت سے سلسلہ کے تمام مریدین کو ایسی پیار سے لبریز لٹری میں پرو دیا جو اپنی مثال آپ ہے۔ ہر مرید سے ان کی محبت اپنی جگہ مگر ایک کے سامنے دوسرے کا پیار بھرا ڈکھرا کر ہر ایک کو ایسی خوشبو میں معطر کرتا گیا کہ سب ایک مربوط اور مجسم گلشن کی صورت اختیار کرتے گئے۔

آپ سلسلہ عالیہ کے مشن کو ایک مقدس امانت کے طور پر جس طرح عزیز رکھتے تھے ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ سلسلہ عالیہ کی وسعت و رفعت اور استحکام کے لیے مصروف عمل نظر آتا ہے آپ کی سلسلے سے یہی محبت اور پاس امانت کا احساس روز اول سے ہی امانت دار کے انتخاب کے لیے کوٹھاں تھا۔ آپ کی نظر انتخاب اللہ کے حکم سے اس بندہ عاجز و مسکین پر پڑی جو دراصل آپ کی نظر شفقت و عنایت ہی ہے وگرنہ منہ آنم کہ من دانم۔ آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلسلہ عالیہ کو خوب وسعت و رفعت عطا فرمائے اور بلاشبہ حلقہ توحید یہ کی وسعت و رفعت آپ ہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ آپ ہم سب کو اس دنیائے فانی میں اٹکلبار چھوڑ کر مورخہ 14 دسمبر 1990ء جمعۃ المبارک کی شام آٹھ بجے اپنی خالق حقیقی سے جا ملے۔ قالوا انا لله وانا اليه راجعون اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر و ہمت اور اپنے پیارے مرشد معظم جیسا اعلیٰ اخلاق اور روحانیت نصیب فرمائے۔ (آمین)۔

ہزاروں سال زگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ویر پیدا

سلسلہ توحید یہ میں بیعت ہونے کے بعد سالکان راہ طریقت کو ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس اور تزکیہ اخلاق کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے جس کی بدولت ذات باری تعالیٰ کا قرب و عرفان حاصل ہوتا ہے۔

آج ملت اسلامیہ انتشار و افتراق میں گھری ہوئی ہے نوجوان اسلامی تعلیمات سے دور اغیار کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں۔ علمائے سو کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو دانستہ یا نادانستہ طور پر مسلمانانِ عالم کو اتحاد و یکجہتی کی بجائے فرعی، مسلکی، گروہی و لسانی اور فرقہ وارانہ اختلافات کا درس دیکر اپنے آپ کو کمزور سے کمزور تر کرنے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

ایک اہم سوال

دنیاۓ اسلام کے لئے وقت کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب ہمارا دین مکمل، ہمارا نبی ﷺ برحق اور ہمارا قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے تو پھر ملت اسلامیہ کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال جس قدر اہم اور ہماری توجہ کا مستحق ہے، افسوس کہ ہماری مردہ دلی اور بے حسی کی وجہ سے اس کے ایک ہزارویں حصے پر بھی غور و خوض نہیں کیا گیا۔ زندہ قوموں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی منصوبہ پورا نہ ہو، کوئی مہم ناکام رہے یا میدان جنگ میں کوئی معمولی سی فوج بھی شکست کھا جائے تو اس کے اسباب کی دریافت کے لیے بڑی بڑی تحقیقاتی کمیٹیاں بٹھائی جاتی ہیں، کمیشن مقرر ہوتے ہیں اور لاکھوں روپے صرف کر دیئے جاتے ہیں تاکہ آئندہ کے لئے ایسی ناکامیوں کا پوری طرح انسداد ہو جائے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ اس سوال پر جو ہمارے لئے موت اور زندگی کا سوال ہے، بین الملی طور پر تو کیا انفرادی طور پر بھی کما حقہ غور و فکر نہیں کیا جاتا۔ ناچ گانوں کی محفلوں پر لاکھوں روپے برباد کئے جاتے ہیں۔ محافل میلاد، مجالس عزاء اور مواعظ کے جلسوں میں موتی اور پھول برسائے جاتے ہیں۔ لوگوں کو رلایا اور ہنسایا جاتا ہے۔ علمی اجتماعات میں مناظرے اور مباحثے کئے جاتے ہیں۔ مقالات پڑھے جاتے ہیں۔ مشاعروں میں داد و ستائش کے نعروں سے آسمان سر پر اٹھالیا جاتا ہے مگر آج تک کسی محفل، کسی مجلس، کسی مشاعرے، کسی وعظ میں آپ نے اس موضوع پر بھی کچھ سنا ہے کہ ہمارے زوال اور پستی کے اسباب کیا ہیں اور کن تدابیر سے ہم اپنا کھویا ہوا مقام پھر حاصل کر سکتے ہیں؟ انفرادی طور پر البتہ جب کبھی اور جس کسی سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ہر ملک کا مسلمان اس کا یہی ایک جواب دیتا ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ جواب اپنی جگہ سو فیصد صحیح لیکن اس قدر مجمل ہے کہ سننے والے کو کوئی خاص فائدہ اس سے نہیں پہنچ سکتا۔ خصوصاً جب کہ ہر شخص اپنی جگہ پر یہ سمجھتا ہو کہ جہاں تک تعلیم قرآن پر عمل کرنے کا تعلق ہے صرف وہ اور اس کا فرقہ ہی پکا مسلمان ہے اور باقی تمام مسلمان گمراہی میں مبتلا ہیں۔

لگے ہوئے ہیں۔ ایسے میں صوفیائے کرام کا منصب جلیلہ انسانوں کو کفر والحاد، بت پرستی و شرک سے نجات دلا کر دائرہ اسلام میں داخل کرنا، خدائے وحدہ لا شریک کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرانا حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کی غلامی اور نقش قدم پر چلانا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعہ کو مسلمانوں کے دلوں میں فروزاں کرنا ہے۔

ملت اسلامیہ کی بقا کے لیے لازمی ہے کہ تمام فرقے اور جماعتیں شدید مذہبی، سیاسی اور معاشرتی اختلافات کو مٹا کر، قرآن و سنہ کی تعلیمات کو اپنائیں۔ ہمدردی، محبت و یکجہتی، اخلاص اور ایثار کے سچے جذبات کو فروغ دیں تاکہ پوری ملت اسلامیہ ایک جسم کی صورت اختیار کر لے۔ ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی کو عارضی زندگی پر ترجیح دیں اپنے اخلاق سنواریں۔ مکارم اخلاق کی تکمیل اور اسلام کی سر بلندی کو اپنا مقصود و حیات بنا لیں کہ اسی میں ہم سب کی فلاح و بقاء ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے اور ہمارے دلوں کو محبت رسول ﷺ سے مزین کر کے اللہ رب العزت کے قرب، لقاء اور دیدار سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ ثم آمین۔

خادم الخدم

غلام رسول شاہد

شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ

قرآن صرف عبادات اور ان کے متعلق احکامات ہی پر تو مشتمل نہیں۔ یہ تو ایک مکمل دستور العمل ہے حیات انسانی کا، یعنی حیات انسانی کے جتنے بھی شعبے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان سبھی کے متعلق ہدایات دے کر وہ راستہ متعین کر دیا ہے جس پر چل کر انسان دنیا میں امن و آسائش اور اطمینان و مسرت کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اب چونکہ انسانی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں اس لئے صرف یہ کہہ دینا کہ ”ہمارے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔“ ہرگز کافی نہیں بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر شعبہ زندگی میں ہم کس طرح اور کس حد تک قرآن کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بات دو چار فقروں میں تو کیا ایک ضخیم کتاب میں بھی پوری تفصیل و تشریح سے بیان نہیں ہو سکتی لیکن بالکل کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا بہر حال بہتر ہوتا ہے۔ اس لئے صفحات ذیل میں ہم نے اس سوال کا جواب دینے کی ایک معمولی سی کوشش کی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیائے اسلام میں جو حضرات حقیقی معنوں میں عالم و فاضل ہیں وہ اس سوال کا جواب دیتے اور ہر شعبہ زندگی پر مفصل اور مبسوط کتابیں لکھ کر زوال ملت کے تمام اسباب بیان فرماتے لیکن بد قسمتی سے ایسا نہیں ہوا یا کم از کم ہمارے علم کے مطابق اس کی کوئی معقول کوشش اب تک نہیں کی گئی۔ اس لئے باوجود اپنی علمی کم مائیگی کے محض فرض کفایہ سمجھ کر ہم نے خود اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم اپنی کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں اور ملت کو اس کتاب سے کچھ فائدہ پہنچے گا یا نہیں؟ لیکن اتنی امید ضرور ہے کہ ہماری اس ناچیز کوشش کو دیکھ کر ارباب علم و دانش اس طرف متوجہ ہوں گے اور حقیقتاً اچھی اچھی کتابیں لکھ کر اس کام کو مکمل کر دیں گے جو ایک زمانہ سے تشنہ تکمیل پڑا ہوا ہے۔

کسی خطہ زمین کے باشندے انفرادی طور پر کتنے ہی خوشحال کیوں نہ ہوں جب تک وہ ایک جماعت کی شکل میں منظم اور مربوط نہ ہو جائیں اور ذاتی فوائد کو اجتماعی منافع پر قربان کرنا نہ سیکھ لیں تمدنی ترقی نہیں کر سکتے اور دوسری منظم اور طاقتور اقوام کی دست برد اور ظلم و ستم سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لئے ہم نے اس کتاب میں سب سے پہلے اجتماعیت کے وہ قرآنی اصول بیان کئے ہیں جن پر عمل کر کے رسول خدا ﷺ کے صحابیوں کی مبارک جماعت نے قلیل ترین عرصہ میں وہ شاندار ترقی کی جس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ پھر یہ بتایا ہے کہ ان قرآنی اصولوں سے انحراف اور روگردانی کس طرح ہمارے موجودہ متزلزل کا باعث ہوئی۔ اس کے بعد اسلامی عقائد، عبادات اور معاملات یعنی حقوق اور اخلاق و آداب کا بیان کیا گیا ہے۔

اسلامی عقائد چونکہ سبھی غیب سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کا حکم ہے کہ غیب پر بغیر دیکھے ایمان لے آؤ لیکن

باوجود ازیں کچھ آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان غیبی امور کو عقل سے سمجھ کر یا آنکھوں سے دیکھ کر ان کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں اور یہ کام علم تصوف کا ہے۔ اس لئے کچھ ضروری بیان تصوف کا بھی کیا گیا ہے۔ اس بیان میں یہ بتایا گیا ہے کہ موجودہ تصوف اور حقیقی اسلامی تصوف میں کیا فرق ہے۔ قرآن سے تصوف کی کیا سند ہے۔ رسول اکرم ﷺ اس کے متعلق کیا سکھاتے تھے۔ پہلے زمانے کے اولیاء عظام اور صوفیائے کرام نے کفار کو مسلمان بنانے اور مسلمانوں میں ایمان کامل اور اخلاق محمدی پیدا کرنے کے لیے کیا کچھ کیا اور بعد کی صدیوں میں تصوف کے جھوٹے دعویداروں اور جاہل صوفیوں نے اس مبارک علم کی کیسی مٹی پلیدی اور ملت اسلامیہ کو کس قدر نقصان پہنچایا۔ تصوف کے ضمن میں مبداء اور معاد کا ذکر بھی آ گیا ہے یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی روح انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھی۔ اس میں کیا کیا صفات تھیں۔ وہ اپنی اصلی جگہ سے کس شکل میں چلی اور کن کن مقامات سے گزرتی ہوئی جسد انسانی تک پہنچتی ہے۔ وہ نیک اور بد اعمال سے کس طرح متاثر ہو کر کثیف یا لطیف بنتی ہے۔ مرنے کے بعد کس طرح سفر آخرت طے کرے گی اور کن کن عوالم سے گزرتی ہوئی دوزخ یا جنت میں اپنے مستقر تک پہنچے گی۔ اسی سلسلے میں جبر و قدر کے مسئلہ پر بھی کچھ روشنی ڈالی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن اولیٰ کے مسلمانوں نے تقدیر کو ماننے کے باوجود اس قدر شاندار ترقی کی اور قرون آخری کے مسلمان تقدیر کو ماننے کی وجہ سے کیوں ذلیل و خوار ہو گئے۔

عبادات کے بیان میں طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کا ذکر ہے اور یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ اسلامی عبادات افراد کے اعمال و کردار پر کیا نفسیاتی اور روحانی اثر ڈالتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ایک ایسی طاقتور جماعت بن جاتے ہیں کہ دنیا کا اور کوئی نظام اجتماعی ان کا پاسنگ بھی ثابت نہیں ہو سکتا اور کس طرح ایک انسان ان عبادات کو پوری طرح اختیار کر لینے سے ابدی مسرت و اطمینان کے ان خزانوں پر قابض ہو جاتا ہے جہاں فلسفہ، سائنس یا کسی اور علم کا ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا۔

معاملات کے بیان میں اجتماعی اور روزمرہ زندگی کے تمام حقوق العباد اور اخلاق و آداب کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان پر قرآنی تعلیم و ہدایت کے مطابق عمل کرنے سے کس طرح انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تکمیل ہوتی ہے اور کس طرح ایسے افراد اور ان کی قوم دنیا و آخرت دونوں میں فائز المراد ہو سکتے ہیں۔

سب سے آخر میں ساری کتاب کا ایک مختصر سا خلاصہ دیا گیا ہے تاکہ جو لوگ ایک مرتبہ تمام کتاب کو پڑھ لینے کے بعد عام استفادہ کی نظر سے کتاب کی روح کو معلوم کرنا چاہیں تو بار بار اس خلاصہ کو پڑھ کر اپنا مقصد حاصل کر سکیں۔

اس قسم کی تصنیفات خصوصاً تصوف وغیرہ کی جتنی کتابیں اب تک لکھی گئی ہیں، ان کا طرز بیان، موضوع کی دشواری اور اصطلاحات کی گرانباری کی وجہ سے اس قدر مشکل ہوتا ہے کہ پڑھنے والے پریشان ہو جاتے ہیں اور پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لئے ہم نے اس کتاب میں نہایت آسان اور سلیس زبان لکھی ہے۔ حتیٰ کہ تصوف جیسے خشک مضمون کو بھی ایسے آسان اور دلکش انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ قارئین کا دل نہ اکتائے اور مطلب آسانی سے ذہن نشین ہو جائے۔

یہ کتاب تمام عالم اسلام کے لیے ہے لیکن اردو میں ہونے کی وجہ سے ہمارے مخاطب علی الخصوص پاکستان کے مسلمان ہیں۔ پاکستان ایک نوزائیدہ ملک ہے اور اس دعوے کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ یہاں صرف قرآن اور سنت کے مطابق حکومت کی جائے گی۔ دنیا میں اب تک بیسیوں طرز حکومت آزمائے جا چکے ہیں لیکن کوئی طرز حکومت بھی انسان کو من حیث الکل مطمئن نہیں کر سکا۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ انسان کو سو فیصد مطمئن کرنے اور خوشحال و فارغ البال رکھنے والا طرز حکومت صرف وہی ہے جس کے اصول قرآن میں بتائے گئے ہیں۔ اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے چودہ سو برس تک جن مختلف ممالک پر حکومت کی ان کے عوام ہی کب خوش رہے۔ علاوہ ازیں تمہارے اسلامی ممالک خود آپس ہی میں ہمیشہ لڑتے اور خونریزیوں کرتے رہے۔ اس لئے تمہارا دعویٰ باطل ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ درحقیقت قرآنی اصولوں کے مطابق حکومت تو صرف رسول پاک ﷺ کے زمانے سے حضرت عمرؓ یا زیادہ سے زیادہ خلافت راشدہ تک ہی رہی ہے اور اس زمانہ میں نہ صرف ممالک اسلامی بلکہ ان ملکوں کے عوام بھی ہر طرح خوش رہے جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن خلافت راشدہ کے بعد جتنی بھی اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں وہ قرآنی اصولوں کے مطابق نہ تھیں۔ اس لئے ان حکومتوں میں عوام کو وہ امن و سکون میسر نہ ہوا جس کی تلاش میں اہل دنیا ہمیشہ سے سرگرداں و پریشان ہیں۔ لہذا اب ہم پاکستانی مسلمان محض کتاب و سنت کے مطابق ایک نظام حکومت قائم کر کے دنیا پر ثابت کر دیں گے کہ صرف وہی طرز حکومت جو قرآن نے بتایا اور رسول خدا نے قائم کر کے دکھایا دنیا کی فلاح و بہبود کے لئے ممکن ہے۔ یہ بظاہر چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے لیکن دعویٰ اپنی جگہ پر قائم ہے اور وہ ملک جو اس دعوے کے تحت بنایا گیا ہے، موجود ہے۔ اس لئے ”اے پاکستانی مسلمانو! اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ یہ بات تمام دنیا کے لئے ایک نیا تجربہ ہے اور تمام اسلامی وغیر اسلامی ممالک کی آنکھیں تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں اور وہ سب تمہارے اس دعوے کی صداقت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تم سچے ثابت ہوئے تو معلوم

ہے کیا ہوگا؟ امکان نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کی بھاری اکثریت صداقت قرآن کی قائل اور تعلیم قرآن پر عامل ہو جائے گی لیکن اگر تم ناکامیاب رہے تو ساری دنیا میں تمہارا، تمہارا نہیں خدا اور رسول ﷺ کا مذاق اڑے گا اور اس کی سزا میں تم اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو گے اور آخرت میں سخت عذاب کی طرف لوٹا دیئے جاؤ گے۔“

قیام پاکستان کو کافی عرصہ ہو گیا۔ اب تک ہم نے کیا کیا ہے؟ اس پر پورا تبصرہ تو ممکن نہیں اتنا یقینی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد یہاں کے باشندوں میں نماز کا چرچا بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ جو مرد اور عورتیں گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں ان کے علاوہ مساجد بھی عام طور پر ہر جگہ نمازوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اکثر امراء اور حکام بھی موٹروں میں بیٹھ کر آتے اور اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ روزوں کی پابندی اور رمضان کی رونق بھی پہلے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں اور حج کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور حصول دولت کے لئے عمل کی قوت میں بھی بے اندازہ ترقی ہوئی ہے اور بے عملی، سستی اور کابلی کی تباہ کن عادتیں رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہیں لیکن جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں ہمارے پاکستانی بھائیوں نے بالکل ترقی نہیں کی بلکہ الٹا منزل ہوا ہے۔ حالانکہ یہی وہ کسوٹی ہے جس پر غیر مسلم قرآن کی تعلیم اور رسول خدا کے اسوۂ حسنہ کو جانچتے، پرکھتے اور اسلام کے متعلق رائے قائم کرتے ہیں۔ یہ لوگ تمہاری نماز اور روزوں کو ہرگز نہیں دیکھتے۔ وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کاروبار اور معاشرتی معاملات میں تم ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہو۔ یہ لوگ تمہارے اخلاق کے متعلق بہت بُری رائے رکھتے ہیں اور سب قرآنی تعلیم کو ٹھہراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام آداب مجلس میں بالکل کورے ہیں۔ بول چال میں ان کی زبان نالام، لہجہ سخت اور حرکات و سکنات درشت ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی مسلمانوں کو راستہ تک چلنے کی تمیز نہیں ہے۔ راستے میں ہر وقت تھوکتے ہیں، پھلوں کے چھلکے پھینکتے ہیں، چلتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، حتیٰ کہ بچوں اور خواتین کا بھی لحاظ نہیں کرتے، بسوں اور ٹرینوں میں سوار ہوتے وقت ان کو قوتارتک بنانا نہیں آتی۔ چلتے چلتے لڑ پڑنا، گالیاں بکنا اور ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جانا ان کی عام عادتیں ہیں جو پاکستان کے ہر شہر میں عام راستوں پر ہر وقت نظر آ سکتی ہیں۔ ان لوگوں کو ہم پاکستانیوں کی بددیانتی کا بھی بہت شکوہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی نوکر بے انتہا بے ایمان ہوتے ہیں۔ ہم

قرن اول میں مسلمانوں کی ترقی

مسلمانوں کے زوال کی وجوہات معلوم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرن اول میں ان کی ترقی کے اسباب دریافت کئے جائیں اور دیکھا جائے کہ وہ کون سے اصول تھے جن پر عمل کر کے اس زمانہ کے مسلمانوں نے ترقی کی تھی اور یہ کہ اس زمانہ میں بھی ہم ان اصولوں پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ جب ہم اس نظر سے تاریخ اسلامی کے پہلے باب پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سروردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ملک عرب دنیا کا سب سے کمزور، جاہل اور پسماندہ ملک تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سو برس کے اندر اندر عربوں نے دنیا کے بہترین آدھے حصے پر قبضہ کیا اور باقی آدھے پر اپنی سیادت قائم کر لی جس طرح آج امریکہ اور یورپ کے چند ممالک نے قائم کر رکھی ہے۔ عربوں نے ان ملکوں پر قبضہ ہی نہیں کیا بلکہ اس نئی تہذیب کو بھی وہاں پھیلایا جو قرآن کی تعلیم سے وجود میں آئی تھی۔

تاریخ عالم کا یہ واقعہ ایسا عجیب ہے جس کی مثال موجود نہیں۔ یورپ کے اکثر مورخین اور محققین نے اس ترقی کے اسباب کی تحقیق و تلاش میں عمریں صرف کر دیں لیکن یہ لوگ چونکہ فخر کائنات کی روحانیت اور صداقت کے قائل نہیں تھے اس لئے انہوں نے قرآنی تعلیم کے صرف نفسیاتی پہلو پر نظر کی اور وہ اصول معلوم کر لئے جو اس بظاہر سیدھی سادھی تعلیم میں اس طرح چھپے ہوئے ہیں جیسے درختوں کے رگ و ریشہ میں پانی اور حق تو یہ ہے کہ یورپ کی ترقی کے بنیادی اصول وہی ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر قرن اول کے مسلمانوں نے ترقی کی تھی۔ برخلاف ازیں جب خود مسلمان اپنے قرن اول کی تاریخ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس محیر العقول ترقی کے اسباب معلوم کریں تو ان کی آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تابناکیوں یعنی معجزات و خوارق عادات سے خیرہ ہو کر رہ جاتی ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ نفسیاتی لحاظ سے اس تعلیم میں وہ کونسی طاقتیں پوشیدہ ہیں جو مردوں کو زندہ اور زندوں کو زندہ جاوید بنا دیتی ہیں۔ ہمارے خیال میں یورپ میں مادی فروغ اور روحانیت کے فقدان کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس نے تعلیم اسلام کا مطالعہ روحانی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ مادی عینک لگا کر کیا ہے۔ اسی طرح موجودہ مسلمانوں کے زوال کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ روحانی کرشمہ سازیوں کی روشنی میں کرتے ہیں مادی اور نفسیاتی افادیت کے خیال سے نہیں کرتے۔

ہر قوم کو ذہنی قابلیت کے لحاظ سے کم از کم تین حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ طبقہ اعلیٰ، طبقہ اوسط اور طبقہ

ان سے سودا مگائیں تو ایک روپیہ کے دو روپیہ وصول کرتے ہیں اور اگر بازار سے خود جا کر لیں تو پاکستانی ڈکاندار ایک چیز کی قیمت دس روپیہ مانگتے ہیں اور آخر میں جحت اور بک بک جھک جھک کے بعد وہی چیز دو روپیہ میں دے دیتے ہیں۔ اگر یہاں کے سودا گروں سے کوئی بڑا سودا کیا جائے تو بے ایمانی اور بھی بڑی کرتے ہیں۔ ان کو اپنی زبان اور اپنے وعدوں کا بالکل لحاظ نہیں ہوتا۔ نمونہ کچھ دکھاتے ہیں، دیتے کچھ اور ہیں۔ حتیٰ کہ جو سامان غیر ممالک کو بڑی مقدار میں بھیجا جاتا ہے اس میں بھی یہی بے ایمانی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے باہر کی منڈیوں میں ان کی ساکھ کم ہو رہی ہے۔ جو غیر ملکی حضرات قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام کی سادگی، صداقت اور آسانوں کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ جب اسلامی ممالک میں اپنے دینی بھائیوں کو دیکھنے آتے ہیں تو سخت مایوس ہوتے ہیں۔ ہم نے ایسے کئی حضرات کو گوش خود کہتے سنا ہے کہ ”ہم تو قرآن کی تعلیم کو دیکھ کر ایمان لے آئے مگر جب یہاں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ مسلمان تو شرافت اور اخلاق حسنہ کے نام سے بھی واقف نہیں اور ہم اب یہ غور کر رہے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر کے غلطی تو نہیں کی۔“

ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے عموماً اور پاکستان کے مسلمانوں سے خصوصاً یہ مخلصانہ استدعا کرتے ہیں کہ عبادت کی پابندی کے ساتھ آپ اپنے اخلاق کو زیادہ سے زیادہ سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش کریں تاکہ اقوام عالم اسلام کے متعلق غلط رائے قائم نہ کر سکیں اور آپ کو اس کے لئے اللہ کے سامنے جواب نہ دینا پڑے۔

اب ہم آئندہ صفحات میں اس سوال کا جواب پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو شروع میں لکھا جا چکا ہے یعنی جب ہمارا دین مکمل، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق اور ہمارا قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے تو پھر ملت اسلامیہ کے زوال کی وجہ کیا ہے؟



ادنی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ترقی دینا چاہتا ہے تو اس میں ایک ایسا آدمی پیدا کر دیتا ہے کہ طبقہ اول کی غالب اکثریت دل و جان سے اس کی پیروی بن جاتی ہے۔ اب یہ لوگ اسی کی ہاں پر ہاں اور نہیں پر نہیں کہتے ہیں، اسی کے اٹھائے اٹھتے اور بٹھائے بیٹھتے ہیں، اسی کے اشاروں پر جیتے ہیں اور اسی کے حکم پر مر جاتے ہیں۔ اس طرح ایک ایسی منظم جماعت وجود میں آتی ہے جو اپنے اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کی وجہ سے ساری قوم میں ہر دل عزیز اور معزز بن جاتی ہے۔ طبقہ اوسط کی اکثریت اس جماعت کی ہر طرح تقلید اور مدد کرتی ہے اور طبقہ ادنیٰ کی تعداد کثیر بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے لگتی ہے۔ اس طرح پوری قوم میں ایک انقلاب آ جاتا ہے۔

قوم عرب کے طبقہ اعلیٰ کی قیادت اللہ تعالیٰ نے سرکارِ دو عالم محمد رسول اللہ ﷺ کے سپرد کی تھی۔ آپ ﷺ ایک طرف تو ذاتی شرافت، اخلاق اور دانائی کی وجہ سے افضل البشر تھے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو وحی کے ذریعے وہ تعلیم دی تھی جو نہ صرف قوم عرب بلکہ تمام جہاں کے باشندوں کی فلاح و بہبود اور آئندہ امن و ترقی کے لیے ضروری تھی۔ حضور ﷺ چونکہ آخری نبی اور قرآن چونکہ آخری آسمانی کتاب ہے اس لئے اس میں دنیا اور عقبی دونوں کے متعلق وہ تمام طریقے بیان کر دیئے گئے ہیں جو قیامت تک نوع انسان کی دنیاوی ترقی اور نجات اخروی کے لیے ضروری ہیں۔ یہ سچ ہے کہ قرآن میں صرف اصول بیان کئے گئے ہیں، تفصیلات نہیں دی گئیں لیکن قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہی یہ ہے کہ انسانی دماغ پستی یا بلندی کی کسی حد تک پہنچ جائے، یکسی ہی ایجادات ہو جائیں، انسان اڑ کر دوسرے ستاروں میں جا پہنچے، امن و امان سے زندگی گزارنے، دنیاوی ترقی کرنے اور مرنے کے بعد دوسرے جہاں میں آرام و آسائش حاصل کرنے کے جو اصول قرآن میں بتائے گئے ہیں وہ ہمیشہ صحیح رہنمائی کرتے رہیں گے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیاوی ترقی کے لئے قرآن میں وہ کون سے اصول بتائے گئے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر اس جماعت نے ترقی کی جس کو رسول خدا ﷺ نے خود مرتب اور منظم کیا تھا۔ اس جماعت میں حضور ﷺ کے صرف وہ صحابی شامل تھے جو آپ ﷺ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ کی صحبت اور تعلیم سے اور اور کی نسبت زیادہ فیضیاب ہوئے تھے۔ ان صحابہ کبار کی تعداد چند سو نفوس سے زیادہ نہ تھی لیکن یہی وہ طبقہ اعلیٰ تھا جو تمام عرب کا دل و دماغ تھا۔ طبقہ اوسط میں وہ لوگ شامل تھے جو خدا پر کامل تو نہیں مگر اچھا ایمان رکھتے تھے اور قرآنی احکام کی طبقہ اعلیٰ سے کچھ کم مگر طبقہ ادنیٰ سے بہت زیادہ پابندی کرتے تھے۔ طبقہ ادنیٰ میں تین قسم کے آدمی تھے۔ ایک وہ جو اگرچہ صدق دل سے مسلمان ہوئے تھے لیکن ایمان و عمل

میں کمزور تھے۔ دوسرے وہ جو سطوت و شوکت اسلامی کو دیکھ کر مجبوراً یا لالچ سے مسلمان ہوئے لیکن آخر میں سچے دل سے اسلام لے آئے۔ تیسرے وہ جو محض منافق اور درپردہ اسلام کے دشمن تھے مگر حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت تک ان کی کچھ پیش نہ گئی اور وہ جماعت وجود میں آگئی جو اجتماعیت کے تمام اصولوں پر ہر لحاظ اور ہر زاویہ سے پوری اترتی تھی۔ وہ اصول کیا تھے؟ یوں تو اس جماعت کے افراد قرآن کے تمام احکام پر ہی سختی سے عمل کرتے تھے مگر ہم یہاں صرف ان اصولوں کا ذکر کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے جماعت بندی کے ذریعے سے قومی ترقی کے لیے قرآن میں مقرر فرمائے ہیں۔ یہ اصول پانچ ہیں۔

۱۔ ایمان۔ یعنی یقین محکم

۲۔ اتحاد۔ یعنی باہمی محبت اور اخوت

۳۔ رابطہ۔ یعنی تنظیم

۴۔ اطاعت۔ یعنی ضابطہ کی پابندی (یا ڈسپلن)

۵۔ عمل۔ یعنی کام کرنے کی بے پناہ قوت اور اس کا استعمال

یہ پانچ باتیں ایسی ہیں کہ جب تک منتشر افراد کے کسی گروہ میں اکٹھی نہ ہو جائیں وہ جماعت کی شکل میں منظم نہیں ہو سکتا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جس قدر کسی جماعت کے افراد ان اصولوں پر سختی سے عمل کرتے ہیں اتنی ہی وہ جماعت مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے۔ اب ہم ان اصولوں کا بیان الگ الگ اور کسی قدر تفصیل سے کرتے ہیں۔

ایمان

ہر جماعت کی بنیاد چند ایسے عقلی، ذہنی، وجدانی، روحانی یا الہامی نظریات و معتقدات (beliefs & ideologies) پر قائم ہوتی ہے جن پر اس جماعت کے ہر فرد کو بدرجہ مسلمات یقین و وثوق ہوتا ہے۔ یہ یقین و وثوق جس قدر پختہ اور کامل ہو اسی قدر یہ جماعت زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوگی یعنی باقی چار اصولوں پر زیادہ سختی اور پابندی سے عمل کرے گی۔ صحابہ کبار کی جس جماعت کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ اس کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ ہے۔ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لئے پیدا کیا ہے۔ یہ ہدایات وحی کے ذریعے نازل ہوئی تھیں جن کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ اس عقیدے کے بظاہر تین حصے ہیں۔ اللہ، رسول ﷺ اور قرآن لیکن اصل اس کی صرف اللہ ہے کیونکہ اسی نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو پیدا کیا اور اسی نے قرآن حکیم نازل فرمایا۔ اس لئے اس

عقیدے کی اساس اللہ اور صرف اللہ ہے جو ذات و صفات میں ہر لحاظ سے یکتا اور اپنی مخلوق پر ہر طرح قادر ہے۔ اسی وجہ سے اس عقیدے کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔

توحید

تاریخ شاہد ہے کہ جس قوم نے عقیدہ توحید اختیار کیا وہ اتنی جلدی ترقی کر گئی کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ مثال کے طور پر آریہ سماجی فرقے کو دیکھئے جو پچھلی ہی صدی میں پیدا ہوا۔ یہ فرقہ ایک خدا کو ماننے کا مدعی ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس فرقے کی توحید اسلامی توحید کے مقابلہ میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی جتنی سونے کے مقابلہ میں پتیل۔ کیونکہ یہ لوگ خدا کو قادر و قیوم مانتے ہوئے خدا کے ساتھ روح اور مادے کو بھی ازلی اور ابدی مانتے ہیں۔ باوجود ازیں اس نقلی توحید کے عقیدے نے بھی ہزاروں سال کے سوائے ہونے ہندوؤں کو بیدار کرنے اور ان میں اتحاد و عمل کی روح پھونکنے میں جو مدد دی ہے وہ ان ارباب نظر و فکر سے پوشیدہ نہیں جنہوں نے ہندوؤں کی موجودہ بیداری کے اسباب پر غور کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس عقیدے میں وہ کون سی طاقت پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے یہ جماعتی اور قومی ترقی میں اس قدر سریع الاثر اور قوی العمل ثابت ہوتا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اول تو یہ کہ جو چیز ہمیشہ نظر کے سامنے رہے اس کی عظمت و وقعت دل سے جاتی رہتی ہے۔ اللہ چونکہ نظر نہیں آتا اس لئے اس کی عظمت کبھی کم نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ کہ جو چیز سامنے رہتی ہے انسان اس کی صفات و عادات اور ماہیت سے رفتہ رفتہ واقف ہو جاتا ہے۔ اللہ چونکہ نظر نہیں آتا انسان اس کی ذات و صفات کی حقیقت سے کما حقہ کبھی بھی واقف نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ہمیشہ خوف و رجا کی حالت میں رہتا ہے جس کی وجہ سے نہ تو بے پروا ہونے پاتا ہے نہ ناامید۔ تیسرے یہ کہ اللہ کو ماننے والا جانتا ہے کہ کفار و مشرکین کے معبودان باطل بھی اللہ ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اس لئے وہ نہ تو ان معبودوں سے ڈرتا ہے نہ ان کے ماننے والوں سے اور بدیں و جان کے مقابلہ میں ہمیشہ زبردست رہتا ہے۔ چوتھے یہ کہ مومن چونکہ سوائے اللہ کے نہ تو کسی کے آگے سر جھکاتا ہے نہ کسی سے مدد کی امید رکھتا ہے اس لئے اس کی ذہنیت کبھی غلامانہ نہیں ہو سکتی۔ پانچویں یہ کہ اللہ کو ماننے والوں کی قوت عمل کبھی کم یا مفقود نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ خود آکر کسی کام نہیں کرتا بلکہ صرف عمل کرنے والوں کی نصرت و مدد فرماتا ہے۔ اس لئے وہ اس کی نصرت کی امید پر مصروف عمل رہتے ہیں اور اپنی کامیابی پر ہمیشہ یقین رکھتے ہیں۔ برخلاف ازیں جو لوگ ارباباً من دون اللہ یعنی (غیر اللہ) مثلاً کاہن، عامل، رماں، جوشی اور جھوٹے

پیروں فقیروں کو مانتے ہیں۔ وہ چونکہ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے موجود دیکھتے ہیں اس لئے خود عمل نہیں کرتے بلکہ یہ سمجھ کر بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے تعویذ، گنڈے یا کسی کی دعا سے خود ہی سب کام ہو جائیں گے، ہم کو مشقت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح ان کی قوت عمل بالکل جاتی رہتی ہے۔ چھٹا سبب روحانی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے قلب میں ایک ایسی حرارت اور برقی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس کے جوش میں وہ بڑی سے بڑی مشقت اور مصیبت کو بھی ہستے کھیلنے برداشت کر لیتے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں۔ ساتویں یہ کہ ان مومنوں کو چونکہ یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے حکموں پر عمل کرتے رہے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور اُس جہان میں بھی ہم کو اچھی سے اچھی جہنمیں اور لازوال نعمتیں میسر آئیں گی۔ اس لئے وہ اس کے راستے میں کسی ایثار و قربانی سے منہ نہیں موڑتے۔ وہ اپنے مال و دولت کی آخری کوڑی صرف کرتے وقت بھی یہ نہیں سوچتے کہ کل کھانے کو کہاں سے آئے گا۔ مال و دولت کا تو ذکر ہی کیا جان بھی دینی پڑے تو اس خوشی سے دیتے ہیں گویا پردیس سے اپنے وطن جا رہے ہیں۔ برخلاف ازیں جن لوگوں کے نظریات و عقائد کی بنیاد ایسی ہستیاں ہوں جن کے عیوب و نقائص عقلاً ثابت ہو سکتے ہوں یا جن کی شکست و ریخت آنکھوں سے نظر آ سکتی ہو ان پر جب اپنے معبودوں کے نقائص ظاہر یا ثابت ہو جائیں یا جب وہ چشم خود ان کو فنا ہوتے دیکھ لیں تو ان کا عقیدہ کسی طرح قائم نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ جب کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو ان لوگوں کا یقین ختم اور اجتماعی قوت فنا ہو جاتی ہے۔ توحید پرست مسلمانوں کو جب بھی بت پرست اور مشرک اقوام سے واسطہ پڑا یہی نتیجہ نکلا۔ ہندوستان میں مسلمان حملہ آوروں کی مٹھی بھر فوجوں نے ہندوؤں کے لاتعداد لشکروں کو کیوں شکستیں دیں۔ محض اس وجہ سے کہ دہلی، متھرا، کانگڑہ اور سومات وغیرہ میں اپنے معبودوں کو تباہ ہوتے دیکھ کر ان کی بنیادی عقیدہ فنا اور ان کی اجتماعی قوت ختم ہو چکی تھی۔ جب تک مسلمانوں میں توحید پرستی باقی رہی وہ کہیں اور کبھی مغلوب نہ ہوئے لیکن جیسے جیسے یہ ایمان کم ہوا وہ بھی کمزور ہوتے گئے اور جب توحید پرستی کی جگہ ان میں اشخاص پرستی، پیر پرستی، قبر پرستی، تعزیہ پرستی، زر پرستی، حکام پرستی اور دیگر پرستیاں پیدا ہو گئیں تو اللہ نے بھی ان کی طرف سے منہ موڑ لیا اور بہت سی ذلت کے اس غار میں چھوڑ دیا جہاں پڑے ہوئے وہ آج اغیار کا منہ تک رہے ہیں۔ بہر حال یہ تو تھی محض ایک نفسیاتی توجیہ حقیقت یہ ہے کہ جن کو اللہ پر واقعی یقین کامل ہوتا ہے وہ یقیناً اس کی محبت اور شفقت کو دل سے محسوس کرتے اور اس کی امداد و نصرت کو آنکھوں سے نازل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کیسی ہی مصیبتیں پڑیں ان کے پائے استقلال کو لغزش

نہیں ہوتی۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مصائب ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ ان کے کردار کو پختہ اور کامل بنا کر اپنی نعمتوں کا اتمام کرنے کے لئے نازل فرماتا ہے۔ اس ایمان کی وجہ سے ان کے دلوں میں اطمینان و مسرت کے وہ سمندر ٹھاٹھیں مارتے ہیں جن کے سامنے دنیا کے تمام مصائب و آلام پر کاہختی بھی وقعت نہیں رکھتے۔ پچھلے اقران و ادوار کا تو کہنا ہی کیا۔ اس گئے گزرے زمانہ میں بھی جب کبھی کفر و شرک کا مقابلہ کسی توحید پرست سے ہوا ہے تو دنیا اس کے عمیر العقول کا رنامے دیکھ کر انکشت بدنداں رہ گئی ہے۔ ہم آپ کو ایک توحید پرست مومن کا سچا واقعہ سناتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ توحید پر ایمان کسے کہتے ہیں اور اس کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ایک سکھ کی زبانی ہے اور اسی کے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔

”ستمبر ۱۹۴۷ء میں جب ہم نے اور ہندوؤں نے مسلمانانِ دہلی کے قتل عام کا فیصلہ کیا تو ہم نے یہ دستور بنالیا کہ دس دس بیس بیس مسلح آدمیوں کی ٹولیوں میں مضافات دہلی میں نکل جاتے اور جو مسلمان نظر آتا اسے تہ تیغ کر دیتے۔ بیس پچیس دن تک یونہی ہوتا رہا لیکن بعد میں جیسے جیسے دن گزرتے گئے شکار ملنا کم ہوتا گیا اور اکثر جتھے خالی واپس آنے لگے۔ ایک دفعہ رات کے وقت ہم لوگ واپس آ رہے تھے کہ شہر میں کپنی باغ کے نزدیک ایک مسلمان ملا، بہت دہلا پتلا اور کمزور سا انسان تھا۔ لمبا قد، کالا رنگ، منہ پر چگی داڑھی، ایک میلا سا تہبند باندھے اور کھدڑکی میلی سی قمیض پہنے ہوئے تھا۔ ہم نے اسے ٹھہرا لیا اور کہا چل ہمارے ساتھ۔ بولا کہاں؟ ہم نے کہا۔ تجھے قتل کریں گے۔ پوچھا۔ میرا کیا قصور ہے؟ جواب میں کوئی بولا تو مسلمان ہے یا نہیں؟ جواب دیا۔ الحمد للہ! ہم نے کہا۔ بس اسی لئے تجھ کو قتل کریں گے۔ کہنے لگا۔ اچھا یہ بات ہے! چلو۔ اس سے اچھی موت اور کیا ہوگی۔ چنانچہ ہم اسے کپنی باغ میں لے گئے۔ وہاں پہنچ کر کسی نے کہا۔ میاں صاحب جان بچانا چاہو تو بچ بھی سکتی ہے۔ پوچھا۔ کس طرح؟ میں نے جواب دیا کہ سکھ ہو جاؤ تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ (مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سمجھا نہیں) کہنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں بولا۔ مطلب یہی کہ اپنا دین چھوڑ کر ہمارا مذہب قبول کر لو۔ یہ سنتے ہی اس آدمی میں ایک عجیب تبدیلی پیدا ہوئی۔ چہرہ سرخ انگارہ ہو گیا اور پہلی مرتبہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ آنکھوں سے شرارے اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ گرج کر بولا۔

”میں..... تمہارا مذہب..... کافر کے بچے میں مسلمان ہوں مسلمان!“ میں، تم سے کہتا

ہوں کہ ”تم“ مسلمان ہو جاؤ ورنہ مار مار کر ڈھیر کر دوں گا۔“ یہ سن کر ہم سب اس کا مذاق اڑانے لگے اور ایک سردار جی کرپان لے کر قتل کے ارادے سے آگے بڑھے۔ ابھی وہ دو قدم بھی نہ جانے پائے تھے کہ ایک بجلی سی کوندی۔ وہ مسلمان اُچھلا اور ایک ہی جست میں خالصہ جی کے ہاتھ سے کرپان چھین کر کوئی دس گز کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا اور کہنے لگا۔ لو اب آؤ۔ دیکھوں کون مجھے سکھ بناتا ہے۔ بڑھونا.....! منہ کیا دیکھ رہے ہو..... بزدل کہیں کے.....! یہ سنتے ہی ہم سب نے مل کر اس پر حملہ کر دیا لیکن ہم ابھی دور ہی تھے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کر پھر اچھلا۔ ہماری آنکھیں جھپک گئیں۔ دیکھا تو دوسکھ زمین پر تڑپ رہے تھے۔ ابھی ہم سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ اللہ اکبر کہہ کر اس نے پھر حملہ کیا اور ایک سکھ کو ختم کر گیا۔ اب ہم کو بھی غصہ آیا۔ ست سری اکال کا نعرہ مار کر ہم نے بھی حملہ کر دیا اور کوشش کی کہ چاروں طرف سے گھیر کر اسے ختم کر دیں مگر وہ تو بجلی تھا۔ قریب ہی نہ آنے دیتا تھا۔ اللہ اکبر کہہ کر حملہ کرتا اور ہر وار میں ایک دو آدمی زمین پر گر جاتے۔ نعروں کی آواز سن کر بہت سے سکھ قریب کے مکانوں سے نکل آئے اور حملوں میں ہمارے شریک ہو گئے مگر وہ قابو میں نہ آیا۔ کوئی آدھ گھنٹہ لڑائی رہی اور ہمارے کئی آدمی مارے گئے۔ آخر بہت سے سکھ لمبے لمبے نیزے لے کر آئے اور چاروں طرف سے گھیر کر اس کو کچھ کئے لگے۔ اس ترکیب سے وہ بہت زخمی اور نڈھال ہو گیا لیکن برابر لڑتا رہا۔ آخر میں ایک نیزہ اس کی کمر توڑ کر سینے کے پار ہو گیا اور وہ بے دم ہو کر زمین پر گر گیا۔ ایک سردار جی نے گالی دے کر کہا۔ دیکھا مزہ! جواب دیا۔ کافر کے بچے ہاں دیکھا۔ اسی مزے کے لئے تو جان دی ہے۔ اگر تجھے معلوم ہوتا کہ اس وقت مجھے کیا مزہ آ رہا ہے تو تو بھی مسلمان ہو کر ابھی سکھوں سے لڑتا اور شہید ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ بولا کلمہ پڑھتا رہا اور چند منٹ بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ ہم نے گنتی کی تو ہمارے اٹھارہ آدمی مرے اور گیارہ سخت زخمی ہوئے تھے۔ میں نے کہا۔ ”یہ ایک ہی مسلمان ملا تھا۔ اگر ایسے دو چار ہزارا کٹھے ہوں تو خدا جانے کیا کریں۔“

دیکھا آپ نے ایک توحید پرست مومن کیا کچھ کر سکتا ہے جو ایسے ہوں چند اک ہزار..... پھر کیا ہو؟ حقیقت میں مومن ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ عام حالات میں وہ شہد سے زیادہ بیٹھا اور ریشم سے زیادہ نرم ہوتا ہے مگر ضرورت پڑنے پر زہر سے زیادہ کڑوا اور فولاد سے زیادہ سخت ثابت ہوتا ہے۔ وہ موت پر ہنستا ہے اور

شہادت کی آرزو میں مرتا ہے۔ موقع ہوتو نہتا ہی لڑتا ہے، نہ تلوار کی حاجت رکھتا ہے نہ بندوق کی۔

کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ

مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

یہ تھا اللہ پر ایمان محکم کا ایک ادنیٰ سا کرشمہ۔ اب کمزور ایمان کا ایک واقعہ بھی سن لیجئے۔ انہی دنوں یعنی ستمبر ۱۹۷۷ء میں جب مسلمانانِ دہلی کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، ان کے مکانات جل رہے تھے، مال و اسباب لٹ رہا تھا، عورتوں کی عصمت دری ہو رہی تھی۔ ایک دن گاندھی جی ایک مسلمان محلے میں تشریف لائے اور ایک مشہور کانگریسی مسلمان کے مکان پر کئی گھنٹے ٹھہرے تاکہ مسلمانوں کی شکایات سن کر ازالے کی کوشش کریں۔ یہ سننا تھا کہ سینکڑوں مسلمان جمع ہو گئے اور اپنی مصیبتیں بیان کرنے لگے۔ گاندھی جی سنتے جاتے تھے اور تسلی دے کر وعدے کرتے جاتے تھے کہ دہلی کے ایک بہت مشہور کانگریسی مولوی تشریف لائے گاندھی جی ان کی بہت عزت کرتے تھے، دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور پاس بٹھا کر پوچھا۔ مولانا آپ کیسے آئے؟ یہ سنتے ہی مولوی صاحب پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ آنکھوں سے جھڑی لگ گئی۔ بچیاں لے کر فرمانے لگے۔ ”مہاتما جی..... میں تو..... صرف اتنا..... چاہتا..... ہوں کہ آپ..... میری اور میرے..... بچوں کی..... جان..... بچالیں۔“ یہ کہتے جاتے تھے اور فرطِ گریہ سے بے حال ہوئے جا رہے تھے۔ گاندھی جی نے یہ دیکھ کر نہایت پیار کے لہجے میں کہا۔ ”مولانا، مولانا۔ اس طرح تو میں اپنے بھگوان سے کہتا ہوں۔“ یہ سن کر مولانا کی اور بھی ہچکی بندھ گئی اور پھر وہی فرمایا جو پہلے کہا تھا۔ گاندھی جی نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہی ہوا لیکن مولانا آپے میں نہ آسکے۔ آخر گاندھی جی نے دوسری طرف منہ پھیر لیا اور صاحبِ خانہ سے کہا۔ ”ان کو سمجھائیے“

بہ ہیں تفاوت رہ از کجاست تاہ کجا

ایک وہ غالباً عام مسلمان جس کا واقعہ پہلے بیان ہوا، ایک یہ مسلمانوں کے پیشوا اور رسولِ خدا ﷺ کی وراثت کے دعویدار۔

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (اے عقلمند و عبرت حاصل کرو)

الغرض یہ ہے وہ یقین محکم اور ایمانِ کامل جو قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی ترقی کا باعث ہوا اور آج بھی اکثریت میں نہیں صرف دس پندرہ فیصد مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو پھر اس ترقی کا باعث ہوگا۔ یہ ایمان کس

طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کا بیان آگے مناسب موقع پر کیا جائے گا۔ اب اجتماعی قوت کے دوسرے اصول یعنی اتحاد کا بیان سنیے۔

اتحاد

جماعتی قوت کے لئے اتحاد بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایمان۔ تاریخِ عالم گواہ ہے کہ کوئی جماعت یا قوم اس وقت تک تباہ نہ ہو سکی جب تک اس میں اتحاد باقی رہا اور کوئی جماعت یا قوم تباہی سے بچ نہ سکی جب اس میں نا اتفاقی اور پھوٹ پیدا ہوگئی۔ قوموں کی بقا اور فنا کا یہ قانون اٹل ہے۔ اس میں نہ کبھی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ آئندہ ہو سکتی گی۔

اتحاد کیا ہے؟ جماعت یا قوم کے افراد میں اس قدر محبت و اخوت اور قلبی تعلق کا موجود ہونا کہ اگر ایک فرد کو دنیا میں کسی جگہ کوئی تکلیف پہنچے تو جماعت کے باقی تمام افراد خواہ کہیں بھی ہوں اپنی اپنی جگہ پر محسوس کریں کہ یہ تکلیف خود انہی کو پہنچی ہے۔ رسولِ اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”تمام مسلمان ایک آدمی کی مانند ہیں کہ اگر اس کی آنکھ یا سر میں تکلیف ہو تو تمام جسم بے چین ہو جاتا ہے۔“ ایک اور حدیث میں ہے کہ ”اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو تمام بدن میں بیداری اور حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔“ اس حدیث میں بیداری اور حرارت کے حکیمانہ الفاظ خاص طور پر قابلِ غور ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ تمام بدن اس تکلیف کی مدافعت کے لئے تیار ہو کر عمل کرنے لگتا ہے۔ مسلمانوں میں اس درجے کا اتحاد صدیاں گزر رہی ختم ہو چکا ہے۔ اسپین کی سلطنت تباہ ہوتی رہی سلطنتِ عباسیہ بیٹھی دیکھتی رہی۔ سلطنتِ عباسیہ پر زوال آیا لیکن کسی کا قدم مدد کے لئے نہ اٹھا۔ ہندوستان میں سلطنتِ مغلیہ دم توڑتی رہی، ایران اور ترکی نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ وہ شیر بیشہ و غافل یعنی سلطان ٹیپو انگریزوں اور خود اپنے غذا رہا بیٹوں کے ہاتھ سے چر کے پرچے کھاتا رہا اور مدد کے لئے چلاتا رہا مگر کسی مسلمان طاقت نے مرہم کی ایک ڈبیا اس کو نہ بھیجی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں جب ترکی انگریزوں کے ہاتھوں قتل ہو رہا تھا تو عالمِ اسلام میں کوئی طاقت بھی ایسی نہ تھی جو مدد کرتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس جماعت کے افراد میں دوسرے بھائیوں کی تکلیف کا احساس نہ ہو وہ ہرگز جماعت کہلانے کی مستحق نہیں۔ وہ تو بھیڑ بکریوں کا ایک گلہ ہے کہ قصائی جس کو چاہے ذبح کر دے، دوسری کھڑی منہ تکتی رہتی ہیں۔ قرونِ اولیٰ میں یہ بات نہ تھی۔ اس وقت ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی تو ساری دنیائے اسلام بے کل ہو کر انتقام اور مدافعت پر آمادہ ہو جاتی تھی۔ خلیفہ عبد الملک نے سندھ پر حملہ محض اس لئے کیا تھا کہ وہاں کچھ مسلمانوں پر ظلم ہوا تھا جن میں ایک مسلمان

لڑکی بھی تھی۔ اس لڑکی نے خلیفہ کی دوہائی دی۔ ایک مسلمان جو وہاں قید تھا، سن رہا تھا۔ اتفاق سے وہ کسی طرح بچ کر بھاگ نکلا اور دمشق پہنچ کر یہ خبر دی۔ خلیفہ نے سنا تو لڑکی کی دادرسی کے لئے فوراً فوج کشی کر دی اور سندھ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ ایک دفعہ ایران میں کسی نے ایک انگریز سپاہی کو مارڈالا تو برطانیہ کی ساری پبلک بے چین ہو گئی اور حکومت برطانیہ نے جنگی جہازوں کا پورا بیڑہ ایران کا سرگچنے کے لیے خلیج فارس میں جمع کر دیا۔ یہ ہے وہ بات کہ ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو تمام بدن بیدار اور مدافعت کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس جماعت میں یہ روح پیدا ہو جاتی ہے اس کا کوئی فرد کہیں اور کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا اور بے کس و بے بس نہیں سمجھتا بلکہ پوری جماعت کی مدد اور پشت پناہی پر یقین محکم رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت کے ہر فرد میں ہر وقت پوری جماعت کی طاقت موجود رہتی ہے۔

قرآن میں اتحاد اور اخوت و محبت کے لئے بھی ایسے ہی قطعی احکام موجود ہیں جیسے کہ نماز روزے اور دوسری عبادتوں کے لئے، لیکن جس قدر بے اعتنائی ان احکامات سے برتی جاتی ہے شاید اور کسی حکم سے نہیں برتی جاتی۔ اگر یہ بے اعتنائی صرف عوام ہی تک محدود ہوتی تب بھی صبر آ جاتا۔ رونا تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے اور قرآن کو خوب اچھی طرح سمجھنے والے بزرگ عوام سے کہیں زیادہ اتحاد و اخوت کی جڑوں پر کلہاڑے چلاتے، تفرقہ ڈلاتے اور فرقہ بندی کی آگ کو ہر وقت ہوادیتے رہتے ہیں۔ اب تیسرے اصول کا بیان سنئے۔

رابطہ

اجتماعی طاقت اور جماعت کی شیرازہ بندی کے لیے تیسری ضروری چیز رابطہ یا تنظیم ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“ ”اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر دلاؤ اور باہم ملے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید تم اپنی مراد کو پہنچو۔“ (آل عمران: ۲۰۰) رابطہ کے یہ معنی ہیں کہ جماعت کے تمام نکلوں اور حصوں میں باہمی تعلق اور تعاون عمل بدرجہ اتم موجود رہے اور کوئی حصہ کسی دوسرے حصہ کی حالت سے کسی وقت بھی بے خبر نہ ہونے پائے۔ بات یہ ہے کہ نوع انسانی اپنے جذبات و کوائف اور ضروریات و حوائج میں متنوع الخلقیت واقع ہوئی ہے۔ اس لئے ہر جماعت یا قوم میں مختلف گروہ یا طبقے پیدا ہو جاتے ہیں جو مختلف پیشے اور فن اختیار کر لیتے ہیں۔ ان میں سے ہر طبقہ دوسرے طبقے کی مدد و محتاج اور اپنے پیشے یا فن کے لحاظ سے پوری قوم کی ضروریات کا کفیل ہوتا ہے۔ بدیں وجہ اگر ان طبقات میں باہمی ارتباط اور تعاون عمل نہ ہو تو پوری قوم کے نظام میں خلل

آ جاتا ہے اور اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اس لئے ہر طاقتور جماعت میں تنظیم کا مکمل ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا یقین محکم اور اتحاد کا۔

تنظیم کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی قوم یا جماعت میں جتنے چھوٹے چھوٹے طبقے ہوں ان سب کا ایک ایک مرکز ہو جو ان کا نگران اور محافظ ہو، جو ان کے ہر دکھ درد، تکالیف اور ضروریات سے کما حقہ واقف رہے اور ان کی ہر تکلیف کا ازالہ کرے اور ان سے مناسب کام لے۔ پھر ان تمام مراکز کا ایک واحد مرکز ہو جو ان تمام طبقات کی ضروریات کا کفیل اور نگران ہو جو ان تمام طبقات کو قابو میں رکھے اور ان سے مناسب اور متناسب کام لیتا رہے۔ یہ واحد مرکز جماعت کے افراد و طبقات میں جس قدر مقبول اور ہر دلچیز ہوگا اسی قدر قوم طاقتور اور خوشحال ہوگی۔ رسول اکرم ﷺ کے زمانہ سے حضرت عمرؓ کے زمانہ تک مسلمانوں کی بے مثال طاقت کا راز یہی تھا کہ پوری قوم کا ہر طبقہ اور ہر فرد مرکز پر نہ صرف اعتماد کامل رکھتا تھا بلکہ اس کا والد و شہید اور عاشق زار تھا۔ تنظیم کی اس اہمیت کے پیش نظر اسلامی عبادات میں نماز اور حج کی ترکیب و بیچ ہی ایسی رکھی گئی ہے کہ اگر اس پر پوری طرح عمل کیا جائے تو تنظیم کا ڈھانچہ خود بخود تیار ہو جاتا ہے۔ اب رہی اس کی تکمیل اور تزئین تو وہ معمولی سمجھ کے قائد اور رہنما بھی اپنے اپنے زمانہ کی صورت حالات اور ماحول کے مطابق تھوڑی سی ترمیم اور تجدید کے بعد خود ہی کر سکتے ہیں۔ نماز اور حج سے تنظیم کا خاکہ کس طرح تیار ہوتا ہے اس کا بیان ہم عبادات کے بیان میں کریں گے۔ یہاں اس قدر کہہ دینا کافی ہے کہ ملت اسلامیہ کی عالمگیر تنظیم صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہر ایک اسلامی ملک اپنی اپنی جگہ پوری طرح متحد، مضبوط اور طاقتور ہو اور پھر یہ تمام ممالک ایک واحد مرکز سے متحد ہوں جو مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں ہونا چاہیے۔ اس مرکز کا امیر تمام ممالک اسلامیہ کی رائے سے منتخب کیا جائے۔ اس امیر کی ایک مجلس شوریٰ ہو جس میں تمام اسلامی ممالک کے نمائندے شریک ہوں۔ اس مرکز میں تمام ممالک اسلامی کے مناقشات اور تنازعات کا فیصلہ پنچایت کے اصول سے ہوا کرے۔ بین الاقوامی تمام مسائل یہیں طے ہوں اور جب دنیا میں کسی مملکت اسلامی کو اغیار سے خطرہ ہو تو اس کے دفاع کا بندوبست یہیں سے کیا جائے۔ ہم یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں لیکن ہمارا دل شرمناک ہے کیونکہ موجودہ حالات میں یہ باتیں شیخ چلی کی بڑے زیادہ وقعت نہیں رکھتیں لیکن ہم یہ یقین کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب دنیائے اسلام ایک دفعہ پھر کروٹ لے گی اور جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں اس کی تعبیر مجسم ہو کر سامنے آ جائے گی۔ بہر حال جہاں ہو اور جب بھی ہو تنظیم کا کمال یہ ہے کہ پوری قوم میں کوئی

ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جسے کوئی تکلیف یا حاجت ہو اور حکومت یا معاشرہ اس سے بے خبر رہے اور اس کا مداوانہ کر سکے۔ اب ہم جماعت بندی کے چوتھے اصول یعنی اطاعت کا ذکر کرتے ہیں۔

اطاعت

اطاعت کے معنی ہیں فرمانبرداری اور حکم ماننے کے۔ جس طرح ایک بچے اور ایک فرد کی اصلاح و تربیت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ اپنے ماں باپ، استاد یا اتالیق کا حکم نہ مانے، اسی طرح ایک جماعت یا قوم کی تنظیم بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا ہر فرد اپنے قائدوں اور رہنماؤں کے ہر حکم اور ہدایت پر آنکھ بند کر کے بے چون و چرا عمل نہ کرے۔ فرض کیجئے میدان جنگ میں ایک جماعت مصروف کارزار ہے اور اس کا جنرل اپنے ماتحت افسروں کے ذریعہ احکام دے رہا ہے کہ آگے بڑھ جاؤ۔ دہنے فلینک پر حملہ کرو۔ اب بائیں طرف بلہ بول دو۔ اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ آؤ وغیرہ وغیرہ۔ اب غور کیجئے کہ اگر تمام افسر اور سپاہی اس کے حکموں پر بے چون و چرا اور پوری طرح عمل نہ کریں آگے بڑھنے کا حکم ملے تو پیچھے ہٹ آئیں یا وہیں ٹھہرے رہیں، پیچھے ہٹنے کو کہا جائے تو بڑھ جائیں، دہنے کے بجائے بائیں اور بائیں کے بجائے ذہنی طرف حملہ کر دیں تو اس جماعت یا فوج کا حشر کیا ہوگا۔ بالکل یہی حال ایک قوم کا ہے۔ جتنا کسی قوم کے افراد اپنے مذہبی اور ملکی قوانین و احکام پر عمل کریں گے، اتنی ہی وہ قوم ترقی کرے گی۔ جتنی بے پروائی برتیں گے اتنا ہی زوال ہوگا۔ قائدین کے احکام پر سختی سے متحرک عمل رہنا ہی قومی اتحاد و ترقی کی ضمانت ہے۔ قرآن صاف اور واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا** **الْأُمُورَ مِنْكُمْ.....** ”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی، رسول ﷺ کی اور اپنے ان آمرین کی جو تم پر مامور ہیں۔“ (نساء: ۵۹) یہی نہیں ایک جگہ تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک فرمانبرداری ہی دین ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کو اپنی اپنی جگہ یہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیئے کہ وہ کہاں تک اللہ کے ان احکام پر عمل کرتا ہے۔

اطاعت صرف یہ نہیں ہے کہ تم کو جو حکم وقتاً فوقتاً دیئے جائیں ان پر فوری عمل کرو بلکہ اطاعت یہ بھی ہے کہ تمہارے لئے جو احکام یا ہدایات مستقلاً عمل کرنے کی غرض سے لکھ کر ایک جگہ جمع اور شائع کر دی جائیں ان پر بھی ہمیشہ عمل کرتے رہو۔ مثلاً قرآن، صحیح احادیث، تمہارے ملک کا آئین و قانون، ہدایات کے قواعد و بائبل، لاز، دفترتوں کے کنڈکٹ رولز اور دوسرے قواعد و ضوابط وغیرہ وغیرہ اگر تم ان تمام قواعد و ضوابط اور احکام و قوانین پر مکمل عمل کرتے رہو گے تو تمہارے افراد کے افکار و تخیلات میں ہمیشہ وحدت و ہم آہنگی رہے گی۔

تمہارا اتحاد مضبوط سے مضبوط تر اور تمہاری جماعت قوی سے قوی تر ہوتی چلی جائے گی۔ آج کل کی اصطلاح میں اسی بات کو ڈسپلن کہا جاتا ہے۔

یہ اطاعت و فرماں برداری یا ڈسپلن کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ قوم کی شیرازہ بندی اور اس میں وحدت فکر و عمل پیدا کرنے کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ ایک فرد کی زندگی اور صحت کو برقرار اور اعتدال پر رکھنے کے لئے قلب کی باقاعدہ حرکت۔ اگر آپ کو اطاعت کی واقعی قدر و قیمت معلوم کرنا ہو تو اعلیٰ درجے کی باقاعدہ اور تربیت یافتہ فوجوں میں جا کر دیکھیں۔ ان فوجیوں میں افسروں سے لے کر سپاہیوں تک سب کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا چالنا، کھانا پینا الغرض ہر چیز کا انداز و نچ اس قدر ملتا جلتا ہے کہ سب ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ یہیں جماعت اور اجتماعیت کے حقیقی معنی معلوم ہوتے ہیں۔ ان فوجیوں کو حکم ماننے کی اس قدر مشق اور عادت ہو جاتی ہے کہ آؤ رڑ ملنے ہی بغیر سوچے صحیح عمل کر گزرتے ہیں۔ ہم نے فوجی چھاؤنیوں میں کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ ایک سپاہی ہاتھ میں دودھ کا گلاس لئے جا رہا ہے اور پیچھے سے کسی دوست نے مذاقاً ٹینشن کا حکم دے دیا۔ جانے والے سپاہی کے دونوں ہاتھ فوراً رانوں سے لگ گئے اور دودھ کا گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس ڈسپلن کی مشق پریڈ کے میدان میں ریکروٹی کے زمانہ ہی سے کرائی جاتی ہے اور ٹیکنیکل تعلیم و تربیت سے پہلے ہی یہ چیز کی کرادی جاتی ہے۔ پھر وہ اس میں اس قدر پختہ ہو جاتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب ان کو ’ایڈوانس‘ کا حکم ملتا ہے تو سامنے خواہ گولوں اور گولیوں کا مینہ ہی کیوں نہ برس رہا ہو یہ حکم کے تابع دار بندے بغیر سوچے اور غور کئے اس آگ کے دریا میں کود پڑتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی قرآن میں اسی قسم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا ہمارے لئے اس میں عبرت کا کوئی سبق نہیں کہ یہ فوجی سپاہی اور افسر جن کو ماہوار چاندی کی چند نکلیاں ملتی ہیں، اس بے جگری سے جان دے دیتے ہیں اور حکم عدولی نہیں کرتے اور ہم جن کو ہمارے خالق و مالک نے جان، عقل، بیوی بچے، علم و دانش، صحت اور تمام عمر کا رزق عطا فرمایا ہے، اس کے حکم کی اتنی بھی پرواہ نہیں کرتے جتنی یہ فوجی اپنے بالا دست افسروں کے حکم کی کرتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ جس طرح قرن اول کے مسلمان اللہ اور رسول ﷺ کے حکم کی تعمیل میں اپنے دین و ملت کی حفاظت کے لئے لڑا کرتے تھے اس طرح اب سے کچھ عرصہ پہلے تک انگریزی فوجیں اپنے بادشاہ، وطن اور قوم کے لئے لڑتی رہیں لیکن اب نصف صدی سے یہ جذبہ ان میں سے جاتا رہا ہے۔ اب انگریزی فوجیں صرف ڈسپلن کے بل بوتے پر جنگ کرتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں۔ جس دن یہ ڈسپلن رخصت ہوا

انگریزی اقتدار کے تابوت پر آخری کیل ٹھک جائے گی۔ ڈسپلن صرف مذہبی و ملکی آئین و قوانین اور فوجی و دفتری قواعد و ضوابط ہی کا نام نہیں بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبہ مثلاً تجارت، زراعت، صنعت و حرفت اور خانگی امور کو کامیابی سے انجام دینے کے لئے بھی کچھ کم ضروری نہیں ہے۔ ان امور و معاملات میں ڈسپلن یہ ہے کہ ہر شخص مقررہ قواعد و ضوابط اخلاق و غیرہ کا پوری طرح پابند رہے۔ اپنے اختیار و حقوق کی حدود میں کام کرے۔ ان سے باہر نہ نکلے۔ دوسروں کے کاموں میں بلاوجہ دخل نہ دے اور اپنے فرائض کو مکمل ادا کرے۔ گھریلو زندگی میں ڈسپلن کی بہت ہی ضرورت ہے۔ خاوند، بیوی، بچے، ملازم اور دوسرے مکین اپنے اپنے حقوق کی حدود سے خوب واقف ہوں اور اپنے فرائض کو مکمل انجام دیں۔ جس چیز کو قرینہ اور سلیقہ کہتے ہیں وہ بھی ڈسپلن (یعنی قواعد و ضوابط کی پابندی) ہی سے حاصل ہوتا ہے اور قائم رہتا ہے۔ یعنی گھر میں جو چیز جس کام کے لئے ہو اسی کے لئے استعمال کی جائے۔ ہر چیز کی جوجگہ ہے وہیں رکھی جائے۔ جس شخص کی جو چیز ہو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کی جائے اور جو کام جس طرح اور جس وقت ہونا چاہیے ٹھیک اسی طرح اور اسی وقت کیا جائے۔ ممکن ہے بعض آدمیوں کو یہ باتیں بہت معمولی نظر آئیں لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اطاعت کی بنیاد بچپن ہی سے پڑتی ہے اور بچے جیسا کچھ گھر میں ہوتا دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں۔ اس لئے خانگی زندگی کو خوشگوار بنانے اور بچوں کو اچھا شہری اور پکا اطاعت گزار اٹھانے کے لئے گھر کی ہر بات میں قواعد و ضوابط کی پابندی کا خیال رکھنا اور اس کو قوت سے عمل میں لانا بہت ہی اہم بات ہے اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ فوجی ڈسپلن کی ابتدا بھی ایک بہت معمولی سی بات یعنی صرف حکم پر داہنا اور بائیں پاؤں اٹھانے اور اپنے ساتھیوں سے قدم ملا کر چلنے سے پڑتی ہے مگر آخر میں اس سے اس قدر مہتم بالشان نتیجے پیدا ہوتے ہیں کہ گاؤں دیہات سے تعلق رکھنے والے عام انسان ایک روز نظم و ضبط اور جرأت و بہادری اور طاقت کی علامت بن جاتے ہیں۔ اب ہم پانچویں اصول یعنی عمل کا بیان کرتے ہیں۔

عمل

پانچویں چیز جس سے جماعت کے وجود کا ثبوت ملتا اور افراد کو اجتماعیت کے فوائد واقعی حاصل ہوتے ہیں ”عمل“ ہے۔ جماعت کے لئے عمل بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک زندہ جسم کے لئے حرکت۔ اگر کوئی جاندار پیدا ہونے سے مرنے تک کوئی حرکت نہ کرے ہمیشہ ایسے جس و حرکت ایک ہی حالت میں پڑا رہے تو خواہ اس کی عمر ہزاروں برس ہی کیوں نہ ہو اس پر ”زندہ“ کا لفظ صادق نہیں آسکتا۔ قرآن میں سستی، کالی، اور بے عملی کی سخت

مذمت کی گئی ہے۔ اس لئے صحابہ کبار ان چیزوں کو پاس پھٹکنے بھی نہ دیتے تھے۔ صحابہ کے بعد بھی کئی سو برس تک مسلمانوں میں قوت عمل خاصی تھی۔ جب تک یہ قوت ان میں باقی رہی وہ زندگی کی دوڑ میں دوسری قوموں سے کہیں آگے رہے، جب یہ قوت ختم ہوئی وہ کھڑے ہو گئے اور دوسری قومیں آگے نکل گئیں۔ عمل کی قوت کو کام میں لانے کے لیے کسی مقصد اور مہیج کی ضرورت ناگزیر ہے، بغیر اس کے کوئی جسم حرکت نہیں کرتا۔ کیڑے مکوڑے، پرند اور دوسرے تمام جانور خوراک حاصل کرنے اور گرمی سردی کی تکلیف سے بچنے کے لیے متحرک اور مصروف عمل رہتے ہیں۔ انسانی اجسام کو متحرک رکھنے کے لئے بھی اصلاً یہی چیزیں مہیج کا کام دیتی ہیں لیکن اس کے مقاصد و عزائم صرف یہیں تک محدود نہیں رہتے اس کی اور بھی بہت سی خواہشات ہیں جو جانوروں میں نہیں۔ انسان بالفطرت آرام و آسائش کی کسی حالت پر بھی مطمئن نہیں رہتا اور ہمیشہ بہتر سے بہترین اور اعلیٰ سے اعلیٰ ترین حالت کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ یہی خواہش اس کو ہمیشہ مصروف عمل رکھتی اور ارتقاء تمدن کے اعلیٰ مدارج کی طرف چلاتی رہتی ہے۔ انسانوں کی جو جماعت اپنی حالت پر قانع ہو کر عمل سے دستکش ہو جاتی ہے وہی پسماندہ کہلاتی ہے۔ یہی خواہش انسان کے موجودہ معیار تمدن تک پہنچنے کی وجہ ہے اور خدا ہی جانے کہ وہ ابھی کہاں پہنچ کر دم لے گا یا شاید قیامت تک کہیں دم ہی نہ لے۔ کھانے پینے، کپڑے لٹے اور مکانات کے علاوہ انسان میں ایک اور فطرتی خواہش بھی ہے۔ یعنی وہ اپنی اصل کو معلوم کرنا چاہتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے میں کیا تھا؟ کن حالات میں سے گزرنے کے بعد پیدا ہوا؟ یہ مادہ اور روح کیا چیز ہیں؟ موت کیا ہے؟ مرنے کے بعد مجھے کہاں جانا ہے؟ اس عالم کو پیدا کرنے والا کوئی ہے بھی یا نہیں ہے؟ ہے تو کیسا ہے کہاں ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ جو قومیں ان سوالات کا جواب معلوم کرنے کے لئے تفکر سے کام لیتی اور مصروف عمل رہتی ہیں ان کو حیات نو عطا ہوتی رہتی ہے کیونکہ جہاں تک روٹی کپڑے اور مکان کا سوال ہے، انسان اپنی کوششوں سے جلد ہی اس حد تک پہنچ سکتا ہے جہاں اسے مزید عمل کی ضرورت محسوس نہ ہو اور وہ اپنی نادانستگی، جہالت یا تن آسانی کی وجہ سے قانع ہو کر بیٹھ جائے اور عمل کرنا چھوڑ دے لیکن جہاں تک مبداء و معاد کے متعلق تسکین کا سوال ہے یہ تشنگی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی اور وہ ہمیشہ مصروف عمل رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں مسلمانوں کو دونوں باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ..... ۵ ”اس زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔“ (الجمعة: ۱۰) ارشاد ہوتا ہے کہ ہم سے یوں مانگا کرو۔ ”اے ہمارے رب ہم کو دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں عطا فرما۔“ مبداء اور معاد کی

گتھیاں سلجھانے کے لیے قرآن میں سینکڑوں جگہ ارشاد ہوا ہے کہ ہماری نشانیوں میں غور و فکر کیا کرو۔ چنانچہ سورہ عنکبوت آیت ۲۰ میں فرمایا گیا۔ قُلْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ..... ۵ ”دنیا میں سفر کرو اور معلوم کرو کہ آفرینش کی ابتدا کیونکر ہوئی؟ دیکھنے میں یہ ایک معمولی سی بات اور چھوٹی سی آیت ہے لیکن اسی ایک سوال کا جواب معلوم کرنے کی کوششوں سے بیسیوں علوم و جود میں آگئے۔ مثلاً علم طبقات الارض، علم نباتات، علم حیوانات، علم الحیات، جغرافیہ، تاریخ، علم طب، علم ہیئت، فزکس اور کیمسٹری وغیرہ وغیرہ اور یہی وہ علوم ہیں کہ جو قومیں ان کو حاصل کرتی ہیں، خدائی انعامات و نوازشات سے مالا مال ہو جاتی ہیں۔ ان علوم کی تحصیل کا حکم دینے میں مصلحت یہ ہے کہ ان کی کوئی انتہا نہیں اور انسان اس بہانے سے ہمیشہ عمل میں مصروف رہ کر ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو مصروف عمل رکھنے کے لیے خدا نے کیا نہیں کہا۔ سارا قرآن، ”عمل کرو“ ”عمل کرو“ مناسب عمل کرو“ کے الفاظ سے بھرا پڑا ہے۔ کسب معاش، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ اور تفکر فی الآیات اللہ کے احکام اگر قوت عمل کو بیدار کرنے اور متحرک رکھنے کے لیے نہیں ہیں تو پھر کس لئے ہیں؟ مگر افسوس کہ جس قدر زیادہ قرآن میں عمل پر زور دیا گیا ہے اسی قدر ہم نکتے، سست، بے کار اور بے عمل ہیں۔

الغرض یہ ہیں وہ پانچ عناصر جن سے جماعت کا جسم، روح، قلب، دماغ اور حواس تیار ہوتے ہیں اور اس میں قوت اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمیوں کا جو گروہ ان پانچ باتوں پر جس قدر زیادہ تخی اور سرگرمی سے پابند ہوگا اسی قدر زیادہ منظم اور طاقتور جماعت بن جائے گا لیکن ایک جماعت میں صرف انہیں پانچ باتوں کا ہونا کافی نہیں۔ انسانی زندگی کے بہت سے پہلو اور بھی ہیں اور ہر انسان کی بیسیوں مختلف اضافی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک شخص بسا اوقات ایک ہی وقت میں باپ بھی ہوتا ہے بیٹا بھی، بھائی بھی ہوتا ہے بھتیجا اور بھانجا بھی، چچا اور ماموں بھی ہوتا ہے، خالو اور پھوپھا بھی، خاندان بھی ہوتا ہے دیور اور جیٹھ بھی، نوکر بھی ہوتا ہے آقا بھی، ماتحت بھی ہوتا ہے افسر بھی، سودا بیچنے والا بھی ہوتا ہے خریدار بھی، زمیندار بھی ہوتا ہے مزارع بھی وغیرہ وغیرہ۔ تو ضرور ہے کہ ان تمام اضافی حیثیتوں کے لحاظ سے مختلف فرائض کی بجا آوری کے لئے کوئی ایسا آئین و ضابطہ اور قوانین و قواعد موجود ہوں۔ جن پر اس جماعت کا ہر فرد آکھ بند کر کے عمل کر سکے تاکہ تمام افراد کے افعال میں یکسانیت اور وحدت عمل قائم رہے اور قوت اجتماعی میں خلل نہ پڑے۔ چنانچہ مسلمانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیات موجود ہے۔ جس کا نام ہے قرآن۔

قرآن

یہ ایک منزل من اللہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی ہدایت و رہنمائی کے لئے اپنے محبوب اور عزیز ترین بندے اور رسول جناب احمد مصطفیٰ محمد ﷺ پر جبریل امین کے ذریعہ نازل فرمایا۔ یہ کتاب مبارک جیسی کہ سرور دو عالم ﷺ پر اُترتی تھی آج تک بغیر ایک حرف یا زیور برکی کی بیشی کے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ اس میں کیا نہیں ہے؟ ہر وہ چیز جس کی ایک انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں آرام و اطمینان کی زندگی بسر کرنے کے لئے ضرورت پڑ سکتی ہے اس میں موجود ہے۔ یہ نوع انسان کو زندگی بسر کرنے کے وہ طریقے بتاتی ہے کہ اگر ان پر مکلف عمل کیا جائے تو سارے کرۂ ارض پر وہ عالمگیر امن و امان قائم ہو جائے جس کی تلاش میں اہل دنیا شاید دنیا کی پیدائش سے آج تک سرگرداں و پریشان ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن برائی اور بھلائی کی حدود مقرر کرتا اور ان میں تمیز کرنا سکھاتا ہے۔ پھر کہتا ہے برائیوں سے بچو کہ ان سے تم کو بالآخر تکلیف پہنچے گی اور بھلائیوں کو اختیار کرو کہ وہ دنیا و آخرت دونوں میں تمہارے لئے راحت و اطمینان کا باعث ہوں گی۔ پھر وہ انسانوں کے ان تمام حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے جو متمدن زندگی کی وجہ سے ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ وہ دنیا کے تمام علوم اپنی گود میں لئے ہوئے ہے۔ صحت و صفائی سے لے کر معیشت، معاشرت، زراعت، تجارت، صنعت و حرفت، اقتصادیات، معاملات، اخلاق و آداب، سائنس اور فلسفہ و حکمت تک کون سی شے ہے جو اس میں موجود نہیں۔

قرآن سستی، کاہلی اور بے کاری کی مذمت اور کسب معاش کے لیے عمل و محنت کی تلقین کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس زمین کی وسعتوں میں پھیل جاؤ اور رزق و دولت تلاش کرو۔ وہ پکارتا ہے کہ سمندر کے سینے کو اپنے جہازوں اور کشتیوں سے چیر ڈالو اور غیر ملکیوں سے تجارت کرو۔ سمندر کی تہوں میں اتر جاؤ اور لوگوں کو مرجان سے اپنے خزانے بھر کر فارغ البال ہو جاؤ۔ قرآن صرف دولت مند بننے ہی کی ترغیب نہیں دیتا بلکہ جہانگیری و جہاں بانی کا حکم دیتا اور اس کے اصول و طریقے بھی بتاتا ہے۔ قرآن میں کھانے پینے، ملنے جلنے اور بولنے چالنے کے معمولی آداب و قواعد سے لے کر نکاح، بیاہ، طلاق، وراثت، خیرات، زکوٰۃ، عدالتی انصاف، دیوانی، فوجداری، جدال و قتال اور حرب و ضرب تک سبھی کے متعلق احکام و قوانین موجود ہیں۔ علم و ادب کے لحاظ سے بھی یہ بے نظیر کتاب ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت ساری دنیا کے نزدیک مسلم اور بے مثال ہے۔

عرب ممالک کے مکاتب و مدارس اور خصوصاً مصر کے جامعۃ الازہر میں تو قرآن ہی تمام عربی علم و ادب کے نصاب کی اساس و بنیاد ہے۔ قرآن میں تاریخی قصص اور حکایات و واقعات بھی ہیں جن سے پیش قیمت تاریخی معلومات اور بے انتہا عبرت و نصیحت حاصل ہوتی ہے۔

علم و دانش کی ان تمام باتوں کے علاوہ قرآن میں وہ سب کچھ بھی ہے جس کی ضرورت انسانی اجسام کو اتنی نہیں جتنی اس کے ذہن و عقل اور روح کو ہوتی ہے۔ اس صحیفہ میں حسن و رعنائی کی کیف آور تجلیاں ہی نظر نہیں آتیں بلکہ عشق و محبت کے جنون پرور نسخے بھی ملتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ انسان پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا، کہاں تھا؟ کن کن منازل و مراحل سے گزر کر وہ اس مادی پیکر میں ملبوس و متشکل ہوا، یہاں وہ کس غرض سے بھیجا گیا ہے، مرنے کے بعد اس کو کہاں جانا ہے، کس راستے سے جانا ہے، کن کن طبقات و مقامات سے کس طرح گزرنا ہے، بلوغ، عقل، نفس، عدم و وجود، دوزخ، جنت، فرشتے، عرش و کرسی کیا ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان سب کا بنانے والا کون ہے؟ کیسا ہے، کہاں ہے؟ اور اس کی معرفت و لقاء کس طرح میسر آ سکتی ہے؟ دیکھنے والی آنکھ، جستجو کرنے والا دماغ اور آتش شوق سے تڑپتا ہوا دل ہو تو قرآن سے کیا نہیں مل سکتا؟ جو لوگ اس کے اسرار و غوامض میں تفکر سے کام لیتے اور عمل کرتے ہیں اپنی مراد پاتے اور طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں۔ جو صرف لفظی کرشمہ سازیوں کی تحقیق میں مصروف رہتے ہیں، جو بے معنی و مطلب سمجھے صرف زبانی تلاوت و ترتیل میں عمر گزار دیتے ہیں وہ بھی نامراد نہیں رہتے کم از کم ان کی ذہنی و روحانی تسکین ہی ہو جاتی ہے۔

مختصر یہ کہ قرآن میں سب ہی کچھ ہے۔ ہاں نہیں ہے تو ایک چیز۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ کیا ہے؟ لو سنو۔ قرآن میں۔ ہاں اسی قرآن میں جس میں سب کچھ ہے یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر ایک مسلمان ملک پر کسی غیر مسلم قوم کا قبضہ ہو جائے اور مسلمان حکومت و غلام بن جائیں تو اس صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ بے شک قرآن میں محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کرنے کے قاعدے کہیں نہیں بتائے گئے لیکن یہ قرآن کا نقص نہیں ہے، یہ اس کی خامی اور کمی نہیں۔ یہ تو اس کی تعلیم کے قطعی، آخری اور مکمل ہونے کا عین ثبوت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن صرف عزت و اقتدار اور آزادی و جاہلیت کی تعلیم دیتا ہے۔ جو قومیں اس کی تعلیم پر چلیں گی معزز، مقتدر، آزاد اور حاکم رہیں گی۔ محکومی اور غلامی کی زندگی سے انہیں واسطہ ہی نہ پڑے گا۔ البتہ جو لوگ اس کی تعلیم سے روگردانی اور سرتابی کو نہیں سمجھتے وہ محکوم اور غلام ہو جائیں گے اور اس صورت میں قرآنی تعلیم یا اس کو نازل کرنے

والے پران کی غلامی و محکومی اور ذلت و تباہی کی کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوگی۔

الغرض یہ ہے قرآن اور اس کی تعلیم جس پر عمل کر کے قرن اول کے مسلمانوں نے دنیا پر حکمرانی کی۔ جب تک پچاس فیصدی مسلمان بھی اس تعلیم پر عمل کرتے رہے انہیں دنیا کی سیادت حاصل رہی، لیکن جب سے ان کی اکثریت نے غیر قرآنی عقائد کی پیروی شروع کی وہ رسوا اور ذلیل ہو گئے۔ اس پر بھی اللہ کا کرم ہے کہ آج دنیا کے بہت سے ملکوں میں ان کی اپنی حکومت ہے اور یہ ملک خواہ کتنے ہی کمزور اور دوسروں کے دست نگر ہوں، داخلی اعتبار سے یہ قدرت ضرورت رکھتے ہیں کہ چاہیں تو قرآن پر عمل شروع کر کے پھر اپنا وہی مقام حاصل کریں جس پر انہیں غارت نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب ہم مسلمانوں کے زوال کی وجوہات بیان کریں گے۔

اسباب زوال

مسلمانوں کے زوال کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے ان کے نقائص اور خامیوں پر تفصیلی نظر ڈالی جائے تو بے اختیار یہ مثل یاد آتی ہے کہ ”اونٹ رے اونٹ تیزی کون سی کل سیدھی؟“ اونٹ کی تو ممکن ہے کوئی کل شاید سیدھی بھی ہو لیکن اس انت مرحومہ کی تو واقعی کوئی کل بھی سیدھی نہیں ہے۔ عقائد، عبادات، علم، اخلاق، معیشت اور معاشرت جس لحاظ سے بھی دیکھو کچی اور کجروی کے مظاہرے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ان اسباب زوال کو تفصیلاً بیان کرنا کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ اس لئے ہم صرف وہ بڑے بڑے سبب بیان کریں گے جو دیگر تمام اسباب پر حاوی ہیں۔ آسانی کی غرض سے ان تمام وجوہات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک داخلی اسباب، دوسرے خارجی اسباب۔

داخلی اسباب

داخلی اسباب میں سب سے بڑا سبب تو یہ ہے کہ ہم نے ان اصولوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے جو قرآن نے جماعت کی شیرازہ بندی اور اجتماعی قوت پیدا کرنے کے لئے مقرر کئے ہیں۔ یہ اصول اور پر بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں ہم ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ بیان کر کے یہ دکھائیں گے کہ اب مسلمان ان پر کس طرح عمل کر رہے ہیں۔

جیسا کہ بیان ہو چکا ہے مذہب اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول توحید یعنی اس بات پر ایمان کامل رکھنا ہے کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں ہر لحاظ سے ایک اور بے مثل ہے۔ کسی لحاظ سے بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اس کائنات کا خالق ہے جیسا کہ خود فرماتا ہے۔ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (الرعد: ۱۶) ہر شے کو اس نے اپنی مرضی اور مصلحت سے جیسا چاہا اور جس نچ پر چاہا پیدا کیا ہے۔ جس طرح چاہے اسی طرح رکھتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے انسان کو جس قدر چاہا اختیار بخشا ہے اور جس قدر چاہا مجبور رکھا ہے۔ اس کے سوائے اور کوئی نہ تو کسی کا کچھ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ ان اور دیگر امور میں وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کل مسلمان توحید کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جس ذات قدسی صفات نے اللہ سے تعلیم پا کر مسلمانوں کو یہ عقیدہ سکھایا اور اس پر شدت و سختی سے کاربند رہنے کا حکم دیا، جہالت و مبالغہ کا شکار بے شمار مسلمان آج خود اسی کو خدا مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ احد اور احمد میں فقط میم کا فرق ہے اور یہ میم مادہ کی میم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ احد جب مادی لباس میں ملبوس ہو کر اس زمین پر جلوہ گر ہوا تو احد سے احمد بن گیا۔ ورنہ درحقیقت دونوں نام ایک ہی ذات احدیت مآب کے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ صرف ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے اور اس کے ماننے والوں کی جماعت مشتمل ہے ایک خاص قسم کے صوفیوں اور ان کے مریدوں پر جن کی تعداد لاکھوں سے زیادہ ہے۔ ہند اور پاکستان تک اس عقیدے کے محدود ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہندوستان کے ہندوؤں میں ہزار ہا سال سے اوتار بیت کا عقیدہ رائج و راسخ ہے۔ ہمارے صوفیاء نے جب دیکھا کہ ہندوؤں کا پریشور تورام، کرشن اور رشیوں مینوں کا روپ دھار کر بار بار دنیا میں آتا اور ہندوؤں کی اصلاح اور مدد کرتا رہتا ہے تو ہم کیوں ان سے پیچھے رہیں۔ چنانچہ انہوں نے جھٹ یہ عقیدہ گھڑ مارا۔ مریدوں کو پہلے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیر مغاں گوید

کہ سالک بے خیر نبود زراہ و رسم منزلہا

”اپنا مصلیٰ رنگ لے اگر مرشد کہے اس لیے کہ راہنما منزل کی طرف جانے کے طریقے جانتا ہے۔“

انہوں نے بے چون و چرا اس ہنوت کو تسلیم کر لیا۔ صوفیوں نے سینکڑوں مقالات اور کتابیں اس پر

لکھیں۔ شاعروں نے ہزار ہا شعر نظمیں اور گیت اس پر کہے۔ پیروں کی مجلسوں اور بزرگوں کے عرسوں پر، ڈوموں، توالوں اور رنڈیوں نے اس کی تبلیغ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بے شمار لوگ آج اس کو حقیقت جانتے اور مانتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھتا کہ قرآن اس کی بابت کیا کہتا ہے اور خود رسول اللہ ﷺ کی احادیث کیا بیان کرتی ہیں۔ اگر یہ عقیدہ صرف جہلاء ہی تک محدود ہوتا تو بھی ہم صبر کر لیتے۔ رونا تو یہ ہے کہ اچھے خاصے تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے معتقد ہیں اور علی الرغم قرآن و احادیث، اس کی ترویج کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ تو بلا استثناء رسول کو خدا مانتے ہیں لیکن زیادہ ایسے ہیں جو حضور ﷺ کو تقریباً ہر بات میں خدا کا شریک گردانتے ہیں۔ اس قسم کے مضامین اور اشعار جمع کئے جائیں تو ایک طومار ہو جائے۔ اس لئے ہم شتہ نمونہ از خردارے صرف دو شعر لکھتے ہیں۔ ایک صاحب فرماتے ہیں۔

اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے

جو کچھ مجھے لینا ہے لوں گا میں محمد ﷺ سے

ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ اس شاعر کے نزدیک اللہ کس قدر بے چارہ (نقل کفر کفر نہ باشد) اور محمد رسول

اللہ ﷺ کس قدر قادر مطلق ہیں۔ دوسرے کسی شاعر کا شعر ہے۔

کہتا ہوں میں رسول مرا کار ساز ہے

یہ کفر وہ ہے جس پہ کہ ایماں کو ناز ہے

ذرا اس ”کہتا ہوں میں“ کا ٹھٹھ ملاحظہ فرمائیے۔ شاعر صاحب کا انداز بیان یہ ہے کہ قرآن لاکھ کہے

کہ کار ساز صرف اللہ ہے اور رسول اللہ لاکھ اس کی تصدیق فرمائیں یہ سب غلط (نعوذ باللہ) مگر ”میں جو کہتا

ہوں“ اور علی الاعلان کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، خم ٹھونک کر کہتا ہوں اور علی الرغم قرآن و حدیث کہتا

ہوں کہ میرا کار ساز تو صرف رسول ہی ہے۔ یہ صحیح اور پھر یہ بھی کہ اگر ایسا کہنا کفر ہے تو ہوا کرے۔ میں اس

ایمان کی کیا پروا کرتا ہوں جس پر قائم رہنے کا حکم قرآن و حدیث میں ہے۔ واہ کیا ڈھٹائی ہے۔ کیا پختہ ایمان

ہے۔ کیسی اچھی تعلیم ہے جو ایک گری ہوئی قوم کو دی جا رہی ہے۔ ع

وائے گر در پس امروز بود فردائے

قرآن میں آنحضرت ﷺ کے متعلق جو آیات ہیں ان میں سے چند ایک کا مفہوم ملاحظہ ہو۔

(۱) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ..... ۰

”حضور اقدس کی شان تو یہ ہے کہ وہ رسول خدا ہیں جیسا کہ پہلے بھی کئی رسول مبعوث فرمائے گئے اگر وہ وصال فرما جائیں یا شہید کر دیئے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر واپس لوٹ جاؤ گے؟ (آل عمران: ۱۴۴)

(۲) قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ..... ۵

”آپ فرمادیجئے کہ ہم نے کبھی اپنے پاس اللہ کے خزانے رکھنے کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی غیب دان (Predictor) ہونے کا اور نہ ہی کبھی یہ فرمایا ہے کہ ہم فرشتہ ہیں۔“ (الانعام: ۵۰)

(۳) قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاءِ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ..... (الاحقاف: ۹)

”آپ فرمادیجئے کہ ہم کوئی ایسے انوکھے رسول نہیں کہ جس سے پہلے کوئی پیغمبر نہ گزرا ہو اور ہم از خود یہ جاننے کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، ہم تو اسی کی پیروی کرتے ہیں جو ہم پر وحی کیا جاتا ہے اور میرا کام تو اعلانیہ ہدایت کرنا ہے۔“ ☆

(۴) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط..... (الاعراف: ۱۸۸)

”فرمادیجئے کہ میں تو اپنی جان کے نفع و نقصان کا بھی خود مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہے یعنی جتنا اختیار یا علم اللہ بخش دے۔“

(۵) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا..... ۵

فرمادیجئے کہ بیشک میں مالک نہیں تمہاری تکلیف یا بھلائی کا (اگر تم ہدایت قبول نہ کر کے اپنا نقصان کر لو یا رشد و ہدایت اختیار کر کے نفع پا لو۔ (الحج: ۲۱))

ان کھلی اور صاف آیات کی موجودگی میں حضور ﷺ کو خدا ماننا اور قادر مطلق جاننا یا کسی لحاظ سے بھی اللہ کا شریک ٹھہرانا کہاں کا اسلام ہے اور کون سی مسلمانی؟ قرآن میں حضور ﷺ کی بے انتہا توصیف اور بڑائی بیان کی گئی ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ حضور ﷺ کسی حیثیت میں بھی اللہ کے شریک یا برابر ہیں۔ حضور ﷺ کی سب سے خصوصی بزرگی تو یہ ہے کہ اور نبی تو صرف اپنی اپنی قوم کے لئے آئے لیکن آپ تمام دنیا کے لئے مبعوث ہوئے اور حضور ﷺ کی وساطت سے دنیا کی ہدایت کے لئے وہ آخری اور قطعی آئین نافذ ہوا جس کا نام قرآن ہے۔

☆ یہاں استعمال ہونے والا لفظ ”ادری“ کا ماخذ ”درایت“ ہے۔ جس کے معنی از خود جاننے یا اپنے انداز سے تخمینہ لگانے کے ہیں چنانچہ ”ادری“ کا معنی ہوگا میں نے جان لیا، اپنے انداز سے یا گمان سے، غور و فکر سے یا تخمینہ سے اور آیت مذکورہ کا سلیس ترجمہ یہ ہوا کہ ”میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا اس کو میں اپنے انداز سے، غور و فکر یا قیاس سے نہیں جانتا“، مگر جو علم مجھے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اس کی بدولت بہت کچھ معلوم ہے۔ اسی لیے ہم تمہیں آنے والے وقت سے ڈراتے ہیں جو تم پر تمہاری بد اعمالیوں کے سبب پڑ جائے گا اور ہمارا کام تو اعلانیہ ہدایت کرنا ہے۔

اگر آپ ﷺ پیدا نہ ہوتے اور آپ کے ذریعہ قرآن اور اخلاق محمدی ﷺ کی تعلیم دنیا کو نہ دی جاتی تو کون صحیح اندازہ کر سکتا ہے کہ آج دنیا کس حالت میں ہوتی؟ حضور ﷺ کی بعثت کے وقت نہ صرف یورپ بلکہ دنیا کے ہر ملک میں وحشت و بربریت کا دور دورہ تھا اور انسان کو انسان کھا رہا تھا۔ ساری دنیا میں یہ ایک معمولی بات تھی کہ صاحبانِ اقتدار اپنے مجرموں، غلاموں اور بے گناہ معتوب لوگوں کو شیروں اور کتوں سے پھڑواتے، زندہ گزواتے اور دیواروں میں چنوا دیتے تھے۔ اکثر ملکوں میں دختر کشی عام تھی اور ہندوستان میں دختر کشی کے علاوہ پتھر کی مورتیوں کے آگے انسانی جانوں کی قربانیاں دی جاتی تھیں اور بیوہ عورتوں کو اپنے مردہ شوہروں کے ساتھ جلنا پڑتا تھا۔ اس وقت صرف اسلام ہی تھا جس نے یہ بتایا کہ مساوات اور امن و امان سے رہنے کے طریقے کیا ہیں۔ وہ قرطبہ، غرناطہ، بغداد اور دمشق کی اسلامی درسگاہیں ہی تو تھیں جہاں یورپ اور دنیا کے دوسرے ممالک سے آ کر لوگ احلاقِ حسنہ اور تہذیب و شرافت کے معنے سیکھتے تھے۔ ایک موٹی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب صرف اسلامی تہذیب کا آفتاب نصف النہار پر تھا۔ اس وقت علم و اخلاق کی روشنی سوائے اسلامی ممالک کے اور کہیں سے حاصل ہو ہی نہ سکتی تھی۔ اس لئے آج جو کچھ بھی کسی قوم کے پاس ہے۔ اس کا منبع صرف اسلام ہی کا سرچشمہ ہے۔ الغرض رسول خدا ﷺ کی اصل بزرگی اور بڑائی یہ ہے کہ حضور ﷺ کے اسوہ حسنہ اور حضور ﷺ کی تعلیم سے وہ اخلاق پیدا ہوا جس نے آج دنیا کو تمدنی ارتقاء کے موجودہ مقام تک پہنچایا۔ ہمارا اپنا ایمان و عقیدہ تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے انسان اب تک پیدا ہوئے، اب موجود ہیں یا قیامت تک پیدا ہوں گے حضور اکرم ﷺ تمام خوبیوں میں ان سب سے بدرجہا افضل و اکرم ہیں اور حضور ﷺ کی شان میں یہ کہنا بلا مبالغہ درست ہے کہ ع

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

کیا یہ بات حضور ﷺ کی بڑائی اور عظمت کے لئے کافی نہیں جو حضور ﷺ کو خدا ہی مانا جائے اور اس کے لئے طرح طرح کی تاویل کی جائیں اور قصے گھڑے جائیں۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہم نے تو خدا کو حضور ﷺ ہی کے ذریعے سے جانا ہے لہذا ہمارے لئے تو جو کچھ ہیں حضور ﷺ ہی ہیں، اگر حضور ﷺ نہ ہوتے تو خدا کا تصور بھی نہ ہوتا۔ ہم اس بات کی صداقت کو سو فیصدی تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ آپ سب کو مسبب اور واسطہ کو مقصود ٹھہرائیں۔ اے رسول اللہ ﷺ کی محبت کے دعوے دارو! سچی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کا حکم آنکھ بند کر کے مانا جائے۔ پھر بتاؤ کہ جب قدم قدم پر

حضور ﷺ نے اپنے عہد ہونے کا اقرار کیا ہے تو تم ان کو کسی حیثیت سے بھی اللہ کا شریک کس طرح ٹھہرا سکتے ہو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو اسلام یا پیغمبر اسلام کی کوئی خدمت نہیں۔ بجالاتے بلکہ اپنے محبوب ﷺ کی حکم عدولی کے ساتھ اسلام کو نقصان پہنچاتے، دوسری قوموں میں مسلمانوں کو ذلیل کرتے اور خدا اور رسول ﷺ کی ہنسی اڑواتے ہو۔ غیر مسلم اقوام میں اسلام کی تبلیغ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن آج کل کی دنیا میں محض معجزات و کرامات اور خوارق عادات بیان کر کے دوسروں کو مسلمان کرنے کی کوشش کرنے سے کوئی فائدہ مترتب نہیں ہو سکتا۔ ایسی باتوں سے آج کے متمدن اور دانشمند لوگ اسلام کی طرف مائل نہیں ہو سکتے، بلکہ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو آج سائنس کی اس ترقی کے باوجود پورے یورپ و امریکہ کو تسکین روحانی اور عالمی امن وامان کے لئے ٹھوس اور قطعی اصولوں کی سخت تلاش و جستجو ہے۔ تمہیں چاہیے کہ قرآن کی تعلیم اور رسول اللہ ﷺ کے اسوہ حسنہ سے یہ اصول ان کے سامنے پیش کرو۔ دیکھو! زمانہ بدلتا رہا ہے، بدل رہا ہے، بدلتا رہے گا، معاشرت بدلے گی، معیشت کے طریقے بدلیں گے، خیالات میں تبدیلی آئے گی، افکار میں تغیر ہوگا لیکن جہاں تک دنیا میں امن و آسائش سے زندگی گزارنے کا سوال ہے قرآن قیامت تک نوع انسانی کو صحیح طریقے بتاتا اور صراط مستقیم دکھاتا رہے گا۔ اے رسول اللہ کی محبت و وراثت کے دعویدارو! نئی شاہراہوں پر بھی قرآن کی سرج لائٹ ڈالو تاکہ سائنس کے دیوانوں اور ماہر مشتری کے مسافروں کو اس روشنی میں اپنا راستہ نظر آجائے اور وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی غلامی کا حلقہ اپنے کان میں ڈال لیں۔

رسول اللہ ﷺ کے بعد صحابہؓ کی باری ہے لیکن صحابیوں میں صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات بہجت آیات ہی ایسی ہے جن کو بہت سے مسلمان خدا کی طرح حاضر و ناظر، قادر و قیوم اور قاضی الحاجات مانتے ہیں اور ٹھہری توحیح خدا ہی جانتے ہیں۔ نہ معلوم ان مسلمانوں کو انسانوں کے خدا بنانے میں کیا مزہ آتا ہے۔ ورنہ کیا حضور شیر خدا کی بزرگی اور بڑائی کے لیے یہ حقائق کافی نہیں کہ آپ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان، رسول خدا ﷺ کے سب سے عزیز صحابی، مددگار، دوست اور داماد تھے۔ کیا آپ کی عزت و مکرمت کے لئے یہ کچھ کم ہے کہ آپ دنیا کے سب سے بہادر سپاہی، لشکر رسول ﷺ کے سب سے جری مجاہد اور اسلام کے سب سے بڑے فدائی تھے۔ کیا آپ کی فضیلت و رفعت کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ سب سے پکے زاہد، عابد، صالح، مٹھی، اخلاق محمدی ﷺ کا مکمل نمونہ اور آنحضور ﷺ کے تمام علوم ظاہری و باطنی کے حامل اور قائم ہیں۔

صحابہؓ کے بعد آئمہ کرام ہیں۔ ان قدسی صفات بزرگوں میں سب سے زیادہ قابل ذکر ہستی جناب سیدنا حضرت امام حسینؓ کی ہے جن کے متعلق بے شمار مسلمان وہی عقائد رکھتے ہیں جو اوپر رسول اکرم ﷺ اور علیؓ معظم کے ضمن میں بیان ہوئے۔ دل چاہتا تھا کہ امام عالی مقامؓ کی تعریف میں کچھ لکھا جائے لیکن بخدا جس قدر آپ کے اخلاق و کردار پر غور کیا، دماغ کو مفلوج، قوت بیان کو لنگ اور زبان قلم کو گنگ پایا اور ان چار مصرعوں سے بہتر مضمون سمجھ میں نہ آیا جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شان میں تحریر فرمائے ہیں۔ یعنی ۔

شاہ است حسینؓ بادشاہ است حسینؓ

دین است حسینؓ و دین پناہ است حسینؓ

سرداد و نداد دست در دست یزید

حقا کہ بنائے لا الہ است حسینؓ

”حضرت امام حسینؓ بادشاہ ہیں اور آپؓ نے دین اسلام کی سر بلندی کے جام شہادت نوش کر لیا لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد رکھی۔“

کون حسینؓ؟ وہ کہ جہاں اس کے پد بزرگوار نے دور اول میں ذوالفقار تابدار سے فتنہ ارتداد کا سر قلم کر کے قصر اسلام کی بنیادیں محکم کی تھیں وہاں دور ثانی میں اس نے خود اپنا سر قلم کرا کے اسلام کی گرتی ہوئی عمارت کو تھام لیا۔ ہاں وہی حسینؓ جن کی یادگار میں ہم ہر سال محرم کے عشرہ اول میں سوگ مناتے ہیں۔

محرم میں کیا ہوتا ہے؟ تعزیئے بنائے جاتے ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ مہندی اور ذوالجناح وغیرہ کے جلوں نکالے جاتے ہیں، مجالس عزاء قائم کی جاتی ہیں۔ جن میں بہت تھوڑا سا کردار حسین اور بہت زیادہ واقعات کربلا بیان کئے جاتے ہیں، عزاء خواں خود بھی روتے ہیں، اوروں کو بھی رلاتے ہیں، ماتم ہوتا ہے، شیعہ بھائی ۱۳ دن تک سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، بھوکے پیاسے، برہنہ سر اور برہنہ پارہنتے اور زمین پر سوتے ہیں، دسویں کی رات اور دن میں تعزیوں کے جلوس نکلتے ہیں، جن کے ساتھ مرثیہ خواں مرثیے اور سوز پڑھتے ہیں، ماتم کرنے والے ماتم کرتے ہیں اور بعض لوگ زنجیروں سے سید کوئی کر کے لہولہان ہو جاتے ہیں۔ پٹا، بنوٹ اور گتکے کے اکھاڑوں میں ماہرین اپنا پناہ ہنر دکھاتے ہیں۔ مٹھیں ماننے والے مٹھیں ماننے اور تعزیوں پر نذریں اور مٹھائیاں چڑھاتے ہیں۔ مٹھوں کی نشانیوں میں کپڑوں کی دھجیاں اور گلاوے باندھے جاتے اور جناب

امام سے براہ راست درخواستیں کی جاتی ہیں کہ ہماری فلاں منت پوری ہوگئی تو آئندہ سال فلاں چیز تعزیر پر چڑھائی جائے گی۔ الغرض بڑا بھاری میلا ہوتا ہے جس میں صرف چند آنکھیں اشکبار اور چند دل سوگوار ہوتے ہیں۔ باقی سب دنیا خوش و خرم نظر آتی ہے۔ لوگ ہنستے ہیں، تھقے لگاتے ہیں، تھے خریدتے ہیں مٹھائیاں کھاتے ہیں، سگریٹ کے دھوئیں اڑاتے اور تماشہ دیکھ کر اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔

ان باتوں کے علاوہ ہماری آنکھوں نے ہندوستان علی الخصوص جنوبی ہند کے اکثر شہروں اور قصبوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ تعزیوں کے ساتھ رنڈیاں اور لونڈے ناچتے اور نہایت بازاری اور فحش گیت گاتے ہیں۔ لوگ شراب پی کر آتے اور رنگ لریاں مناتے ہیں۔ پہلی ہی تاریخ سے کچھ لوگ شیر بننے ہیں یعنی صرف ایک لنگوٹ باندھ کر سارے بدن پر زرد پینٹ ملتے ہیں، اس پر کالی دھاریاں بناتے ہیں، منہ پر شیر کا مقوہ اور پیچھے ایک دم لگاتے ہیں، دونوں ہاتھوں میں ہرن کا ایک ایک سینگ پکڑتے اور پینترے بدل بدل کر کچھ ناچتے، کچھ تھرکتے بازاروں میں دن بھر گھومتے پھرتے ہیں۔ ان کے پیچھے ایک تاشہ والا تاشہ بجاتا جاتا ہے۔ یہ شیر جس حلوائی یا شراب والے کی دکان پر جاتے ہیں وہی ان کو مٹھائی اور شراب مفت پیش کرتا ہے۔ ہم نے وہاں کے عوام سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو ہم کو بتایا گیا کہ ان آدمیوں کے اندر ولی گھس گئے ہیں۔ دسویں کے جلوس میں طرح طرح کے سوانگ رچائے اور تماشے دکھائے جاتے ہیں۔ لوگ عمدہ لباس پہنتے اور ٹھاٹھ سے میلے میں جاتے ہیں۔ شاگرد پیشہ چڑاسی اور چٹھی رساں انعام طلب کرتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھو کہ کیسا انعام تو کہتے ہیں کہ کیا آج بڑی عید نہیں ہے؟ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ۔

ہم پوچھتے ہیں کہ اس سچھلی خرافات سے قطع نظر کر کے جو کچھ پہلے بیان کیا گیا ہے اگر اس میں سے سب باتیں بلا استثناء صحیح اور درست بلکہ ثواب عظیم ہوں تو بھی اے علیؑ اور حسینؑ کے عاشقو! کیا یہی ایک طریقہ ہے اس شہیدِ اعظم کا سوگ اور اس ”ذبحِ عظیم“ کی یادگار منانے کا۔ اگر تمہاری سمجھ میں اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں آتا تو پھر کم سے کم اسی کو قاعدے اور قرینے سے مناد۔ یہ محرم کے میلے کیا ہوتے ہیں؟ ایک انڈھام بے ہنگام ہوتا ہے، نہ کوئی تنظیم ہوتی ہے نہ انتظام۔ ان میلوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ ان میں سید الشہداء کے کردار اور اس کی شہادتِ عظمیٰ کے مقصد کی تبلیغ کراؤ اور مسلمانوں کو اسلام کے دفاع میں ماننا سکھاؤ۔ مرثیہ اور سوز خوانی ہو یا بینڈ باجوں پر نوحہ سرائی، پٹا بازی ہو یا ماتم آرائی جو کچھ بھی ہو قاعدے، قرینے اور ضبط و نظم کے ساتھ شاندار طریقے سے ہو۔ تربیت یافتہ رضا کاروں کے فوج در فوج دستے ہوں۔ ایک سی وردی ایک سے پٹکے ہوں۔

وہی سب کام اور میلے کے انتظام و اہتمام خوبی و تندہی سے سرانجام دیں۔ متمدن قوموں کے میلوں اور ضبط و نظم سے کچھ سبق لو اور غیر قوموں کی نظر میں اپنی اور اسلام کی سبکی نہ کراؤ۔ تم اگر اتنا بھی کر لو تو بہت ہے لیکن سچ پوچھو تو جس کا نامہ اعظم کی تم یادگار منانا چاہتے ہو اس کے لحاظ سے تو یہ سب کچھ بھی ایک طفلانہ عقیدت مندی سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔

کیا حسینؑ نے اسی لئے جان دی تھی اور سجدے میں سر کو اسی لئے کٹایا تھا کہ ہر سال محرم کے دس بارہ دن تم تعزیر سازی، مرثیہ گوئی اور سینہ کوبی کرو، بھوکے پیاسے رہو اور چند آنسو بہا کر سال بھر کے لئے خاموش بیٹھ جاؤ اور بس۔ اگر تمہارے خیال میں یہی کافی ہے تو پھر تم نہ اس شہیدِ اعظم کی عظمت کو سمجھو نہ اس شہادتِ عظمیٰ کے مقصد کو۔ کیا تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ حسینؑ نے سر کٹایا تھا صرف تعلیم قرآن کی بقا اور اپنے مقتدر نانا محمد عربیؐ کے اسوہ حسنہ کو رہتی دنیا تک برقرار رکھنے کے لیے۔ اگر یہ صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو اس کا نامہ اعظم کی یادگار کا مقصد بھی یہی اور صرف یہی ہونا چاہیے۔ کیا تمہارے خیال میں آج اسلام خطرات سے گھرا ہوا نہیں ہے اور کیا اس کی حفاظت و بقا کے لئے آج پھر اسی قربانی کی ضرورت نہیں جو حسینؑ نے پیش کی تھی اور کیا آج پھر اسی راہ پر گامزن ہونا فرض نہیں ہو گیا ہے جس پر کل حسینؑ گزرے تھے۔

آج اسلام کو دو خطرے ہیں۔ ایک خارجی اور ایک داخلی۔ خارجی خطرہ یہ ہے کہ چاروں طرف ایسی قومیں آباد ہیں جو تم سے بدرجہا طاقتور اور ترقی یافتہ ہیں۔ ان قوموں کے پاس علم و دولت ہے، اتحاد و محبت ہے، حرکت و عمل ہے، جنگی ساز و سامان سے آراستہ فوجیں ہیں، پانی میں چلنے والے جہاز اور آبدوزیں ہیں، ہوا میں اڑنے والے طیارے اور راکٹ ہیں، آگ برسانے والی توپیں ہیں، تباہ کرنے والے ایٹم اور ہائیڈروجن بم ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ زندگی اور اقتدار صرف طاقت کا نام ہے۔ جس کی لاشی اس کی بھینس والی مثل غلط نہیں دنیا میں یہی ہوتا آیا ہے یہی ہوتا رہے گا۔ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی رہیں گی، طاقتور تو میں کمزور قوموں کو غلام بناتی رہیں گی۔ ان قوموں نے اگر تم کو چھوڑ رکھا ہے تو کسی مصلحت اور باہمی عناد و رقابت کی وجہ سے۔ داخلی خطرہ یہ ہے کہ تمہارے پاس علم و دولت ہے نہ اتحاد و محبت، صبر و استقلال ہے نہ حرکت و عمل، ایمان کی طاقت ہے نہ اخلاق کی قوت اور سب سے زیادہ یہ کہ تمہیں اپنی ان کوتاہیوں اور کمزوریوں کا صحیح علم ہے نہ احساس اور اس کمزوری و نااطاقی کو دور کرنے کی کوشش و پرواہ ہے نہ علاج اور دوا۔ تمہارے پاس ایک کتاب ہے سب سے بڑے حکیم کی تصنیف لیکن تمہاری بے پروائی کی یہ حالت ہے کہ اس کی طرف دیکھتے تک نہیں۔

تمہارے تساہل کی یہ کیفیت ہے کہ کسی نسخے کو آزما تے تک نہیں۔ یہ باتیں جب مسلمانوں سے کہی جاتی ہیں تو معلوم ہے وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں ”ارے میاں! اسلام تباہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا اپنا دین ہے، قیامت تک رہے گا۔ اگر موجودہ سب مسلمان بھی فنا ہو جائیں تو اللہ کسی اور قوم کو مسلمان کر دے گا جو اسلام کا چراغ روشن رکھے گی۔“ مطلب یہ کہ ہم بلا سے مار ڈالے جائیں، تباہ ہو جائیں، ہمارے بچے، ہماری بہو بیٹیاں اور بہنیں نسلاً بعد نسل کفر و شرک کی زندگی بسر کریں مگر اپنی خامیوں کو رفع اور دنیا میں عزت و عظمت کی زندگی بسر کرنے کے لئے ٹس سے مس نہ ہوں گے۔ قرآنی تعلیم بچکیاں لے رہی ہے تو لیتی رہے اور محمدی ﷺ اخلاق دم توڑ رہا ہے تو توڑا کرے۔ ایسے مسلمانوں سے تو ہم کیا کہیں لیکن اگر کوئی سننے کو تیار ہے تو سنے کہ حسینؑ نے ان تمام بیماریوں کا علاج یہی بتایا تھا کہ اگر قوم پر کوئی وقت ایسا پڑے جب کوئی دوا با اثر اور کوئی نسخہ کارگر نہ ہو تو اس وقت صرف یہی علاج ہے کہ اپنی جانوں کی قربانی دو اور شجر اسلام کو اپنے خون سے سینچو۔ اے مسلمانو! اگر تم حسینؑ کے عاشق ہو اور ان کے شایان شان یادگار ماننا چاہتے ہو تو اٹھو اور اسلام کو بچانے کے لئے اپنی جانوں کی قربانی دے ڈالو۔ ہمارا یہ مطلب نہیں کہ بلاوجہ جہاد کرو اور مسلمانوں کے گرد و پیش جتنی غیر مسلم قوتیں راج کر رہی ہیں ان پر چڑھ دوڑو۔ یہ بات تو خدا اور رسول ﷺ کے حکم اور تعلیم قرآنی کے خلاف ہے۔ جہاد تو صرف وطن و ملت کی مدافعت میں جان دینے کا نام ہے۔ اللہ کی راہ میں جان دینے کا صرف یہی ایک طریقہ نہیں اور بھی طریقے ہیں۔ کیا یہ طریقہ کچھ کم ہے کہ قوم کو بوقت ضرورت مدافعت کی غرض سے تیار کرنے کے لیے اپنی جانوں کو وقف کر دو، اپنا آسائش و آرام تچ دو، اپنے عشرت کدوں سے باہر آ جاؤ، مرغن اور لذیذ غذائیں ترک کر دو، خدم و حشم کو تیاگ دو، ملبوسات فاخرہ اتار ڈالو، مسافرانہ اور سپاہیانہ زندگی اختیار کرو، سادہ کھاؤ، سادہ پہنو، اپنا روپیہ اور دولت سامان حرب کی فیکٹریاں کھولنے اور ایٹم اور ہائیڈروجن بم بنانے میں صرف کر دو اور کام کو قوم کی اصلاح و فلاح اور تنظیم کے لئے۔ کوشش کرو مسلمانوں میں اخلاق اور ایمان و عمل کی روح پھونکنے کے لئے۔ جانیں لڑا دو آپس کے فرقہ وارانہ اور طفلانہ اختلافات مٹانے کے لئے۔ ہاں اٹھو اور کام کرو۔ ان مقاصد عالیہ کے لئے اپنی جانوں کو گھلا دو، اپنی روجوں کو بگھلا دو، اپنی ہستی کو مٹا دو اور کام کرتے رہو، کرتے رہو، یہاں تک کہ اسلام اور مسلمان پھر اپنا کھوپا ہوا مقام حاصل کر لیں اور ملت اسلامیہ پھر ایک ایسی بُنیان ”مَوْصُوص (سیسہ پلائی ہوئی دیوار) بن جائے کہ جو اس سے ٹکرائے پاش پاش ہو کر رہ جائے۔ مسلمانو! شہادت حسینؑ کی یادگار منانی ہو تو اس طرح مناؤ۔ کیا تم حسینؑ کے پیغام شہادت کی

تعمیل میں اتحاد اسلام کے لئے اتنا کچھ بھی نہیں کر سکتے جتنا بچھلی تحریک میں بھارت کے ہندوؤں نے گاندھی کے مرن برت سے متاثر ہو کر انگریز جیسی جاہل و قاتل قوم کے خلاف متحد ہو کر دکھایا؟

آئمہ عظام کے بعد اولیائے کرام کا نمبر ہے۔ ہم ان کی بابت کیا لکھیں، ماشاء اللہ زندہ اور مردہ لاکھوں اور کروڑوں ہی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو ”أَبَا بَابٍ مِّنْ ذُرِّيَةِ اللَّهِ“ میں کا ایک رب بنا دیا گیا ہے۔ ان بزرگان دین میں سب سے زیادہ قابل ذکر ذات ستودہ صفات جناب حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جن کو لوگ ”بڑے پیر“ یا ”غوث الاعظم دہلی“ کے نام سے پکارتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کی بگڑی بنا سکتے اور اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی مصیبتوں کو ٹال سکتے ہیں۔ یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یا غوث الاعظم دہلی کے نعرے تو لگاتے ہیں اور کبھی بھول کر بھی اللہ کا لفظ زبان پر نہیں لاتے۔ اب اگر آپؑ کی زندگی اور تعلیم کا مطالعہ اور تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے تمام اولیاء میں سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور کتاب و سنت کے پابند تھے اور آپ کی بزرگی اور بڑائی ہرگز اس میں نہ تھی کہ آپ سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید کر دکھاتے، لوگوں کی مرادیں برلاتے، غریبوں کو امیر بناتے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرماتے، بیماروں کو شفا دیتے، مردوں کو زندہ کرتے یا بارہ برس کی ڈوبی ہوئی روایتی ناؤ نکال کر دکھادیتے تھے بلکہ آپ کی ساری عظمت و شان اس بات میں مضمر ہے کہ ساری عمر میں کوئی فعل آپ سے خلاف سنت سرزد نہیں ہوا، نہ کوئی قول خلاف شریعت آپ کی زبان مبارک سے نکلا۔ آپ کی کتابیں فتوح الغیب اور غنیۃ الطالبین موجود ہیں۔ اٹھا کر دیکھ لیجئے ایک ایک لفظ قرآن اور سنت کے انشراح اور اتباع میں ہے۔

ان سب سالکان راہ خدا کی بڑائی اور بزرگی مسلم لیکن کیا اس بزرگی کو ماننے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ان کو خدا یا خدا کا شریک ٹھہرایا جائے، ان کی قبروں پر سجدے کئے جائیں، چادریں اور نذرانے چڑھائے جائیں، مٹوں کے چلے باندھے جائیں، رزق طلب کیا جائے، ان کے مزاروں پر لکھی ہوئی عرضیاں پیش کی جائیں، مرد اُن کے مزار کی خاک کو حرز بازو بنائیں اور عورتیں استنقر ارحل کے لئے پیٹ ننگا کر کے ان کی قبروں سے ملیں۔ شرم کرو اے اسلام کے دعوے دارو کچھ تو شرم کرو۔ مانا کہ انہوں نے زندگی میں بڑی کرامتیں دکھائیں۔ فقیروں کو بادشاہ بنا دیا، بیماروں کو پھونک مار کر اچھا کیا اور مردوں کو ٹھوکر مار کر اٹھا بٹھایا لیکن کیا باوجود اس کے بھی وہ اس قابل ہیں کہ ان کو خدا مانا جائے اور خدائے بزرگ و برتر کو بھلا دیا جائے جس نے ان کو یہ بزرگی اور کرامات عطا کی تھیں۔ ان بزرگان دین کی بزرگی اور بڑائی کو ماننے اور اس کی قدر کرنے کا

طریقہ تو یہ ہے کہ ان کے اخلاق و کردار کی تقلید میں نیکی اختیار کرو، برائیوں سے بچو، شریعت پر چلو اور جس طرح انہوں نے 'صرف ایک خدا' کے عشق و محبت میں یہ مراتب حاصل کئے تھے تم بھی وہی مراتب حاصل کر کے مسلمانوں کی اصلاح و فلاح کے لیے کام کرو، توحید کا ڈنکا بجاؤ، رسالت کا پیغام سناؤ، کفر و شرک سے لوگوں کو بچاؤ اور تعلیم قرآن کی روشنی اور معرفت و حقیقت کے باطنی نور سے مسلمانوں کے ظلمت کدوں کو جگمگا دو اور ان کے سینوں کو متور بنا دو۔

کشف و کرامات بلاشبہ بڑی چیز ہیں۔ یہ ولایت اور بزرگی کی نشانیاں اور ثبوت ہیں لیکن ان کی وجہ سے کسی کو خدا یا خدا کا شریک ماننا کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ کشف میں کیا ہوتا ہے یہی کہ آئندہ کے کچھ واقعات معلوم ہو جاتے ہیں لیکن اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھ پر یا فلاں آدمی پر فلاں مصیبت آنے والی ہے یا فلاں وقت میری یا کسی کی موت واقع ہونی ہے تو کوئی صاحب کشف اس مصیبت یا موت کو ٹال تو نہیں سکتا، تو پھر ایسے کشف سے سوائے رنج و اندوہ کے اور کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح کرامات میں کسی بزرگ سے کوئی بات عجیب و غریب سرزد ہوتی ہے لیکن جتنے بزرگ گزرے ہیں اور اب موجود ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ایسی باتیں محض اللہ کے حکم سے ایک ایسی بے خودی اور خود رفتگی کے عالم میں سرزد ہوتی ہیں جب ہم کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو اے کشف و کرامات کی وجہ سے اولیاء اللہ کو ارباباً مِّنْ دُونِ اللّٰہِ سمجھنے والو! تم خود اس خدائے قادر و قیوم کو کیوں نہیں مانتے اور مصیبتوں کے وقت خود اسی کو کیوں نہیں یاد کرتے جس نے اولیاء اللہ کو بزرگی عطا فرمائی ہے۔ یہ خدا اگر چاہے تو بے شک تمہاری آنے والی مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے اور اگر تم کسی کو محض کرامات ہی کی وجہ سے قادر و توانا مانتے ہو تو پھر سورج کی پرستش کیوں نہیں کرتے جو دنیا کا سب سے بڑا کراماتی ہے۔ یہ سورج تمہاری زمین کو روشنی اور حرارت پہنچاتا ہے جس سے زندگی قائم ہے، یہ تمہارے سمندروں سے پانی کو بھاپ بنا کر اڑاتا ہے جس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور تمہارا رزق پیدا ہوتا ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو کوئی جاندار بھی اس زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ پس اگر کرامتوں اور فائدہ و فیض رسانی ہی پر کسی کے ماننے یا نہ ماننے کا انحصار ہے تو پھر سورج کو مانو اور اس کی پرستش کرو۔ بے انتہا لوگ سورج کی اسی وجہ سے پرستش کرتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں لیکن تھوڑی سی عقل والے بھی جانتے ہیں کہ سورج خود مخلوق ہے، اس میں یہ حرارت اور روشنی بھی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ انسان کو تو اپنے اعمال و افعال پر کاہنی اختیار ہے لیکن سورج تو محض مجبور ہے۔ جو کام اس کے سپرد ہیں، مجال ہے کہ ان سے لیکر بال برابر بھی روگردانی

کر سکے۔ تو اے بھلے لوگو! تم صرف اس خدا کو کیوں نہیں مانتے جس نے حیات آفرینی کی یہ مشین یعنی یہ سورج پیدا کیا ہے اور جو سورہ البین آیت: ۳۸ میں اس سورج کی بابت فرماتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۗ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ ”اور سورج چلا جاتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے رستہ (ٹھکانے) پر یہ (خدائے) غالب (اور) دانا کا (مقرر کیا ہوا) اندازہ ہے۔“

پچھلے بیانات سے یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مسلمانوں کی تعداد کثیر نے کس طرح ”ایک اللہ“ کو چھوڑ کر اپنے لئے بے شمار ”اَرَبَاباً مِّنْ دُونِ اللّٰہِ“ پیدا کر لئے اور توحید کے عقیدے اور توحید پرستی کے کس طرح ٹکڑے اڑا دیئے۔ اب یہ بتانا ہے کہ باوجود ان تمام باتوں کے اب بھی چالیس پچاس فیصدی مسلمان ایسے رہ گئے تھے جو صرف ایک اللہ کو مانتے اور اسی پر ایمان رکھتے تھے خواہ وہ ایمان کتنا ہی کمزور کیوں نہ تھا لیکن اب اب زمانہ نے توحید کے عقیدے کو مٹانے میں صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ ابھی ایک قیامت اور آنے والی تھی، ایک طوفان اور اٹھنے والا تھا۔ یہ طوفان عشق الہی کے خاص دعوے داروں اور معرفت و حقیقت کے سب سے بڑے علم برداروں کی خانقاہوں اور عزالت کدوں سے اٹھا اور عقیدہ توحید کی جو کچھ دیجیاں باقی رہ گئی تھیں ان کو بھی پارہ پارہ کر گیا۔ یہ تھا صوفیوں کا عقیدہ ”ہمداوست“ یا ”وحدت الوجود“۔

ہم مانتے ہیں کہ اس عقیدے کے مبلغوں میں چند بڑے بزرگ اور ولی اللہ بھی تھے اور ان کی نیتیں انتہائی نیک اور پاک تھیں۔ ان پر جو کیفیتیں اپنے سلوک و سیر میں طاری ہوئیں وہ انہوں نے جن الفاظ میں بھی ہو سکا آگے آنے والے سالکوں کی معلومات اور افادے کے لئے قلم بند کر دیں لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ بات جب حقیقی اہل اللہ کے حلقہ سے نکل کر جاہل اور جھوٹے صوفیوں کے کان میں پڑی اور ان سے عوام تک پہنچی تو ان پر اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ کائنات کے ذرہ ذرہ کو خدا سمجھ بیٹھے۔ عقیدہ توحید پر یہ چوٹ بہت زبردست تھی وہ اس کو نہ سنبھال سکا۔ یعنی اب تک تو چند ہستیاں ہی اللہ کی شریک گردانی جاتی تھیں اب کائنات کی ہر چیز خدا بن گئی۔ (استغفر اللہ) لیکن الحمد للہ کہ علماء، فقراء اور عوام میں آج بھی کثیر تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مگر افسوس کہ ان میں سے بھی زیادہ کا ایمان اس قدر محکم نہیں جس قدر محکم ہونا چاہیے۔ اگر موحّدین کی اس قلیل تعداد کو بھی اللہ پر ایمان کامل اور یقین محکم ہوتا تو یہی جماعت تمام دنیا کے مسلمانوں کو اٹھانے اور صحیح راستے پر چلانے میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ ”ہمداوست“ کا مکمل بیان ہم آگے کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ حقیقت نہیں صرف ایک کیفیت ہے جو عملی سلوک میں ایک خاص مقام پر

سائلین راہ خدا میں سے کسی کسی پر طاری ہوتی ہے اور وہ غلطی سے اس کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔
الغرض! یہ حشر ہوا اس عقیدہ تو حید کا جو مسلمانوں کے دین کی اساس، ان کی جماعتی شیرازہ بندی کی بنیاد اور اجتماعی طاقت کا اصل راز تھا۔ اب تھوڑا سا حال اتحاد کا سنئے۔

اتحاد

معلوم نہیں خدا کی کیا مصلحت تھی کہ اسلام کے ساتھ ہی منافقوں کو بھی پیدا کر دیا۔ یہ منافق ابتداء ہی سے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے اور ان کی اجتماعی قوت کو کمزور کرنے میں کوشاں رہے۔ حضرت عمرؓ کی خلافت تک تو ان کا بس نہ چلا لیکن حضرت عثمانؓ کی بڑی مزاج سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت، حضرت علیؓ سے حضرت عائشہؓ اور امیر معاویہؓ کی لڑائیاں اور حضرت امام حسینؓ کی شہادت انہی منافقوں کی شرارتوں کا نتیجہ تھی۔ حضرت علیؓ کے زمانہ ہی میں مسلمان دو تین فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے لیکن یہ اختلافات زیادہ نمایاں اور موثر نہ تھے لیکن شہادت امام حسینؓ کے بعد تو ملت اسلامیہ اعلانہ کی فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد ان فرقوں کی تعداد ہمیشہ بڑھتی رہی یہاں تک کہ بہتر سے بڑھ کر کئی سو تک پہنچ گئی۔ باوجود ازیں یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے یہ اختلافات ہرگز ہرگز اصولی نہیں بلکہ محض فروعی ہیں کیونکہ قرآن، رسول اور اللہ کو سبھی مانتے ہیں۔ یہ اختلافات ان فرقوں کے بانیوں کے اس اجتہادی اختلاف سے پیدا ہوئے جس کو سرور کائنات ﷺ نے رحمت فرمایا ہے لیکن یہاں یہ حالت ہے کہ تمام فرقوں کے مسلمان ایک دوسرے سے اس قدر بیگانہ اور دور ہیں کہ آپس میں بات چیت کرنے اور پاس بٹھانے کے بھی روادار نہیں۔ حتیٰ کہ ایک فرقہ کا مسلمان دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز تک ادا نہیں کر سکتا۔ ہم نے یہ مناظر بیسیوں مرتبہ پنچشم خود دیکھے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر فرقے کی مسجد میں بھول کر بھی چلا آیا تو اس کو گالیاں دی گئیں، بے عزت کیا گیا اور مار پیٹ کر نکال دیا گیا۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں لیکن آج دو سنگے بھائیوں میں بھی وہ محبت نہیں جو کسی زمانہ میں دو غیر ملکی اور اجنبی مسلمانوں میں ہوا کرتی تھی۔ ہم نے ہر سہا برس نہایت رنج و اندوہ سے اس بات کا مطالعہ کیا ہے کہ ایک چار کمرے والے مکان میں چار مختلف ہندو خاندان نہایت سلوک اور محبت سے رہ سکتے ہیں لیکن ایک دس کمرے والی کوٹھی میں دو سنگے مسلمان بھائی ہرگز نہیں رہ سکتے اور اگر وہ رہ بھی سکیں تو ان کی بیگمات تو یقیناً نہیں رہ سکتیں۔ ایک مکان تو کیا مسلمان تو ہمسایوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے نہیں رہتے۔ رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ ”وہ شخص جنت

میں داخل نہ ہوگا جس کا ہمسایہ اس کی برائیوں سے امن میں نہ ہو۔“ لیکن ہمارے معاشرے میں تو بہت کم ایسے خوش نصیب ہوں گے جو اپنے ہمسایوں کے شر سے امن میں ہوں۔ قرون اولیٰ کا تو ذکر ہی کیا ہمارے دیکھتے دیکھتے پچاس برس پہلے تک یہ بات تھی کہ جب کوئی ہندو سفر پر جاتا تو اپنے بیوی بچوں اور مال و دولت کو ہندو کی بجائے کسی مسلمان پڑوسی کے سپرد کر کے جانا بہتر سمجھتا تھا لیکن بعد میں یہ کا یا پٹی کہ آج کوئی غیر مسلم اپنے محلہ میں کسی مسلمان کو کرایہ پر مکان دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔

مسلمانوں کا افتراق مذہبی فرقہ بندی تک ہی محدود نہیں بلکہ اس کی اور بھی کئی شکلیں ہیں۔ مثلاً نسلی، وطنی، قومی، لسانی اور سیاسی وغیرہ۔ عربی، مصری، افریقی، ترکی، ایرانی، عراقی، افغانستانی اور پاکستانی سبھی اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور بہتر سمجھتے ہیں اور ان میں اپنائیت کا وہ جذبہ ہرگز موجود نہیں جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ بات انگریز کی تبلیغ قومیت پرستی سے پیدا ہوئی ہے۔ اپنے وطن سے محبت کرنا تو بہت سعید جذبہ ہے لیکن دوسرے ملک کے باشندوں کو کمتر یا ذلیل جاننا کہاں کی شرافت ہے خصوصاً جب وہ تمہارے اسلامی بھائی اور کلمے کے شریک ہوں۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی مصیبت تو یہ ہے کہ ایک ہی ملک کے مختلف صوبوں اور علاقوں میں احساس کمتری اور برتری بلکہ جذبہ منافرت موجود ہے۔ پاکستان ہی کو لیجئے تقسیم ہند کے بعد اس میں پانچ صوبے تھے جن میں سے اب چار صوبوں کو ملا کر مغربی پاکستان کی ایک وحدت بنا دی گئی ہے لیکن باوجود اس کے بنگالی، پنجابی، سندھی، پنجتونی اور بلوچی کی باہمی نفرت اب بھی دور نہیں ہوئی۔ اس منافرت کا بیان الفاظ میں تو ممکن نہیں۔ یہ مناظر دیکھنا اور یہ باتیں سننا ہوں تو دفتروں میں جائے اور پنچشم خود ملاحظہ فرمائیے کہ وہاں کس قدر منظم مخاصمت باہم دگر پائی جاتی ہے۔ چیراسی کی معمولی سی آسامی بھی خالی ہو تو ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ کلرک اور سپرنٹنڈنٹ ہی نہیں بلکہ بڑے سے بڑے افسروں تک کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ آسامی ان کے علاقے کے کسی آدمی کو ملے۔ بڑی بڑی آسامیوں کا تو ذکر ہی فضول ہے۔ عام طور پر ہر افسر یہ کوشش کرتا ہے کہ لائق اور جائز حقداروں کو محروم کر کے یہ آسامی اس کے کسی رشتہ دار کو نہیں تو علاقے کے آدمی ہی کو مل جائے خواہ وہ کتنا ہی نالائق اور جو نیر کیوں نہ ہو۔ علاوہ ازیں اکثر افسران اپنے غیر علاقائی ماتحتوں کو محض اس لئے تنگ کرتے اور نالائق بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ وہ ترقی نہ کر سکیں۔ ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کلیہ میں کوئی استثنا ہی نہیں ہے۔ بلاشبہ اچھے، نیک اور منصف مزاج افسروں کی بھی کمی نہیں لیکن عام حالت یہی ہے جو بیان ہوئی اور یہ تمام چالیں اور شرارتیں وہی ہیں جو قبل تقسیم کے ہندوستان میں ہندو

افسران مسلمان ماتحتوں کے ساتھ برتا کرتے تھے۔ کیا کسی قوم کے زندہ رہنے اور طاقتور بننے کے یہی آثار ہیں۔ دعویٰ تو یہ کیا جاتا ہے کہ تمام پاکستانی ایک قوم ہیں لیکن عملی ثبوت اس کے خلاف دیا جاتا ہے۔

صوبائی اور علاقائی اختلافات سے زیادہ اندوہناک لسانی تعصب ہے۔ چنانچہ جب پاکستان میں ایک قومی اور سرکاری زبان بنانے کا سوال پیدا ہوا تو ایک قیامت برپا ہو گئی۔ مختلف صوبوں کے اکثر لوگ یہی چاہتے تھے کہ ان کی زبان خواہ کسی قدر لچر، پوچ اور کم مایہ کیوں نہ ہو سرکاری زبان بنا دی جائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انگریزی زبان کو ملک میں رائج رکھنے پر تو کبھی اعتراض نہیں کیا لیکن اردو کا نام سنتے ہی چراغ پا ہو گئے۔ کوئی بیوقوف بھی تو اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ اردو ہی صرف ایک ایسی زبان ہے جو اگرچہ کسی صوبے کی بھی مقامی زبان نہیں لیکن تمام ملک بلکہ بیرون ملک بھی بلا تکلف بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں بہت سے علوم کا ترجمہ ہو چکا ہے اور یہ قدرتی استعداد بھی موجود ہے کہ باقی علوم کو بھی اپنے الفاظ کے دامن میں پرورش کر سکے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی نچ اسلامی ہے کیونکہ اس میں عربی و فارسی ادب کا کافی حصہ منتقل ہو چکا ہے لیکن تعصب اور ہٹ دھرمی کا کیا علاج؟ یہاں ہم یہ اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ پنجاب نے اردو کے متعلق جس ایثار، فراخ دلی اور خدمت کا ثبوت دیا ہے، پاکستان کا کوئی علاقہ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ برخلاف ازیں بنگال نے اس معاملہ میں جس قدر تنگدلی کا ثبوت دیا اس پر تعجب ہوتا ہے۔ ہندو اردو سے محض اس لئے نفرت کرتے تھے کہ یہ فارسی اور عربی سے پیدا ہوئی ہے اور ایک اسلامی زبان ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے بنگالی مسلمان بھائیوں کو اس سے کیوں نفرت ہے؟ بنگالی زبان کی اساس سنسکرت پر ہے۔ اس کا سارا لٹریچر ہندوانہ ہے۔ اس کے بڑے بڑے مصنف سب ہندو ہیں۔ الغرض ہر لحاظ سے یہ ایک ہندو زبان ہے اور یہی وجہ ہے کہ بنگالی عوام کے کلچر میں ہندویت زیادہ اور اسلامیت کم ہے اور بنگالی عوام کی اکثریت میں وہ دینی جوش مفقود ہے جو مغربی پاکستان کے مسلمانوں علی الخصوص علاقہ پنجاب کے رہنے والوں میں پایا جاتا ہے۔ زبان کے مسئلہ کا ایک سیدھا ساحل یہی ہے کہ ہر علاقہ میں وہاں کی علاقائی زبان کو چھوٹے پھلنے کا موقعہ دیا جائے لیکن سرکاری اور قومی زبان اردو ہو جو انگریزی کو رفتہ رفتہ ہٹا کر اس کی جگہ لے لے لیکن یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب لوگوں کے دلوں سے صوبائی اور لسانی تعصب دُور ہو جائے۔

ہمارے ملکی اور قومی اتحاد کو پارہ پارہ کرنے والی ایک چیز سیاسی اختلافات بھی ہیں۔ سیاسی اختلافات کس ملک میں نہیں ہوتے لیکن وہاں یہ اختلافات ذاتی دشمنی اور خصامت کی شکل کبھی بھی اختیار نہیں کرتے۔ ہمارے

ملک میں بد نصیبی سے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں سب ایک دوسرے کی دشمن ہیں اور ان کے لیڈر ہمیشہ ایک دوسرے سے دست بگریباں رہتے ہیں۔ انتخابات میں عناد و فساد کی یہ فضا اور بھی گندری ہو جاتی ہے اور جو فریق ہار جاتا ہے وہ فریق ثانی کا مستقل دشمن بن جاتا ہے اور جب ایک وزارت برسر اقتدار آتی ہے تو مخالف پارٹی ذرا ذرا سی بات پر جاو بیجا پروپیگنڈا کر کے عوام کو اس کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آئے دن نئی وزارتیں بنتی رہتی ہیں اور کسی کو بھی سکون و اطمینان سے کام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے زعماء اور نام نہاد لیڈروں کی بھاری اکثریت خلوص و صداقت سے عاری اور ذاتی اقتدار کی طالب ہے اور ان میں سے جو لوگ واقعی خلوص سے قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کی اس خود پرست اکثریت کے سامنے کچھ پیش نہیں جاتی اور وہ کرسی وزارت حاصل کرنے کے بعد بھی قوم کی کوئی خاص خدمت نہیں کر سکتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے عوام میں جہالت کی وجہ سے ابھی سیاسی شعور ہی پیدا نہیں ہوا اور وہ قوم و ملک کے سچے خادموں اور اقتدار پسند مفسدوں میں قطعاً امتیاز نہیں کر سکتے۔ ان تمام مصیبتوں کا علاج صرف یہ ہے کہ عوام میں سیاسی شعور پیدا کیا جائے لیکن یہ کام صرف وہ معدودے چند مقررین اور اخبارات کر سکتے ہیں جنہوں نے سیاسی لیڈروں سے ذاتی منافع حاصل کرنے کے لئے اپنا ضمیر فروخت نہیں کیا ہے۔

رابطہ اور اطاعت

جس قوم میں اتحاد و یگانگت ہی نہ ہو اس میں رابطہ و اطاعت یعنی تنظیم و ڈسپلن پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اسلامی رابطہ و اتحاد کی تربیت گا ہیں ہماری مساجد ہیں لیکن جیسا کہ بیان ہو چکا ہے جب مختلف فرقوں نے اپنی اپنی مساجد ہی الگ بنالی ہوں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھنے کے بھی روادار نہ ہوں بلکہ ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کو تیار رہتے ہوں تو رابطہ و اطاعت کے نشوونما پانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے ان دو اصولوں کی جوڑی اس وقت پلید ہو رہی ہے اس کا ذکر تحصیل حاصل سمجھتے ہوئے عمل کا کچھ بیان کیا جاتا ہے۔

عمل

عمل کی اصل محرک خواہش ہے اور خواہشیں لا تعداد ہیں اس لئے صرف چند محرکات عمل کا بیان کیا جاتا ہے۔ عمل کی سب سے پہلی محرک بھوک پیاس اور سردی گرمی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے خدا اور رسول ﷺ نے سب سے زیادہ زور تجارت پر دیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں

کہ دس حصوں میں سے نو حصے رزق تجارت میں ہے۔ اسی لئے ہمارے اسلاف کسب معاش کی خاطر زیادہ تر تجارت ہی کرتے تھے اور سمندروں اور خشکی کے راستے معلومہ دنیا کے آخری گوشوں تک جا پہنچتے تھے۔

عمل کا دوسرا محرک حصول علم ہے۔ علم سے مراد کتابیں پڑھنا ہی نہیں بلکہ ملکوں اور چیزوں کے حالات اور حقیقت معلوم کرنا بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں سفر کرو اور دیکھو کہ آفرینش کی ابتداء کیوں کر ہوئی اور یہ بھی دیکھو کہ پہلی قوموں کا انجام کیا ہوا۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو خواہ وہ چین میں ہو۔ چنانچہ یہ اللہ اور رسول ﷺ کے فرمانبردار بندے محض حصول علم کے لئے ہزاروں میل سفر کرتے اور کسی تکلیف و مصیبت کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔

عمل کا تیسرا محرک تبلیغ علم ہے۔ طبع انسانی کا فطرتی تقاضا ہے کہ جو کچھ وہ جانتا ہے، چاہتا ہے کہ دوسرے بھی جان لیں۔ چونکہ اسلام میں علم کا اصلی سرچشمہ قرآن اور رسول خدا ﷺ کے ارشادات ہیں اس لئے بے شمار بزرگ دور دراز ممالک میں پہنچ کر قرآن اور حدیث کی تبلیغ کرتے اور تہذیب اسلامی وہاں پھیلاتے تھے۔ ہندوستان، چین، ماجین، انڈونیشیا، افریقہ اور جنوبی یورپ کے بیشتر ممالک میں انہی بزرگوں کی تبلیغ سے اسلام نے فروغ پایا۔

عمل کا چوتھا محرک قوم، تہذیب اور ناموس کا دفاع ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں ان کے تجار اور مبلغین پر بے جا زیادتی یا ظلم و جور ہوا، مجاہدین اسلام نے وہیں پہنچ کر ناموس اسلام کی حفاظت کی۔

یہ تھی ہمارے اسلاف کی حالت کہ وہ مندرجہ بالا امور کو اللہ اور رسول ﷺ کا حکم سمجھ کر بجالاتے تھے۔ آج یہ خیال کر کے تعجب ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں جب سفر و سیاحت کے لئے گاڑیاں تھیں نہ موٹریں، نہ دخانی جہاز تھے نہ ہوائی طیارے، وہ کس طرح شام، ایران، عرب اور مصر وغیرہ سے نکل کر ناپیدا اکنار سمندروں کے سینہ پر اپنے بادبانی جہاز اڑاتے اور بے برگ و گیاہ ریگستانوں اور پر خوف و خطر کو ہستانوں میں اونٹ دوڑاتے یورپ، افریقہ اور ایشیا کے ایک ایک شہر اور قصبہ تک جا پہنچتے تھے۔ الغرض یہ تھی ان کی قوت عمل اور یہی تھا ان کی ترقی اور برتری کا راز۔

اب ہم بتاتے ہیں کہ ان محرکات عمل میں سے پہلا محرک یعنی حصول رزق اگرچہ سب سے قوی اور عام ہے لیکن باقی تین محرکات سے کہیں کمتر اور ادنیٰ ہے۔ یہ کام تو وحوش و طیور اور چوپائے بھی کر لیتے ہیں، پھر

انسان میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ انسان کی شرافت و فضیلت دوسری مخلوقات پر محض اس لئے ہے کہ وہ علم و عقل سے اشیاء کی حقیقت معلوم کرنا، قدرت کے رازوں سے پردے ہٹاتا اور جو کچھ علم و فوائد حاصل کرتا ہے ان سے دوسروں کو بھی نفع پہنچاتا ہے۔ جو قومیں پہلے محرک سے زندگی کی ضروریات حاصل کر کے مطمئن ہو جاتی ہیں، علم حاصل کرنے اور اس کو پھیلانے کی کوشش نہیں کرتیں ان کی ترقی رک جاتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ زوال ہوتا ہے اور آخر کار فنا ہو جاتی ہیں۔ آج کل کی متمدن اقوام نے اس راز کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور اب بھی جب کہ پیٹ اور جسم کی ضروریات پوری کرنے کے لئے ان کے پاس دولت کے بے قیاس خزانے جمع ہو چکے ہیں اور علم و دانش کے ذریعے قدرت کی بہت سی طاقتوں مثلاً بھاپ، بجلی، (Microwaves) اور ایٹمی طاقت پر ان کا قبضہ اور تصرف ہو چکا ہے انہوں نے اپنے افراد کو محرک اور مصروف عمل رکھنے کے لئے دوسرے اعلیٰ مقاصد پیدا کر لئے ہیں۔ مثلاً چاند ستاروں تک پہنچنے کو اپنا مطمح نظر بنا لیا ہے لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ جب ان کے پاس شمسی اور جسمی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کافی دولت جمع ہو گئی تو وہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے اور عیش و عشرت کو اپنا مقصد آخر قرار دے کر مزید عمل کی ضرورت نہ سمجھی۔ اس تساہل اور بے عملی کا انجام یہ ہوا کہ آخر کار نہ صرف وہ دولت ختم ہوئی بلکہ عزت و عظمت اور سیادت و قیادت بھی رخصت ہو گئی۔ یہاں تک کہ آج ملکی دفاع کا تو ذکر ہی کیا شمسی اور جسمی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے بھی ہم دوسرے ملکوں کے محتاج اور دست نگر ہیں۔

سستی، کاہلی اور بے عملی کی یہ وہاں عیاشی و فحاشی کی شکل میں بادشاہوں کے محلات سے شروع ہو کر اعلیٰ اور اوسط درجے کے طبقات کو تباہ کرتی ہوئی عوام تک جا پہنچی جس سے پوری کی پوری قوم مفلوج ہو کر رہ گئی۔ مختلف پیشے ذلیل اور حقیر سمجھے جانے لگے اور ہر طبقے میں اپنے سے اعلیٰ طبقے کے مقابلے میں احساس کمتری پیدا ہو گیا۔ غریب لوگ تو اپنا پیٹ بھرنے کے لئے کوئی نہ کوئی کام کرنے پر مجبور تھے لیکن امراء اور متوسط طبقے کے اشخاص تو خود اپنا ذاتی اور خانگی کام بھی اپنے ہاتھ سے کرنے کو باعث توہین سمجھنے لگے۔ ان خاندانوں کی خواتین اپنا کھانا خود پکانے، برتن مانگنے، کپڑے سینے اور دھونے اور دوسرے گھریلو کام کرنے کو ذلت اور اپنی بد قسمتی خیال کرنے لگیں۔ چنانچہ ناکھڑا لڑکیوں کے لئے ایسی دعائیں زبان زد خاص و عام ہو گئیں جیسے کہ ”بیٹی خدا کرے ایسے گھر جائے جہاں ہل کر پانی نہ پینا پڑے“، ”سدا پلنگ پر بیٹھی کھائے“، گویا ہل کر پانی پینا اور پلنگ پر بیٹھی بیٹھے کھانا کوئی بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے بیماروں، اپاہجوں اور مفلوجوں کا کام نہیں۔ یہی وہ لڑکیاں تھیں کہ

جب شادی کے بعد انہیں خادائیں میسر نہ آسکیں تو عمر بھر اپنی بد قسمتی پر ٹسوے بہاتی رہیں اور گھر کے ماحول کو ہمیشہ جہنم بنائے رکھا۔ یہی دو شیرازیں تھیں کہ جب مائیں بنیں تو اپنے بچوں کو حصول تعلیم کے لئے بھی اپنے گاؤں یا قصبہ سے باہر بھیجنے کو مصیبت خیال کرتی تھیں۔ ذرا ان ماؤں کا مقابلہ قرون اولیٰ کی ان خواتین سے کیجئے جو میدان جنگ میں بھی اپنے مردوں کے ساتھ رہتیں اور ان کی ہر خدمت بجالاتی تھیں اور جہاد کا نعرہ بلند ہوتے ہی اپنے جگر گوشوں کو خود بنا سجا کر میدان جنگ میں بھیجتیں اور جب وہ شہید ہو جاتے تو ساری عمر اس پر فخر کرتیں۔ ع

ہمارے مردوں کا حال ان عورتوں سے بھی بدتر تھا۔ یہ بھی اپنا کوئی کام اپنے ہاتھ سے نہ کر سکتے تھے۔ ہر بات میں خادموں کے دست نگر تھے۔ منہ دھونے، غسل کرنے، کپڑے بدلنے حتیٰ کہ پانی پینے، کھانا کھانے بلکہ پاخانے میں لوٹا تک لے جانے کے لئے انہیں نوکروں کی ضرورت ہوتی تھی۔ ان کے مشاغل شراب اور بھنگ پینا، افیم کھانا، چرس اور چنڈو کے دم لگانا، تاش، شطرنج، چوسر کھیلنا، مرغ اور بیئر لڑانا، پتنگیں اڑانا اور ایسی ہی دوسری بیہودگیاں تھیں۔ اس بے عملی کا ایک معمولی سا تصور مندرجہ ذیل واقعہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔

بہت عرصہ کی بات ہے کہ ایک نواب صاحب کے دولت کدے پر جانے کا اتفاق ہوا۔ گرمی کا موسم اور دن کے دس بجے کا وقت۔ نواب صاحب اپنے عالیشان محل کے ایک وسیع ہال میں تشریف فرما تھے۔ ہال کے دروازوں میں خس کی ٹیٹیاں لگی ہوئی تھیں، پانی چھڑکا اور پکھے کھینچے جا رہے تھے (کیونکہ اس وقت تک بجلی کے پکھے نہیں چلے تھے) ہال کے بیچ میں ایک بڑے تخت پر چاندنی پتھی اور گاؤتیکے لگے ہوئے تھے۔ نواب صاحب ایک بہت ڈھیلا تزیب کا کرتا اور بڑے پانچوں کا پاجامہ پہنے ایک گاؤتیکے سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے۔ تخت کے چاروں طرف کرسیاں پڑی تھیں۔ ہم لوگ ان پر بیٹھ گئے۔ نواب صاحب نہایت ہی خوش اخلاقی سے پیش آئے اور خاطر تواضع میں بے انتہا مبالغہ برتا۔ ہمیں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ نواب صاحب نے یکا یک فرمایا ”ارے کوئی ہے“ چشم زدن میں کئی نوکر حضور حضور کہتے ہوئے آن کھڑے ہوئے۔ نواب صاحب نے ایک نوکر کی طرف دیکھ کر نہایت ہی نرم اور دھیمی آواز سے کہا ”ذرا کھجا دینا“ نوکر آگے بڑھا اور نواب صاحب کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نواب صاحب نے فرمایا ”پیٹھ پر“ نوکر نے نواب صاحب کے کرتے میں ہاتھ ڈال کر ان کی پیٹھ پر کھانا تو انہوں نے فرمایا ”ذرا دہنے کو“ ”ذرا بائیں کو“ ”ذرا اوپر کو“ ”ہاں ذرا اور اوپر کو“ اس طرح نوکر کو وہ صحیح جگہ معلوم ہوئی جہاں کھانا تھا اور وہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت تو

اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا لیکن آج خیال آتا ہے کہ اللہ اکبر کیا حالت تھی ہمارے امراء اور رؤسا کی سستی اور کاہلی کی کہ وہ اپنا بدن تک کھانے کے لیے دوسروں کے محتاج تھے پھر ایسی قوم تباہ نہ ہوتی تو اور کیا ہوتا؟ قوم کی یہ بے عملی موجودہ صدی کے رُبحِ اول تک یونہی رہی اس کے بعد سے حالات کچھ سدھرنے شروع ہوئے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے پہلی عالمگیر جنگ، تحریک آزادی کا جوش و خروش، عُربت و افلاس کی زیادتی اور انگریزی تعلیم کا بڑھتا ہوا رواج تھا جس سے ہمارے عوام و خواص کو عمل اور اپنا کام خود کرنے کا خیال پیدا ہوا لیکن عملی قوت جیسی کہ ایک قوم میں ہونی چاہیے آج بھی موجود نہیں۔ ہمارے نوجوانوں میں بیشتر ایسے ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد ہی اعلیٰ درجے کا کھانا، لباس، ہنگامہ اور موٹر کاروں کو سمجھتے ہیں اور ان میں سے اکثر یہ چیزیں حاصل کرنے کے لئے رشوت، جوئے، چور بازاری اور دوسرے ناپاک ذرائع سے بھی اجتناب نہیں کرتے۔ یہ لوگ زندگی کی کامیابی صرف اپنے ذاتی آرام و آسائش ہی کو سمجھتے ہیں۔ قومی فلاح و بہبود کا تصور بھی ان کے دماغ میں نہیں ہے۔ یہ اتنا نہیں جانتے کہ قوم تباہ ہو جائے تو ہم بھی تباہی سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ بے عملی کا بیان ختم ہوا۔ اب ہم اپنے قومی زوال کی ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں۔

دنیا سے نفرت

مسلمانوں کی تباہی اور زوال کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ دنیا سے متنفر ہو گئے اور دنیاوی عزت و عظمت اور حصولِ دولت و ثروت کو برا سمجھنے لگے۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ جب آپ کسی چیز کے حصول کی خواہش اور کوشش ہی نہ کریں گے بلکہ اس کو عیب سمجھیں گے تو وہ چیز خود بخود آپ کو کس طرح حاصل ہو جائے گی۔ بالکل یہی حال مسلمانوں کا ہوا اور وہ اس طرح کہ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں جب اسلامی فتوحات ایک طرف چین اور ہندوستان کی سرحدوں تک پہنچ گئیں اور دوسری طرف تمام شمالی افریقہ اور اسپین ان کے قبضہ میں آ گیا تو مال و دولت کی وہ بہتات ہوئی کہ غربت کا نام و نشان بھی نہ رہا لیکن جب دولت آئی تو وہ اپنے تمام مصائب بھی ساتھ لائی۔ اب مسلمانوں میں مشقت اور جفاکشی کی بجائے عیش پسندی اور آرام طلبی کی بری عادتیں پیدا ہونے لگیں۔ بادشاہوں نے میدان جنگ میں داد شجاعت دینے کے بجائے محلات میں عیش و عشرت اور عیاشی بلکہ فحاشی کی زندگی اختیار کر لی۔ ملک کا انتظام اور عدالت کا کام وزیروں کے سپرد کیا اور خود نازنینان حرم کی صحبتوں میں شراب ناب اور طاؤس و رباب کی رنگینیوں میں مست و مچو ہو کر رہ گئے۔ رفتہ رفتہ ان کی تقلید ان کے وزراء اور امراء نے کی اور پھر یہ وہاں نہ صرف عمال حکومت بلکہ رعیت کے عوام میں بھی پھیل گئی۔

یاد خدا غائب ہوئی، خوف خدا جاتا رہا اور برائیاں عام ہونے لگیں۔ اس وقت علمائے اسلام اور اولیائے کرام نے ضرورت محسوس کی کہ دنیا کی برائیاں بیان کی جائیں۔ چنانچہ خانقاہوں کے بوریوں اور مسجدوں کے منبروں سے یہ صدا بلند ہوئی کہ دنیا فانی اور ناپائیدار ہے، ذلیل و خوار ہے، کتیا اور مردار ہے اور اس کا چاہنے والا کتا ہے، کافر ہے، مردود ہے، ملعون ہے۔ یہ وعظ موعظ اور حالات کے لحاظ سے ضروری اور ناگزیر تھا لیکن کہنے والوں کی غرض صرف یہ تھی کہ مسلمان دنیاوی عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر خدا کو نہ بھول جائیں اور تعلیم قرآن سے منہ نہ موڑ لیں۔ ان کا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ اسلام نے حصول دنیا ہی کو حرام قرار دیا ہے لیکن جوں جوں زمانہ گزرتا گیا واعظوں کا طرز خطابت اور سننے والوں کی ذہنیت بدلتی گئی، نسلیں بدلتی رہیں اور ہر نسل کے لوگ بچپن ہی سے اس کو سنتے رہے حتیٰ کہ تمام قوم کے دماغ میں یہ خیال راسخ ہو گیا کہ روپیہ پیسہ مکنا حرام اور شان و شوکت کے اسباب مہیا کرنا گناہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قوائے عمل بیکار اور تمام مسلمان من حیث القوم مفلس و نادار ہو کر رہ گئے۔ جہاگیری و جہانبانی کے ولولے تو کجا پیٹ بھرنے کے لئے محنت کرنا بھی مصیبت معلوم ہونے لگا۔ لوگ غربت کی وجہ سے ایمان بیچنے لگے لیکن وعظ جو ہزار بارہ سو برس پہلے شروع ہوا تھا اسی طرح رہا۔ آج بھی ہمارے علماء اور ائمہ وعظ و نصیحت کی مجالس اور مساجد جامع کے منبروں سے یہی کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ

الدُّنْيَا حَيْفَةٌ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ "یعنی" دنیا مر دار ہے اور اس کے طالب کتے۔"

اب اگر ہم قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا اور رسول ﷺ نے تو کہیں بھی اکتساب دنیا اور حصولِ حشمت و جاہ کو حرام نہیں کیا۔ چنانچہ اس بات کے ثبوت میں قرآن سے چند آیات اور ان کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

"لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرما اور عذاب دوزخ سے بچا یہی لوگ ہیں جن کے لئے ان کی محنت کا صلہ ہے اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔" (البقرہ: ۲۰۱-۲۰۲)

زَيْنٌ لِّلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ

عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ۝

"اور خوشنما بنائی گئی ہیں آدمیوں کے لئے مرغوب چیزوں کی محبت مثلاً عورتیں، بچے، سونے چاندی کے ڈھیر، عمدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی باڑی اور یہی چیزیں سرمایہ حیات دنیوی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس (اس سے بھی) اچھا ٹھکانہ ہے۔" (آل عمران: ۱۴)

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ط (الاعراف: ۱۰)

"ہم نے آباد کیا تم کو زمین میں اور پیدا کئے اس میں تمہارے لئے سامان زندگی۔"

یہاں سامان زندگی سے مراد ہر وہ چیز ہے جو زمین سے حاصل ہو مثلاً ہر قسم کا غلہ، پھل، کپڑے بنانے کا سامان، ہر قسم کی دھاتیں اور معدنی اشیاء مثلاً لوہا، تانبا، چاندی، سونا، جواہرات، کونکے اور پٹرول وغیرہ۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط..... ۝

"اے پیغمبر فرما دیجئے کہ جو زینت کے سامان اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں ان کو کس نے حرام کر دیا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ جو لوگ حیات دنیوی میں ایمان لائے

قیامت کے دن یہ چیزیں خاص انہی لوگوں کے لئے ہوں گی۔" (الاعراف: ۳۲)

تشریح: اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نعمت دنیا اس جہان میں تو کافروں اور مومنوں دونوں ہی کے لئے ہیں لیکن آخرت میں صرف مومنوں کو ملیں گی کفار کو نہیں۔

وَأَنْتَعِمُ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا..... ۝

{اور جو کچھ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اُس سے دارِ آخرت کی فکر کر اور اپنے دنیا کے حصہ کو

مت بھول۔" (القصاص: ۷۷)

تشریح: اس آیت کا مطلب ہے کہ دنیا ضرور پیدا کرو لیکن اس کو اس طرح کام میں لاؤ کہ آخرت میں بھی

سرخرو ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صرف یہ کہہ کر کہ "اپنے دنیا کے حصہ کو مت بھول" مسلمانوں کے

حقوق کی حفاظت اور حصول کا ایک مبسوط قانون بیان کر دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہارے جو دنیاوی

حقوق لوگوں پر واجب ہیں ان کو ضرور حاصل کر کے رہو۔ بے جا لحاظ و مروت یا سستی و کاہلی کی وجہ سے ان کے

دست بردار نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے حقوق کی طرف سے بے پروائی برت کر تم اس بات کے

عادی ہو جاؤ گے تو رفتہ رفتہ بڑی بڑی چیزیں ٹٹی کہ سلطنتیں بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گی اور تمہیں احساس تک نہ ہوگا۔ ہندوستان میں مغل بادشاہوں نے یورپین اقوام کو ناجائز حقوق عطا کر کے نتیجہ دیکھ لیا۔ ترکی کی تباہی کا بڑا سبب یہی تھا کہ سلاطین ترکی نے یورپین اقوام کو اپنے ملک اور دارالسلطنت میں ان کے اپنے ڈاک خانے، تارگھر اور عدالتیں بنانے کی اجازت دے دی۔ یہ کسی طرح بھی ان غیر اقوام کا حق نہ تھا بلکہ ترکوں کا حق تھا۔

اب اسی موضوع پر چند احادیث نبوی بھی ملاحظہ ہوں۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اَلْفَقْرُ سِوَادِ الْوَجْهِ فِي الدَّارَيْنِ یعنی ”غربت دونوں جہان میں رسوائی کا موجب ہوتی ہے“۔ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا یعنی ”افلاس کفر کا سبب ہوتا ہے“۔ حضرت عمرؓ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ تَنْزِعِ السُّدْنِيَا مِنْ قَلْبِي وَلَا تَنْزِعْهَا مِنْ يَدِي یعنی ”اے اللہ میرے دل کو دنیا سے خالی رکھ لیکن میرے ہاتھوں کو دنیا سے خالی نہ رکھ“۔ ان تمام آیات اور احادیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حصول دنیا تو کسی طرح بھی منع نہیں لیکن دنیا کی وجہ سے خدا کو بھول جانا بقیعاً منع ہے اور یہی بات ہے جو حضرت مولانا رومؒ فرما گئے ہیں۔ یعنی۔

اہل دنیا کافران مطلق اند

روز و شب در چق چق و در بق بق اند

چپست دنیا از خدا غافل بدن

نے قماش و نقرہ و فرزند و زن

”جن لوگوں کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے وہ تو ہیں ہی کافر اور وہ رات دن فضول باتوں میں اپنی زندگی کا قیمتی وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا ہی دنیا ہے نہ کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کمانا“۔ ہمارے زوال کی ایک اور وجہ عوام کی جہالت اور ہمارے خواص کی کم علمی اور اپنے فرائض کی طرف سے بے پروائی ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے۔

ہمارے عوام

اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش ساٹھ کروڑ ہے۔ اگر ان میں سے پڑھے لکھے لوگ چنے جائیں تو شاید دو فیصدی بھی مشکل سے نکلیں گے اور ان میں سے بھی اکثر ایسے ہوں گے جو صرف معمولی شہد رکھتے ہیں۔ یہ صورت حال بہت ہی مایوس کن ہے۔ اس جہالت کی وجہ سے قوم کا سوادِ اعظم بیکار ہو کر رہ گیا

ہے۔ یہ لوگ نہ تو مذہب ہی کو جانتے ہیں نہ دنیا کے حالات ہی سے باخبر ہیں۔ اس لئے ہمیشہ غیروں کے ہاتھ بک جاتے ہیں اور ملت کی بہبود کا مطلق خیال نہیں کرتے۔

ہمارے علمائے دین

ان میں تعدادِ کثیر ایسے لوگوں کی ہے جو گھر پر دو چار کتابیں پڑھ کر پہلے مولود خواں بنتے ہیں، پھر وعظ و نصیحت کا پیشہ اختیار کر کے رفتہ رفتہ عالمِ دین مشہور ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ دین کے اسرار و غوامص تو کیا اصول و فروع سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ یہی وہ علماء ہیں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لئے مزیدار چٹکلے، اشعار اور بے سراپا روایتیں اور حدیثیں بیان کر کے خراجِ تحسین وصول کرتے اور اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ ان کو ملت کی فلاح و بہبود سے کوئی غرض نہیں، جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں اور اسی کے ہاتھوں اپنا ضمیر فروخت کر دیتے ہیں۔ اب رہے وہ بزرگ جو درحقیقت عالمِ دین ہیں تو ان میں یہ کمی ہے کہ وہ ان علومِ دنیوی سے بے بہرہ ہوتے ہیں جن میں کمال پیدا کئے بغیر آج کی دنیا میں ترقی کرنا اور دوسری متمدن اقوام کے دوش بدوش چلنا قطعاً ناممکن ہے۔ علاوہ ازیں ان علمائے کرام کی پوری عزت و تکریم ملحوظ رکھتے ہوئے بھی ہم یہ کہنے کے لئے مجبور ہیں کہ ان بزرگوں کی اکثریت نے گچھلی کئی صدیوں سے اپنے فرائض کما کھائے ادا نہیں کئے۔ نائب رسول ہونے کی حیثیت سے ان کا فرض ہے کہ وہ عوام کو نہ صرف دین کی تعلیم دیں بلکہ ایسے ذرائع بھی بروئے کار لائیں کہ یہ تعلیم ان میں رائج اور راسخ ہو جائے۔ اگر علمائے دین اپنے فرائض کما کھائے ادا کرتے تو آج ملت کے عوام دین سے اس قدر بے خبر نہ ہوتے۔ دوسرے ممالک کی بابت تو ہم زیادہ نہیں جانتے لیکن ہندوستان اور پاکستان میں تو ہم نے بہ چشم خود دیکھا ہے کہ دیہات کے مسلمانوں کی عظیم اکثریت مذہب کی مبادیات سے بھی واقف نہیں۔ شہرِ دہلی صدیوں تک مسلمانوں کا دارالحکومت رہا ہے۔ وہاں یہ حال ہے کہ دس میل دور چلے جائے تو دیہات میں کوئی نماز سے واقف ہے نہ روزے سے۔ حتیٰ کہ ان کی وضع قطع نام اور رسوم بھی ہندوانہ ہیں۔ اکثر دیہات میں نکاح کے وقت پہلے پنڈت جی ہندو و انہ رسوم کے مطابق پھیرے ڈالتے ہیں۔ پھر قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم میوات کے ایک بہت بڑے گاؤں میں مقیم تھے جہاں مسجد بھی تھی۔ ایک دن ایک میونے دوسرے سے کہا کہ آج میرے لڑکے کا عقیقہ ہے لیکن مٹلاؤ دلی چلا گیا ہے اب بکرا کون کاٹے گا۔ اس نے جواب دیا کہ مٹلاؤ چھری پڑھ کر فلاں شخص کے مکان میں رکھ گیا ہے وہاں سے لے کر تو کاٹ لے۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ مٹلاؤ جی جانوروں کو ذبح کرنے کی اجرت چار آنے فی

جانور کے حساب سے وصول کرتے ہیں اس لئے جب باہر جاتے ہیں تو پتھری پر کبیر دم کر کے رکھ جاتے ہیں تاکہ لوگ ان کی غیر حاضری میں خود ہی جانوروں کو ذبح کر لیں اور ذبیحہ ناجائز نہ ہو۔ جب ملاجی واپس آتے ہیں تو جتنے جانوران کی غیر حاضری میں ذبح ہوئے تھے، سب کی اجرت ان کو دے دی جاتی ہے۔ دہلی سے مشرق کی طرف سینکڑوں میل تک ملاکنے راجپوت آباد ہیں۔ ان کو نماز روزہ تو کیا کلمہ تک بھی نہیں آتا۔ تحریک آزادی کے زمانہ میں جب ہندوؤں نے ٹھڈھی کی مہم شروع کی تو اس علاقہ کے ہزار ہا نام نہاد مسلمان چنگلی بجاتے آ رہے ہو گئے۔

یہ تو تھا اس دہلی کے مضافات کا حال جو صدیوں تک علم دین کا گہوارہ اور علمائے دین کا مرکز رہی ہے۔ دُور اُفتادہ دیہات کی حالت اور بھی ابتر ہے۔ ہر جگہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو نماز روزہ تو کیا رسول خدا ﷺ کے نام مبارک سے بھی واقف نہیں۔ جنوبی ہند میں ایک مرتبہ ایک ایسے علاقہ میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں دس بارہ گاؤں مسلمانوں کے اکٹھے آباد تھے۔ دیکھا تو کسی گاؤں میں بھی مسجد نہ تھی۔ پوچھا کیا آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ جواب ملا کیوں نہیں؟ ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ہر گاؤں کے باہر ایک زیارت یعنی کسی پیر کی قبر ہے وہاں ماتھا ٹیک آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے علمائے دین جن کا کام ہی تبلیغ و تلقین دین ہے کیا یہ ان کا فرض نہ تھا کہ ان شعائر دین سے نا آشنا مسلمانوں کو تلقین کر کے پگلا مسلمان بناتے۔ ہندوستان میں یہ فرض اب اور بھی شدید ہو گیا ہے کیونکہ ٹھڈھی کی تحریک کی وجہ سے ان سب مسلمانوں کے مرتد ہو جانے کا سخت خطرہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کام میں اب پہلے سے کہیں زیادہ دقتیں پیش آئیں گی، ہندوؤں کی طرف سے ہر قسم کی رکاوٹیں اور دشواریاں پیدا کی جائیں گی اور بسا اوقات ہمارے مبلغین کی جانوں تک کو خطرہ ہوگا لیکن قرآن تو یہی سکھاتا ہے کہ کوئی سخت سے سخت مشکل اور بڑے سے بڑا خطرہ بھی مومن کو اپنے فرائض کی بجا آوری سے باز نہیں رکھ سکتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اب تک ہمارے علمائے دین کی دینی خدمات اور سرگرمیاں صرف بڑے بڑے شہروں اور قصبہات تک اس لئے محدود رہیں کہ وہاں ہر قسم کا آرام ملتا اور ہر قسم کی سہولتیں میسر آتی ہیں اور دیہات میں ہر طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ عیسائی مشنوں کے پادری اور مبلغین کس طرح نہ صرف متمدن ممالک کے دیہات بلکہ افریقہ اور امریکہ کے غیر آباد جنگلوں اور پرخطر بلکہ ناقابل گزر علاقوں میں پہنچ کر وہاں کے وحشی اور خونخوار قبائل میں بھی اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے علماء کرام اپنے متمدن

ممالک میں ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟

پاکستان کا حال بھی اس لحاظ سے کچھ بہتر نہیں۔ مشرقی پاکستان، سندھ اور بلوچستانی دیہات کے مسلمان بھی دین سے اسی طرح اجنبی ہیں جس طرح ہندوستانی دیہات کے نام نہاد مسلمان۔ پنجاب کے دیہات کا حال نسبتاً بہتر ہے لیکن یہاں قبر پرستی اور پیر پرستی اس قدر شدت سے ہے کہ خُدا پرستی کا ڈور ڈورتک پتہ بھی نہیں۔ سرحدی علاقہ کی بابت عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں کے باشندے بڑے پکے اور جوشیلے مسلمان ہیں لیکن ہم نے خود ان علاقوں کا سفر کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بڑے بڑے شہروں اور قصبوں سے قطع نظر دیہات میں یہاں بھی معاملہ صفر ہی ہے۔ یہاں کے دیہات اور قبائلی علاقوں میں قبر پرستی اور پیر پرستی اس قدر زوروں پر ہے کہ بت پرستی کو بھی شرم آتی ہے۔ نماز یہاں کے باشندے بے شبہ کثرت سے پڑھتے ہیں لیکن اوّل تو طہارت اسلامی سے قطعاً نا آشنا اور بے انتہا گندے ہیں، دوسرے اکثر نمازیوں کو الحمد یا کوئی دوسری سورہ بھی یاد نہیں۔ قیام، رکوع اور سجود تو کر لیتے ہیں لیکن ان میں پڑھتے کچھ بھی نہیں۔ علاوہ ازیں اخلاق اسلامی اور خلقِ محمدی ﷺ سے تو ان کو دور کا واسطہ بھی نہیں۔ قتل و غارت، رہزنی اور ڈکیتی دن رات کی معمولی باتیں ہیں لیکن غور سے دیکھا جائے تو یہ پٹھان اپنے تہو راور دوسری خدا داد جسمانی اور ذہنی قابلیتوں کی وجہ سے ہر طرح اس کے اہل ہیں کہ اگر ان کو صحیح قسم کی دینی اور دنیوی تعلیم و تربیت دی جائے تو اسلام کی اتنی بڑی خدمت کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ دنیا پھر حیران رہ جائے گی۔ کیا ہماری حکومت صرف لوہا، کونلک، گیس، پٹرول اور سونا چاندی کی کانیں ہی کھودتی رہے گی اور ان انمول جواہرات کی کان کی طرف کبھی توجہ نہ کرے گی۔ اگر اسلام کو سر بلند کرنا ہے تو اس طرف فوراً توجہ کرنی چاہیے۔ سندھ اور بلوچستان کا حال ان سرحدی مسلمانوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ مشرقی بنگال کے دیہاتی مسلمانوں کا حال بھی خراب ہے۔ دین سے ناواقفیت کے ساتھ یہاں معاشرت بھی ہندوانہ ہی ہے۔ اندریں حالات ہم وطن عزیز کی بڑی بڑی جماعتوں اور ان کے محترم پیشواؤں کو بصد خلوص و احترام یاد دلاتے ہیں کہ حضرات آپ کا پہلا فرض سیاست نہیں بلکہ دین کی تبلیغ و اشاعت ہے۔ اس واسطے کچھ عرصہ کے لئے سیاسی سرگرمیاں کم کر کے اس طرف توجہ فرمائیں۔ پاکستان کے دُور اُفتادہ دیہات میں جا بجا اپنے متفرق قائم کریں اور وہاں کے نام نہاد مسلمانوں کو پگلا مسلمان بنانے کا فرض بجالائیں تاکہ آپ کا پاکستان واقعی معنوں میں پاک اور ایک اسلامی ملک اور اسلامی اجتماعی قوت کا خزینہ بن جائے۔ اگر آپ کو خدشہ ہے کہ اس طرح آپ کے سیاسی عزائم کو نقصان پہنچے گا تو یقین مانئے کہ ان علاقوں

میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد یہاں کے باشندے آپ کے اس قدر مطیع و منقاد ہو جائیں گے کہ انتخابات اور دوسرے سیاسی مقاصد کے لئے ہمیشہ آپ ہی کا ساتھ دیں گے اور اگر آپ کو خیال ہے کہ اتنے بڑے کام کے لئے روپیہ کہاں سے آئے گا تو بھی یقین رکھئے کہ قوم میں مخیر اور ایثار کرنے والے حضرات کی کمی نہیں۔ جب ان سے امداد طلب کریں گے تو نا کام واپس نہ آئیں گے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ آپ کی تنظیم مکمل اور لوگوں کا اعتماد آپ کو حاصل ہو۔

ہمارے علمائے دنیا

علمائے دنیا سے ہماری مراد ماڈرن تعلیم یافتہ گریجویٹ اور ڈاکٹرز وغیرہ ہیں۔ یہ لوگ علمائے دین کے مقابلہ میں بیرونی دنیا کے حالات خصوصاً ان قوتوں سے بہت زیادہ واقف ہیں جو ہمارے معیشتی اور معاشرتی معاملات پر اثر انداز ہوتی ہیں لیکن افسوس کہ ان میں سے بہت زیادہ اصحاب دینی نظریات و حقائق سے قطعاً بے بہرہ ہیں اور ہمارے قومی امراض کا علاج نہیں کر سکتے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی یہ ابھی تک اس قابل نہیں کہ مفید اختراعات اور ایجادات کے ذریعہ اپنی قوم کو دوسری قوموں کے برابر لاکھڑا کریں۔ ان حضرات کی زیادہ تعداد سرکاری دفاتر میں مصروف کار ہے۔ ”مصروف کار“ شاید صحیح لفظ نہیں ”مصروف کارزار“ کہا جائے تو زیادہ موزوں ہوگا۔ ان کی لیاقت اور وسیع الخیالی سے امید تھی کہ یہ حکومت کے دفتری ماحول کو زیادہ خوشگوار بنا کر گورنمنٹ کے کام کو آسانی سے چلانے میں مدد دیں گے اور دفاتر میں اسلامی یکجہتی، محبت و اخوت، مساوات، انصاف، تعاون، خدمت خلق اور قوت عمل کے روح پرور جذبات پیدا کر کے عوام کو اپنی حکومت کا والد و شہید اور سچا خیر خواہ بنائیں گے لیکن حیف صد حیف کہ ان حضرات کی بھاری اکثریت باوجود اس قدر تعلیم یافتہ اور ”روشن خیال“ ہونے کے دفاتر میں اقرباء پروری، علاقائی منافرت اور صوبائی تعصب کی آگ بھڑکا کر وہاں کے ماحول کو گندہ سے گندہ تر بنانے میں منہمک ہے اور قوم کو طاقتور بنانے کی بجائے اور کمزور کر رہی ہے۔ ان ماڈرن تعلیم یافتہ حضرات میں سے جو لوگ کالجوں اور سکولوں میں معلموں کو فرائض انجام دیتے ہیں بڑا کام کر سکتے ہیں۔ آئندہ آنے والی نسلوں کا کردار اسلامی اور قومی سانچے میں ڈھالنے والے یہی لوگ ہیں۔ اگر یہ چاہیں تو پچیس تیس برس میں سارے ملک کی کاپی لٹ سکتی ہے۔ بچوں میں صحیح اسلامی اخلاق، اخوت و محبت، شجاعت اور اسلام و وطن پر مہمٹنے کا جذبہ پیدا کرنا ان معلمین کے لئے جس قدر آسان ہے کسی اور کے لئے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے فرض کو محسوس کر کے ادا کرتے ہیں یا نہیں۔

ہمارے ادیب اور شاعر

علماء اور معلمین کے بعد قومی کردار کی تعمیر وترقی میں سب سے بڑا حصہ ادیبوں اور شعراء کا ہوتا ہے۔ بد قسمتی سے ہمارے اردو ادب اور شاعری کی بنیاد ہی اس وقت پڑی جب ہمارا منزل تخریب کی انتہائی گہرائیوں تک پہنچ چکا تھا۔ اس لئے اس زمانہ کی نشرو و نظم کے تمام ذخائر سے قنوطیت، بے عملی اور بازاری عشق بازی کے سوا اور کسی قسم کی تعلیم نہیں ملتی۔ الف لیلیٰ، فسانہ عجائب، آرائش محفل، گل بکاؤلی اور طلسم ہوشربا وغیرہ اور اس زمانے کے شعراء کا کلام پڑھنے کے بعد ذہن میں اس کے سوا کچھ نہیں آتا کہ کیمیا بنانی آجائے، کوئی خزانہ یا پارس پتھر مل جائے، یاد دست غیب کا کوئی عمل ہاتھ لگے۔ یہ نہیں تو کوئی جن پر ی یا ہمزاد ہی تابع ہو جائے جو سونے چاندی کے ڈھیر لاکر قدموں میں ڈال دے اور جب یہ دولت لا زوال حاصل ہو جائے تو اس کو عیاشی اور اواباشی میں خرچ کر کے خوب لطف زندگی اٹھایا جائے لیکن یہ حالت ہمیشہ نہ رہی۔ انیسویں صدی کے آخری ربع میں سنجیدہ قسم کے ادب کی بنیاد پڑی اور ایسے ادیب اور شاعر پیدا ہوئے جنہوں نے اسلامی اخلاق کی تعلیم دے کر قوم کو صحیح معنوں میں مسلمان بنانا چاہا۔ ان لوگوں کا بہت کافی اثر ہوا لیکن افسوس کہ ان کی تعداد بہت کم تھی اور وہ قوم کو سن جیٹ الکل بیدار نہ کر سکے۔ آج بھی ہمارے ادیبوں اور شاعروں میں ایسے لوگوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جاسکتی ہے جو اعلیٰ اور مفید قسم کا لٹریچر پیدا کر رہے ہیں اور ہمارے اسلامی اخلاق کو ابھارنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قوم کی عام جہالت، پستی اخلاق اور بد مذاقی کی وجہ سے اچھا لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی اور جو لوگ ادنیٰ اور معمولی قسم کی کتابیں، ناول، افسانے، ٹیلیویژن وغیرہ لکھتے ہیں وہ بہت جلد کثیر مالی منافع حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس سے ہمارے اچھے ادیبوں کو ہمت نہ ہارنی چاہیے اور ایک اسلامی قومی فرض سمجھ کر اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ وہ وقت دور نہیں جب ان کو بھی اپنے ایثار و خدمت کا کافی سے زیادہ معاوضہ مل جائے گا۔ ادنیٰ قسم کے لکھنے والے بھی اگر خدا سے ڈریں تو اپنی تصانیف میں کوئی نہ کوئی پہلو ایسا رکھ سکتے ہیں جس سے اخلاق اسلامی کی تبلیغ ہو سکے۔ فلم ساز کمپنیاں اس لحاظ سے بہت قابل قدر خدمت کر سکتی ہیں لیکن اب تک بہت ہی کم ایسی فلمیں بنائی گئی ہیں جن سے اخلاق، اخوت و محبت اور قوم پروری کے جذبات پروان چڑھ سکتے ہیں۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ فلم ساز کمپنیوں کو بہت جلد اس طرف توجہ دینی چاہیے۔

صوفیائے کرام اور مشائخ عظام کا فرض اور کام صرف یہ تھا کہ سچے طالبوں کو اللہ کا راستہ بتائیں یعنی غیب کی جن باتوں پر ہمارے عقائد کی بنیاد قائم ہے ان کی معرفت حاصل کرنے کے طریقے سکھائیں تاکہ ان کا ایمان کامل اور ان کا اخلاق مکمل ہو جائے۔ یہ کام صرف دو تین صدی جبری تک تو رسول خدا ﷺ کی تعلیم کے مطابق ہوتا رہا لیکن بعد میں دین کی ظاہری تعلیم کی طرح اس میں بھی خرابیاں پیدا ہونے لگیں۔ ان صوفیوں نے ان بزرگان دین کی قبروں کو بھی مسجود بنا دیا جنہوں نے اپنی تمام عمر توحید کے مواعظ میں صرف کی تھی۔ انہوں نے خود ان بزرگوں کی قبروں پر سجدے کئے اور اپنے مریدوں سے خود اپنے آپ کو سجدے کرائے۔ ان لوگوں نے اپنے مریدوں کو یہ سبق پڑھایا کہ مرنے والے بزرگ زندگی میں بھی قادر و قیوم اور قاضی الحاجات تھے اور اب مرنے کے بعد بھی خدا کی طرح حاضر و ناظر، قادر، قیوم اور قاضی الحاجات ہیں۔ انہوں نے اپنے متعلق بھی یہی کہا کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، نقدیریں بدل سکتے ہیں اور جس کو چاہیں بنا اور بگاڑ سکتے ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ توحید کا وعظ کہنے والے اور حکمت و معرفت کی باتیں بتانے والے ناپید ہیں اور جو ہیں وہ بھی ابنائے زمانہ کی ناقدری کے سبب گوشوں میں جھپٹے گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عوام ان کی بات بھی نہیں پوچھتے۔ اب تو عوام نجومیوں، رمالوں، پامسٹوں اور گنڈے تعویذ کرنے والے عالموں ہی کو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں یا پھر ان لوگوں کو جن کی بابت یقین کیا جاتا ہے کہ ان کے تابع کوئی موکل، روح، ہمزاد یا جن ہے جو بیٹھے بیٹھے دور دراز جگہوں سے چیزیں منگا دیتے ہیں، کچھ خبریں بتا دیتے ہیں یا مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ یہ نجومی رمال، پامسٹ اور عامل وغیرہ دین یا تصوف کی الف بابت سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ اس لئے نہ تو خود شعاردین کی پابندی کرتے ہیں نہ دوسروں کو تلقین کر سکتے ہیں۔ صرف اپنی جیبیں بھرتے اور مسلمانوں کا ایمان و اخلاق خراب کرتے رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو فقیر اور بزرگ سمجھے جاتے ہیں اور ملنگ یا قلندر وغیرہ کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ شریعت کے مطلق پابند نہیں ہوتے بلکہ بھنگ اور چند وغیرہ پیتے اور چرس کے دم وغیرہ لگا کر کھوتے کا شور مچاتے رہتے ہیں۔ ان میں بعض آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے کبھی کبھی خوارق عادات یعنی کرامات بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ان خوارق عادات کی وجہ سے ایک طرف تو لوگ ان کی بزرگی کے قائل ہو جاتے ہیں دوسری طرف ان کی غیر شرعی زندگی کو دیکھ کر یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ بزرگی حاصل کرنے کے لئے شریعت کی پابندی کچھ ضروری نہیں۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شریعت اور چیز ہے اور

طریقت و معرفت اور شے۔ اس عقیدے سے ملت اسلام یہ کو سخت نقصان پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے۔ اس لئے ہم یہ بات اچھی طرح واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے غیر شرعی فقیروں کا فقر فقر محمدی ﷺ نہیں ہوتا بلکہ یہ لوگ ہندوؤں کے یوگ وغیرہ کی مشقیں کر کے یہ قوتیں حاصل کر لیتے ہیں جن کو روحانی قوت سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ کچھ غیر معمولی روحانی طاقتیں حاصل کرنے کے علوم ہر قوم اور ہر مذہب حسی کے افریقہ کے وحشی قبائل میں بھی موجود ہیں اور ہزار ہا سال سے چلے آتے ہیں۔ ان سے اسلامی فقر یا تصوف کو دور کا واسطہ بھی نہیں۔ فقر محمدی ﷺ تو وہ ہے جو صرف رسول اللہ ﷺ کے نقش قدم پر چل کر اور شریعت کی پوری پابندی کر کے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے اور ہمارے فقر کو ان غیر مسلموں کے فقر پر کیا فضیلت ہے؟ اس سوال کا پورا جواب تو ہم آگے دیں گے یہاں صرف یہ بتائے دیتے ہیں کہ غیر مسلم فقیروں کی انتہائی معراج عملی سلوک کے صرف اس مقام تک ہے جسے اصطلاح تصوف میں ”ہو“ کہتے ہیں اور جہاں عالم مثال ختم ہوتا ہے، لیکن مسلمان اولیاء اللہ کی پرواز اس سے بہت آگے عالم امر کے دوسرے طبقات حتیٰ کہ عرش کبریا تک ہے جہاں ان کو ذات باری تعالیٰ کا صحیح عرفان حاصل ہوتا اور توحید خالص کے معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ علاوہ ازیں غیر مسلم اقوام کے تصوف کی انتہا صرف کرامات دکھانا ہے جس سے بنی نوع انسان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا اور ہوتا بھی ہے تو بہت معمولی اور محدود دائرے میں۔ ہاں کرامات دکھانیوں کو البتہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ عوام میں مشہور ہو جاتے ہیں اور خوب پوجے جاتے ہیں لیکن عوام کو اس سے یہ نقصان پہنچتا ہے کہ وہ صراطِ مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں اور خدا کو بھول کر ان کراماتیوں کی پرستش کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی تصوف کا مقصد کرامات دکھانا نہیں بلکہ آدمی میں ایمان کامل پیدا کر کے اس کو ”انسان“ بنانا اور اُس تعلیم الہی پر چلانا ہے جس پر چل کر پوری نوع انسان دین و دنیا دونوں کی فلاح حاصل کر سکتی ہے۔ اس بات سے ظاہر ہو جائے گا کہ اسلامی تصوف کا دائرہ افادیت کتنا وسیع اور کس قدر عالمگیر ہے۔ یہاں آپ کے دل میں پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر ہمارے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے کرامتیں کیوں دکھائیں؟ جواب یہ ہے کہ انہوں نے کرامتیں مسلمانوں کو ہرگز نہیں دکھائیں بلکہ غیر مسلموں کو دکھائیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ قوتیں صرف انہیں کے جوگیوں اور راہبوں کے لئے مخصوص نہیں بلکہ مسلمان بزرگوں میں بدرجہ اولیٰ موجود ہیں اور یہ دیکھ کر وہ ایمان لے آئیں۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ ﷺ سے معجزات کبھی کسی مسلمان نے طلب نہیں کئے بلکہ ہمیشہ

کفار ہی نے طلب کئے تھے۔ اسی طرح اولیاء کی کرامات بھی مسلمانوں کے لئے نہیں صرف غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کے لئے ہوتی ہیں۔

ملنگوں، قلندروں اور غیر شرعی فقیروں کے علاوہ ایسے صوفی، بزرگ اور پیر بھی بکثرت ہیں جو تصوف کے مستند خاندانوں کے طریقوں سے سلوک طے کرتے اور اپنی مراد کو پہنچتے ہیں لیکن آج کل ان میں بھی تعداد کثیر ان صوفیوں کی ہے جو مسلمانوں کو توحید کا سبق نہیں بلکہ شرک کی تعلیم دیتے ہیں۔ خاص خاص سچے اور اچھے بزرگوں کو چھوڑ کر عام حالت یہ ہے کہ ان پیروں کی بڑی بڑی بارگاہیں ہیں جہاں بادشاہی شان و شوکت بھی مانند نظر آتی ہے۔ ان پیروں کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بات کرنا تو بڑی بات ہے لوگ آنکھ اٹھا کر بھی ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس طرح بیٹھے رہتے ہیں جیسے نماز میں بیٹھے ہیں۔ اکثر پیر صاحبان اپنے آپ کو سجدے بھی کراتے ہیں۔ یہاں طریقت و معرفت کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی۔ مریدوں کو اتنے لمبے لمبے اوراد اور وظیفے بتائے جاتے ہیں کہ اگر وہ ان کو پورا کریں تو روزی کمانے کا وقت بھی نہیں مل سکتا۔ آج کل کے تصوف کا سب سے بڑا کارنامہ اور مظاہرہ سالانہ عرس ہیں۔ ان عرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ معدودے چند مزارات کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ نذرانے، مٹھائیاں اور چادریں وغیرہ چڑھائی جاتی ہیں، عرضیاں گزارنی اور نینیں مانی جاتی ہیں، سجدے کئے جاتے ہیں، رنڈیاں اور قوال گاتے بجاتے ہیں اور لوگ مزے اڑاتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے اکثر و بیشتر اولیائے عظام نے گانا اور قوالیاں سنی تھیں لیکن انہوں نے سماع کے کچھ قواعد مقرر کر رکھے تھے۔ مثلاً محافل سماع ایک خاص مکان اور ایسے مطہر اور پاک ماحول میں منعقد کی جاتی تھیں جہاں اہل دل اور صاحب حال بزرگوں کا موجود ہونا لازمی تھا۔ قوال اور گویے بھی تعلیم یافتہ اور اہل دل ہوتے تھے۔ ان محفلوں میں حمد، نعت، منقبتیں اور ایسی غزلیں، نظمیں اور گیت گائے جاتے تھے جنہیں سن کر سامعین کے دل میں اللہ اور رسول ﷺ کے عشق کی آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ اس قسم کی محافل سماع سے یقیناً فائدہ ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے لیکن اب ایسی محفلیں شاذ و نادر ہی ہوتی ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ جس کا جی چاہا، اسی نے کھلے میدان میں یا سڑک کے کنارے ایک شامیانہ کھڑا کیا اور محفل سماع منعقد کر لی۔ ان محفلوں میں صاحب حال سامعین ہوتے ہیں نہ اہل دل قوال۔ اہل دل ہونا تو بہت بڑی بات ہے، ان ڈوموں اور قوالوں کو توپا کی اور ناپا کی کا لحاظ بھی نہیں ہوتا۔ پھر چیزیں وہ گائی جاتی ہیں جن میں حُب خدا کا سوز ہوتا ہے نہ عشق رسول ﷺ کا گداز، حرارت توحید کا جلال ہوتا ہے نہ نُو رسالت ﷺ کا جمال۔ عام طور پر جن بزرگوں کی یاد میں یہ

عرس منایا جاتا ہے ان کی ذات کو خدا اور ان کے آستان کو کعبہ سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ الغرض یہ عرس کیا ہوتے ہیں، تبلیغ شرک و کفر کے ریڈیو اسٹیشن ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے پیر زادگان اور سجادہ نشین صاحبان چاہیں تو ان عرسوں میں توحید، رسالت، اخلاق محمدی ﷺ اور بزرگان دین کے کردار ہائے بلند پر تقریریں کرا کے مسلمانوں کو بے قیاس فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ خدا جانے وہ وقت کب آئے گا۔

ہمارے امراء

ہمارے امراء کے اخلاق و اطوار میں پہلے کی نسبت نمایاں فرق ہوتا جا رہا ہے۔ قوت عمل بھی بڑھ رہی ہے۔ عوام کی ہمدردی اور قومی ترقی کے لئے ایثار و قربانی کا خیال بھی پیدا ہو رہا ہے لیکن اچھے لوگوں کی تعداد ابھی تک اس قدر قلیل ہے کہ قوم کو اجتماعی حیثیت سے کوئی معتد بہ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ عام طور پر یہ لوگ دولت کو صرف اپنے ذاتی آرام و راحت پر خرچ کرنا ہی مقصد حیات جانتے ہیں۔ اکثر ایسے ہیں کہ دولت کمانے کے کسی نازیبا اور ناجائز وسیلے کو اختیار کر لینے میں انہیں کوئی باک نہیں۔ وہ ذخیرہ اندوزی ہو یا چور بازاری، رشوت ستانی ہو یا جھلسازی۔ سب سے بڑا عیب ان میں یہ ہے کہ دولت و ثروت کے نشہ میں خدا اور اپنی موت کو بھی بالکل بھلا بیٹھے ہیں اور اللہ کے اس ارشاد کی طرف کبھی غور نہیں کرتے کہ **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلٰهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ** (منافقون: ۹) ”دیکھنا یہ مال و دولت اور اولاد کہیں تم کو ہماری یاد سے غافل نہ کر دے۔“ اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اعمال اور اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، ان کو سکون و اطمینان کبھی میسر نہیں آتا اور باوجود دولت کی فراوانی کے ہمیشہ پریشان خاطر رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سکون و اطمینان اور مسرت حقیقی دولت سے نہیں بلکہ نیکی سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور بڑا عیب ان میں یہ ہے کہ یہ غریب مسلمانوں بلکہ اپنے غریب رشتہ داروں تک کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان سے سیدھے منہ بات کرنا بھی کسر شان سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غریب طبقہ بھی ان امیروں کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے اور دل سے ان کی مطلقاً کوئی عزت نہیں کرتا۔ اس طرح طبقاتی نفرت کی بنیاد پڑتی اور کمیونزم کے خیالات ترقی پاتے ہیں۔ اگر یہ امراء غریب لوگوں سے عزت کے ساتھ پیش آئیں اور جب موقع ملے محبت اور عزت کے لہجہ میں بات چیت کریں تو حالات بہت کچھ سدھ سکتے ہیں۔ امراء کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں ان کا پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ صرف شیریں زبانی سے لوگوں میں ہر دل عزیزی حاصل ہو سکتی ہے۔ ”اے امیرو! آپ کے غریب بھائی آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے محبت اور عزت سے پیش آیا کریں اس کے سوا اور کچھ نہیں۔“

ہمارے حکام

حکام اپنی قوم کے معمار ہی نہیں محافظ، چوکیدار اور خادم بھی ہوتے ہیں۔ بلکہ حقیقی معنوں میں ”خادمان قوم“ یہی لوگ ہیں کیونکہ ان کا رزق ہی خدمتِ قوم پر منحصر ہے لیکن مسلمانوں میں تو بہت ہی کم افسر ایسے ہیں جو اپنے آپ کو قوم کا خادم سمجھتے ہوں۔ عام طور پر تو یہ عوام کو اپنی رعایا اور اپنے آپ کو ان کا مالک ہی جانتے ہیں۔ یہ خیال مطلق العنان بادشاہوں کے زمانہ میں پیدا ہوا تھا لیکن اب تک موجود ہے حالانکہ اب جمہوری حکومت ہے۔ ہمارے حکام کو چاہیے کہ بہت جلد اس نظریہ کی اصلاح کر لیں۔ حکام کا یہ فرض ہے کہ جو کام ان کے سپرد ہوا ہے محنت اور دیانت سے انجام دیں اور اپنے فرائض منصبی کو جس کی وجہ سے انہیں روٹی بھی ملتی ہے اور عزت بھی، در دسر نہ جائیں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک مقدمے کے سلسلے میں بحالیات کے ایک بڑے افسر نے ایک مہاجر کو اس کی الاٹ شدہ جائیداد سے محروم کر کے وہی جائیداد ایک مقامی آدمی کو الاٹ کر دی جس پر وہ پہلے سے قابض تھا۔ اس پر جب مہاجر نے عرض کیا کہ جناب تو پھر میں کہاں جاؤں اور کیا کھاؤں؟ تو ان افسر صاحب نے بہ صد جاہ و جلال انگریزی میں فرمایا کہ

"You go to hell, you are not my headache. My headache are those who are settled here!"

”یعنی تم جاؤ جہنم میں، تم میرا درد سر نہیں ہو۔ میرا درد سر تو وہ لوگ ہیں جو یہاں آباد ہیں۔“
ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ یہ شخص جس کام کی روٹی کھاتا تھا اور جس کی وجہ سے اس کی تمام عزت تھی اسی کو اپنا درد سر سمجھتا تھا۔

ایک ایسا ہی واقعہ خود ہمیں بھی پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ستمبر ۱۹۴۷ء میں جب دہلی میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا تو ایک دن ہمارے ہندو ہمسایوں نے ہم سے کہا کہ آپ آج رات ہونے سے پہلے یہاں سے تشریف لے جائیں ورنہ رات کو آپ کے مکان پر حملہ ہو جائے گا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ جس وقت یہ نوٹس ملا، شام کے چار بجے تھے، بخت پریشانی تھی کہ کہاں جائیں اور کیونکر جائیں۔ پورے گھر کو اٹھا کر لے جانا مذاق تو نہ تھا، کئی تانگوں کی ضرورت تھی مگر تانگہ سوسوروپہ میں بھی نہ ملتا تھا۔ اسی پریشانی میں یکا یک خیال آیا کہ ہمارے ایک بیس سالہ پرانے دوست جو کبھی کلرک تھے، ٹرانزٹ آفس میں افسر لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک بچے کو رقعہ دے کر موٹر سائیکل پر ان کے پاس بھیجا اور اپنی پریشانی اور حملہ کی خبر کا حال لکھ کر استدعا کی کہ ٹرک بھیج

دیتے تاکہ ہم گھر بار سمیت ٹرانزٹ آفس پہنچ جائیں۔ ہم پورے یقین کے ساتھ ٹرک کی آمد کے منتظر تھے کہ بچے بے نیل و مرام واپس آیا اور کہا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ”ہم ٹرک صرف مردہ لاشوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجتے ہیں زندوں کو لانے کے لئے نہیں۔“ یہ جواب سن کر سناٹا آ گیا۔ ہمارے ہندو پڑوسیوں کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے آدھ گھنٹے کے اندر ہمارے لئے ٹرک کا بندوبست کر دیا اور ہم بغیر بیت ٹرانزٹ آفس پہنچ گئے دوسرے دن ہم ان افسر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ جو شخص بھی کسی کام کے لئے ان صاحب کے پاس آتا تھا، اسے وہ یہی جواب دیتے تھے کہ ”تم میرے درد سر میں اضافہ کر رہے ہو“ تعجب ہے کہ یہ لوگ جس کام کی روٹی کھاتے ہیں اسی کو درد سر بتاتے ہیں اور بے شرمی یہ کہ اس سے مستعفی بھی نہیں ہوتے۔ ایسے افسروں سے کیا امید کی جاسکتی ہے کہ خلقِ خدا کی خدمت کریں گے۔ یہی لوگ عوام کو بدظن کرتے اور حکومت کی کمزوری کا باعث ہوتے ہیں۔

ہمارے حکام اور عمال کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ اہل معاملہ کے ساتھ عزت اور نرمی سے پیش آئیں۔ اس میں شک نہیں کہ ”سرخ فیتہ“ (Red Tapism) کی لعنت کے سبب معمولی سے معمولی کام بھی زیادہ سے زیادہ دیر میں ختم ہوتا ہے لیکن اس میں کارکنانِ دفتر اور افسرانِ متعلقہ کی سستی، بے پروائی اور بسا اوقات نااہلی کو بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ غضبِ خدا کا ہمارے پاکستان میں فوجداری مقدمات بھی تین تین اور چار چار برس میں ختم ہوتے ہیں اور لوگوں کے جائز مطالبات برسوں بھی ادا نہیں کئے جاتے۔ سب کچھ ہو جاتا ہے تو اکثر آڈٹ والے اپنی نالائقی یا کارکردگی دکھانے کی وجہ سے خواہ مخواہ کے فضول اعتراضات کر کے ادائیگی کو تعویق میں ڈالے رکھتے ہیں۔ کچھ تعجب نہیں کہ بعض معاملات میں ادائیگی کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہو جب کہ مطالبہ کرنے والا اس دنیا ہی سے کوچ کر جاتا ہو۔

یہ حالات نہایت ہی شرمناک ہیں۔ حکومت کو لازم ہے کہ اپنی ہر دلعزیزی قائم رکھنے کے لئے ایسے افسروں اور عمال کو سخت سزائیں دے۔ اگر وہ ایسا کرنے کی مجاز نہیں ہے تو اسمبلی کے ممبروں کو چاہیے کہ اس کے لئے کوئی قانون وضع کریں اور کاموں میں دیر ہو جائے تو پبلک برداشت کر سکتی ہے مگر عدالتی مقدمات اور مطالبات زر کی ادائیگی میں تعویق کو کسی طرح بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا اور جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں وہ ہر وقت اور ہر جگہ حکومت کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ امید واثق ہے کہ ہماری حکومت خود اپنی بھلائی کی خاطر اس طرف توجہ کرے گی۔ ہمارے افسران اور حکام کے اور بھی بہت سے فرائض ہیں لیکن بخوف

طوالت ان سب کو حذف کر کے اب ہم کچھ حال زوالِ ملت کے خارجی اسباب کا بیان کرتے ہیں۔

زوالِ ملت کے خارجی اسباب

پہلی وجہ: حضرت عثمانؓ کی شہادت تھی۔ منافقین اور دشمنانِ اسلام کی یہ پہلی کامیاب کوشش اور پہلی چنگاری تھی جو اسلامی خرمین اتحاد میں ڈالی گئی۔

دوسری وجہ: حضرت علیؓ سے حضرت عائشہؓ اور امیر معاویہؓ کی جنگیں تھیں۔ یہ تیل کا پہلا قطرہ تھا جو اس چنگاڑی کو بھڑکانے کے لئے ڈالا گیا۔

تیسری وجہ: حضرت امام حسینؓ کی شہادت تھی۔ یہ تھی منافقین کی آخری اور کامیاب کوشش اس آگ کو شعلہ جوالہ بنانے کی جس نے مسلمانوں کے اتحاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جلا کر خاک سیاہ کر دیا۔

چوتھی وجہ تھی اسپین کی سلطنت اسلامیہ کا زوال۔ اگرچہ یہ زوال حقیقتاً مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں سے ہوا لیکن اسپین کی عیسائی ریاستوں اور شاہ فرڈیننڈ کی کوششیں بھی اس کا سبب تھیں۔ اسپین کے زوال سے مسلمانوں کے اقتدار کو بڑا دھچکا لگا اور عیسائی دنیا کے دل سے ان کا رعب و وقار بالکل جاتا رہا۔

پانچویں وجہ: صلیبی جنگیں تھیں۔ یہ جنگیں ۱۰۹۶ء سے شروع ہو کر کم و بیش دو سو برس جاری رہیں۔ اگرچہ ان جنگوں کا نتیجہ عیسائیوں کے خلاف نکلا یعنی بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا اور آخری جنگ میں شام کا وہ بچا کچھ علاقہ بھی مسلمانوں نے چھین لیا جو اس وقت تک عیسائیوں کے قبضہ میں تھا لیکن نفسیاتی طور پر مسلمانوں کو جو نقصان اور عیسائیوں کو جو فائدہ ان جنگوں سے ہوا وہ شاید اور کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مسلمانوں کو نقصان یہ ہوا کہ وہ دشمن کی طرف سے بے فکر ہو کر آپس کی خانہ جنگیوں میں مبتلا ہو گئے۔ عیسائیوں کو یہ فائدہ پہنچا کہ دو سو برس کے متواتر پروپیگنڈے کی وجہ سے تمام عیسائی ممالک آپس کی دشمنیاں بھول کر مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے۔ ان میں مذہبی جوش کے ساتھ ساتھ اپنی کمتری کا احساس اور مسلمانوں کے مقابلہ میں ترقی کا جذبہ ابھرا آیا۔ علاوہ ازیں وہ لڑائی کے نئے نئے طریقے اور بہترین قسم کا سامان حرب بنانا بھی سیکھ گئے۔ مثلاً محاصرے کی نئی ترکیبیں، توپخانہ کا استعمال، سرنگیں اڑانا اور منجنیقیں استعمال کرنا انہوں نے مسلمانوں سے انہی جنگوں میں سیکھا۔ پھر لڑائی اور سفر سے جو تجربہ حاصل ہوتا ہے وہ مزید برآں تھا۔ تجارت ہمیشہ لڑائی کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ چنانچہ

اب یہ لوگ تجارت کے لئے دور دراز ملکوں تک پہنچنے لگے اور حق تو یہ ہے کہ یہی باتیں آخر میں مشرقی علوم کے حصول، امریکہ کی دریافت، غیر ملکی فتوحات اور ان کی موجودہ ترقی کا سبب بنیں۔

چھٹی وجہ: امریکہ کی دریافت تھی۔ امریکہ کی دریافت کے وقت سلطنتِ ترکی اور دوسری مسلمان ریاستیں یورپین اقوام سے اتنی زیادہ طاقتور تھیں کہ چاہتیں تو امریکہ پر قبضہ کر سکتی تھیں۔ اگر یہ ہوا ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا لیکن اس زمانے کے مسلمان حکمران عیش و عشرت اور آپس کی خانہ جنگیوں میں اس بری طرح مبتلا تھے کہ انہیں اس کا خیال بھی نہ آیا نہ ان کو خدا اور رسول ﷺ کے یہ احکام یاد رہے کہ دنیا میں سفر کر کے اپنا رزق اور علم حاصل کرو اور خدا کی بتائی ہوئی تہذیب پس ماندہ ملکوں میں پھیلاؤ۔ مسلمانوں کی اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرنگی قوموں نے امریکہ سے بے قیاس دولت حاصل کی جس کے حصول کی کوشش میں ان کو بے انتہا تجربہ اور علم حاصل ہوا اور امریکہ کی زمین نے ایک نئی قوم کو جنم دیا جو آج تمدن و ترقی کے آسمان پر آفتاب بن کر چمک رہی ہے۔

ساتویں وجہ: یہ تھی کہ واسکو ڈی گاما نے افریقہ کے گرد گھوم کر ہندوستان اور مشرق وسطیٰ تک پہنچنے کا سمندری راستہ دریافت کر لیا جس کی وجہ سے یورپ اور مشرقی ممالک کے درمیان براہ راست تجارت شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے تجارت تمام سامان تجارت شام، فلسطین اور مصر کے راستے لاتے اور لے جاتے تھے۔ اب تجارت کا راستہ بدل جانے کی وجہ سے عرب ممالک ان مالی فوائد سے محروم ہو گئے جو ان کے متحمل کا سبب تھے۔

آٹھویں وجہ: انگریزوں اور فرانسیسیوں کا خروج اور ہندوستان میں سلطنتِ مغلیہ کی تباہی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان بادشاہ اور امراء عیش و عشرت کے نشہ میں چور آپس کی خانہ جنگیوں میں مبتلا تھے۔ مسلمان تجارت کا دیوالہ نکل چکا تھا۔ مسلمان علماء کا سرمایہ علم صرف مذہبی علوم یعنی تفسیر اور حدیث و فقہ کی لفظی مویشکا فیوں تک محدود ہو کر رہ گیا تھا اور وہ حالاتِ زمانہ اور علومِ مرآۃ سے بے خبر فرقہ وارانہ بحث اور مباحثوں اور ایک دوسرے کی تذبذب و تکفیر میں مشغول تھے۔ دوسری طرف فرنگی اقوام میں حصولِ دولت و جہانگیری کی تڑپ، نئے نئے علوم و ایجادات کے آغاز اور ان تھک قوتِ عمل کی وجہ سے نئی زندگی کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ چنانچہ ان قوموں نے پہلے تو مسلمان سلاطین کی خوشامد درآمد کر کے ان سے تجارتی مراعات حاصل کیں، پھر ان کی کمزوری اور بے خبری سے فائدہ اٹھا کر رفتہ رفتہ ان کی سلطنتوں کے کھنڈرات پر اپنے عمل تعمیر کر لئے۔

ہندوستان پر قبضہ کے لئے انگریز اور فرانسیسی دونوں ہی کوشاں تھے لیکن انگریز جو زیادہ مکار اور دغا باز تھا کامیاب ہوا۔ اس نے پہلے تو بے انتہا سادگی اور تملق و چاپلوسی سے تجارتی مراعات حاصل کیں پھر جا بجا اپنی تجارتی کوششیاں بنا کر ان کی حفاظت کے بہانے سے ہر جگہ اپنی فوجیں کھڑی کر لیں۔ اس کے بعد اس نے نہایت چالاک اور مکاری سے ہندو اور مسلمان ریاستوں کو آپس میں لڑانا شروع کیا اور ہر فتح یاب ریاست سے اپنا نذرانہ اور شکرانہ وصول کر کے خوب طاقت پیدا کر لی۔ اب وہ سلطنت مغلیہ کو تباہ کرنے کے لئے تیار تھا لیکن اس کے لئے بھی اس نے فن حرب سے زیادہ اپنی مکاری سے کام لیا اور مسلمان نوابوں اور سالاروں کو رشوتیں دے کر شاہان وقت کا باغی بنا دیا۔ یہاں تک کہ یہ بادشاہ کمزور ہوتے ہوتے دہلی کے لال قلعہ میں مقید ہو گئے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں یہ قید و بند بھی ختم ہوئی۔ سلطنت مغلیہ کا آخری تاجدار بہادر شاہ چلاوطن کر کے رگنوں بھیج دیا گیا اور انگریز بلا شرکت غیرے ہندوستان کے حکمران بن گئے۔ انگریز نے ہندوستان کے مسلمانوں کو تباہ کرنے میں جس مکاری، دغا بازی، چالاکی اور ہوشیاری سے کام لیا اور جو ظلم و ستم توڑے ان کا حال صفحات تاریخ سے معلوم کیا جاسکتا ہے، یہاں اس بیان کی گنجائش نہیں۔

نویں وجہ: سلطنتِ ترکی کی تباہی تھی۔ ترکی کو تباہ کرنے کے لئے انگریز نے دوسری پالیسی اختیار کی۔ ایک طرف اپنی چالاکوں اور ریشہ دوانیوں سے مصر کو ترکی سے الگ کر دیا۔ دوسری طرف روسیوں، فرانسیسیوں اور دیگر فرنگی اقوام کا ایک متحدہ محاذ قائم کر کے ان تمام ممالک میں ترکوں کے خلاف بغاوتیں کرائیں جو دریائے ڈینیوب کے جنوب میں مشرق سے مغرب تک ترکوں کے قبضہ میں تھے۔ پھر سب دول یورپ کی پہنچائیں اور کانفرنسیں کرائیں کہ ان کو آزاد کرادیا۔ جب ترکی اس حد تک کمزور ہو گیا تو آخری ضرب پہلی جنگ عظیم میں لگائی۔ یعنی عربوں کے غدار امراء کو طرح طرح کا لالچ دے کر ترکوں کے خلاف بغاوت کرا دی اور اس طرح تمام عربی ممالک ترکی سے الگ ہو گئے۔

سب سے بڑا نقصان جو انگریز نے اپنے اقتدار اور پروپیگنڈا سے ملت اسلامیہ کو پہنچایا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے دل سے وحدتِ اسلامیہ کے ملی جذبہ کو فنا کر کے وطنی قومیت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ یہاں تک کہ حالاتِ زمانہ سے بے خبر بھولے بھالے علمائے کرام بھی یہ کہنے لگے کہ قومیں ادیان سے نہیں بلکہ اوطان سے بنتی ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ ہر ملک کا مسلمان دوسرے ملک کے مسلمان کو غیر اور اجنبی خیال کرتا ہے۔

دسویں وجہ: ہندو کی ترقی اور اسلام دشمنی تھی۔ ہندو اسی وقت سے مسلمانوں کے دشمن تھے جب سے انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا۔ یہ قبضہ اگرچہ مسلمان ممالک یعنی افغانستان، بکران اور عراق کی سرحدوں پر ہندوؤں کی روزانہ دستبرد اور لوٹ مار کی وجہ سے مجبوراً کرنا پڑا تھا لیکن باوجود ازیں ہندوؤں کی مسلمان دشمنی ایک فطری امر تھا جس کے لئے انہیں مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ چنانچہ ایک ہزار برس گزر جانے پر بھی ان کا یہ جذبہ کم نہ ہوسکا۔ جب مسلمانوں کی حکومت طاقتور ہوتی، ہندو دے رہتے لیکن جہاں ذرا سی بھی کمزوری پیدا ہوتی وہ بغاوتیں کرنے لگتے۔ صدیاں گزرتی گئیں اور مسلمانوں کی اسلامی حکومتیں بھی بدلتی رہیں۔ یہاں تک کہ ۱۵۵۶ء میں جلال الدین محمد اکبر ہندوستان کے تخت سلطنت پر متمکن ہوا۔ یہ بادشاہ علم سے بالکل بے بہرہ، مذہب سے قطعاً نا آشنا، عیش و عشرت کا بے انتہا دلدادہ لیکن غضب کا بہادر اور عقلمند تھا۔ اس نے ہندوؤں کی اکثریت اور ملک کی بے پناہ وسعت کو دیکھتے ہوئے ہندوؤں کو دبا کر حکومت کرنے کے بجائے ان کو اپنے ساتھ ملا کر اور اپنا بنا کر حکومت کرنے کی پالیسی اختیار کی۔ اس نے صرف دنیوی مراتب کے لحاظ سے ہی ہندوؤں کو مسلمانوں کے برابر کا درجہ نہیں دیا بلکہ ان سے بیاہ شادیاں کر کے معاشرت میں بھی ان کے برابر لا کھڑا کیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے ہندوؤں کی بے شمار مذہبی کتب کا ترجمہ فارسی میں کر دیا۔ خود ان کے مذہبی اور صوفیانہ عقائد کو سراہا اور مذہبِ اسلام کو چھوڑ کر ایک نیا مذہب ایجاد کیا جس کا نام دین الہی رکھا۔ اس مذہب کی بابت دعویٰ کیا جاتا تھا کہ تمام مذاہب کی اچھی باتیں اس میں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ گو بظاہر وہ تمام مذاہب کو ایک آنکھ سے دیکھنے کا دعویٰ کرتا تھا لیکن درحقیقت شعائرِ اسلام کی کھلے ہندوں تحقیر کرتا اور علمائے کرام کا برسعام مذاق اڑاتا تھا۔ ان سب باتوں کا نفسیاتی نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوؤں کے دل میں مسلمانوں کی دنیوی، دینی اور روحانی فضیلت کا جو خیال اور رعب بیٹھا ہوا تھا زائل ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ خود مسلمانوں کے دل میں اپنی فضیلت کا جو یقین و احساس تھا رفتہ رفتہ وہ بھی جاتا رہا اور اس طرح کوئی نفسیاتی مہج یا سبب باقی نہ رہا جس کی بناء پر وہ ہندوؤں کو دبائے رکھنے اور ان پر حکومت کرنے کے لئے جدوجہد جاری رکھ سکتے۔

اکبر کی قائم کی ہوئی یہ طاقت شاہجہاں کے وقت تک تو قائم رہی لیکن جب اورنگ زیب عالمگیر نے مذہبِ اسلام کی طرف زیادہ رغبت ظاہر کی تو ہندوؤں میں بغاوت کے شعلے بھڑکنے لگے۔ جنوب اور وسط ہند میں مرہٹے اور شمال مغرب میں سکھ اسی وقت کی پیداوار ہیں اورنگ زیب کے بعد سلطنت مغلیہ کمزور ہوئی تو ہندوؤں کی دیرینہ کوششیں بار آور ہو گئیں۔ جنوبی اور وسطی ہند کے اکثر علاقوں پر مرہٹوں نے اور شمال مغربی

صوبوں میں سکھوں نے اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ انگریز بھی اس وقت تک کافی طاقت حاصل کر چکا تھا۔ اس نے مشرق کی طرف قبضہ جمایا اور ہندو مسلم دشمنی اور مسلمان امراء کی بددیانتی اور بے ایمانی سے فائدہ اٹھایا اور رفتہ رفتہ سارے ہندوستان کو ہڑپ کر گیا۔ اس نے اپنی حکومت کی بنیاد "ٹراؤ اور حکومت کرو" کے اصول پر رکھی اور آخر وقت تک اس پر قائم رہا۔ اس کے لئے وہ ایک طرف صوبہ وارانہ تعصب اور دوسری طرف ہندو مسلم جذبہ منافرت کی آگ کو ہمیشہ بھڑکاتا رہا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد عرصہ دراز تک انگریز حکام مسلمانوں پر ظلم و ستم اور ہندوؤں پر عنایت و شفقت کرتے رہے۔ انگریز ادیبوں اور سیاست دانوں نے مسلمانوں کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور تعلیم کے انچارج انگریز افسروں نے اسکولوں اور کالجوں میں ایسے نصاب رائج کئے جن میں مسلمان بادشاہوں کو ڈاکو، غاصب اور بزور شمشیر ہندوؤں کو مسلمان بنانے کا مرتکب ثابت کیا جیسی کہ چلنے وقت پنجاب اور بنگال کی تقسیم سے پاکستان کو کمزور اور بھارت کو طاقتور بنانے کی پوری کوشش کی اور آخر میں کشمیر بھی ہندوؤں کے حوالے کر گیا جہاں پچاسی فیصدی آبادی مسلمانوں کی تھی۔ الغرض اس طرح انگریز کی زیر سرپرستی بھارت کی وہ نام نہاد لادینی حکومت قائم ہوئی جس کی بنیاد ہی اسلام سے نفرت اور مسلمانوں کی دشمنی پر قائم ہوئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انگریز ہندوستان میں آیا ہی اس نیت سے تھا کہ یہاں کی حکومت مسلمانوں سے چھین کر ہندوؤں کو دے جائے۔

آخری زمانہ میں سب سے پہلی تحریک جو ہندوؤں کی ترقی کا باعث ہوئی، انگریزی تعلیم کی حصول کی تحریک تھی۔ مسلمانوں کی حکومت میں انہیں خوب تجربہ ہو گیا تھا کہ خوش حالی اور عزت انہی کو ملتی ہے جو حکومت وقت کی زبان سیکھتے ہیں اور اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لئے انگریز کے آتے ہی انہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور تھوڑے ہی عرصہ میں تمام محکموں میں ماتحت عہدوں پر قبضہ کر لیا۔ بڑے عہدوں پر قبضہ کرنے کے لیے دولت مند ہندو انگلستان پہنچے اور وہاں سے مختلف علوم کی اعلیٰ ڈگریاں لے کر آئے۔ ان لوگوں نے صرف عہدے ہی حاصل نہ کئے بلکہ ہندوؤں میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگیاں بھی وقف کر دیں۔ ہزار ہا ایسے آدمی تھے جنہیں ہزار بارہ سو ماہوار تنخواہ آسانی سے مل سکتی تھی لیکن انہوں نے کالج اور سکول قائم کئے اور ان میں مرتے وقت تک پچاس پچاس روپیہ ماہوار تنخواہ پر پڑھاتے رہے۔ دوسری طرف گورکھوں میں مذہبی تعلیم بھی اسی زور و شور سے جاری تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مسلمان کیا کر رہے تھے؟ اسلامی حکومت تو ختم ہو چکی تھی، عوام پر صرف علمائے کرام کا اثر تھا اور علمائے کرام نے

فتویٰ دے دیا تھا کہ انگریزی پڑھنا کفر اور پڑھنے والا کافر ہے۔ یہ بین تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا۔ جن کے مذہب میں سمندر پار جانا منع تھا وہ دھڑا دھڑا انگلستان اور یورپ جا رہے تھے اور جن کے رسول ﷺ نے یہ حکم دیا تھا کہ "علم حاصل کرو خواہ وہ چین ہی میں کیوں نہ ہو" ان کے علماء انگریزی تعلیم حاصل کرنے کو کفر بتا رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ علمائے کرام دنیا کے حالات سے قطعاً بے خبر اور دنیاوی علوم سے بالکل بے بہرہ تھے۔

الغرض پچاس ساٹھ برس مغربی علوم حاصل کرنے کے بعد ہندوؤں کی آنکھیں کھل گئیں۔ مغربی تعلیم نے ان میں وہ دانش پیدا کر دی جو علم کا یقینی نتیجہ ہوتی ہے۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ دنیا کس رخ جا رہی ہے، اس دنیا میں طاقت کس چیز کا نام ہے اور وہ کس طرح حاصل ہوتی ہے۔ انگریز کی مادی، اقتصادی اور فوجی طاقت کتنی ہے اور اس طاقت کا اصل راز یعنی ان کا سیاسی اور اخلاقی نظام اور عقائد کیا ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان کو خود اپنی حیثیت اور طاقت کا علم بھی حاصل ہو گیا۔ مغربی تعلیم نے ان کو جرأت و بیباکی اور ایثار و قربانی کی روح پرور صفات سے آراستہ کیا۔ دولت پہلے ہی سے موجود تھی، اب اس کا خرچ کرنا بھی آ گیا۔ قوت برداشت چھ سو سال تک مسلمانوں کی حکومت میں رہ کر پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی۔ اب صرف ایک بات رہ گئی تھی کہ وہ اپنے بے شمار مذہبی فرقوں اور مختلف عقائد کی وجہ سے کسی ایک مرکز کے گرد اکٹھے نہ ہو سکتے تھے۔ یہ کمی انگریز نے پوری کر دی مسلمانوں سے نفرت کا ایک ایسا مرکز عطا کر دیا جس پر ہر عقیدہ اور ہر خیال کے ہندو متحد ہو گئے۔ انگریز مسلمانوں کے خلاف ان کے اس اتحاد سے بہت خوش تھا اور ہر ممکن ذریعہ سے اس کو اور زیادہ قوی کرنے میں مدد دے رہا تھا۔ ہاں وہ خوش تھا اور اس خوشی میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس اتحاد سے جو طاقت پیدا ہوگی وہ خود اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکے گی۔

جنگ آزادی کا پروگرام بناتے وقت ہندوؤں نے دو فریقوں کو پیش نظر رکھا۔ ان میں سے ایک انگریز تھا دوسرا مسلمان۔ انگریز اس لیے کہ اس سے آزادی لینی تھی، مسلمان اس لئے کہ وہ شروع ہی سے متحدہ ہندو طاقت کا ٹارگٹ تھا۔ علاوہ ازیں اس سے یہ بھی ڈرتا تھا کہ انگریز سے نہ مل جائے یا انگریز کے رخصت ہونے پر خود ہندوستان پر قبضہ نہ کر لے۔ جنگ کے دو طریقے ممکن تھے، ایک مسلح بغاوت دوسرا سیاسی لڑائی۔ مسلح بغاوت میں کامیابی کا کوئی امکان نہ تھا اس لئے دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا۔ انگریز کی سیاسی طاقت کا مرکز انگلستان کی رائے عامہ اور پارلیمنٹ تھی اس لئے ضروری ہوا کہ رائے عامہ کو اپنے حق میں متاثر کر کے پارلیمنٹ میں کسی سیاسی جماعت کی حمایت حاصل کی جائے۔ اس لئے نظر انتخاب لیبر پارٹی پر پڑی جو اس وقت بالکل نوخیز اور

ترقی کے لئے ہر مدد کی احتیاج مند تھی۔ چنانچہ پروپیگنڈے پر بے شمار روپیہ خرچ کر کے نہ صرف انگلستان بلکہ امریکہ اور روس کی رائے عامہ پر بھی کامیاب اثر ڈالا گیا اور داسے درجہ قدرے سنبھلنے لگی۔ بن پڑا لیبر پارٹی سے ساز باز کر کے اس کو بھی اپنا بنا لیا گیا۔ یہ پارٹی بہت ہی وفادار تھی اور ہندوؤں کو آخری فتح صرف اسی کی مدد سے نصیب ہوئی۔

جنگ آزادی سے پہلے مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت ترکی اور اس کے ساتھ ہی خلافت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ مسلمانان ہند کے جذبات سوڈاواٹر کی طرح ابل رہے تھے۔ تمام ملک میں خلافت کمیٹیاں قائم ہو چکی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ سب مسلمان سر بکف ہو کر میدان جہاد میں کود پڑیں گے اور انگریزوں کو مار مار کر ہندوستان سے نکال دیں گے۔ مگر یہ جو کچھ تھا محض مذہبی جوش کی وجہ سے تھا، سیاسی سنجیدگی اور غور و فکر کا اس تحریک میں نام و نشان بھی نہ تھا۔ برخلاف ازیں ہندوؤں میں آل انڈیا کانگریس جیسی منظم جماعت سال ہا سال سے کام کر رہی تھی لیکن نہ تو اسے عوام کی قیادت حاصل تھی نہ ہندوؤں میں حصول آزادی کے لئے کوئی جوش عمل موجود تھا۔ فوج اور پولیس کی گولیوں کے مقابلہ میں کھلی لڑائی لڑنے کے تو خیال سے بھی ان کا دم نکلتا تھا۔ صرف یہی ایک چیز تھی اور سب کچھ موجود تھا۔ دولت اور اثاثر کا مادہ بھی تھا، علم بھی تھا اور آدمی بھی مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھے۔ ہندو لیڈران حالات سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اس وقت مسلمانوں کی اس عارضی تنظیم اور جوش سے فائدہ اٹھانے اور ان کے تعاون اور مثال سے ہندوؤں میں جاننا بازی اور سرفروشی کا جذبہ پیدا کرنے کا بڑا اچھا موقع موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے تحریک خلافت کے لیڈروں کے سامنے یہ تجویز پیش کر دی کہ ”انڈین نیشنل کانگریس خلافت اور ترکی کے معاملہ میں مسلمانوں کے مطالبات کی پوری تائید کرے گی بشرطیکہ وہ مادر وطن کی آزادی حاصل کرنے کی کوشش میں کانگریس کے ساتھ دیں۔“ دیکھئے اور کہنے کو یہ نہایت معقول اور معصوم سا فقرہ ہے لیکن سیاسی ڈپلومیسی اور حکمت و دانش کی جو اٹیٹی طاقت اس میں چھپی ہوئی ہے اس کو اور اس کے دور رس نتائج کو مسلمانوں کے سیدھے سادے لیکن پر خلوص و پردیانت لیڈر کہاں سمجھ اور جان سکتے تھے۔ اس فقرہ کا صاف اور سیدھا مطلب یہ تھا کہ انگریز کی طاقت کا جزو اعظم ہندوستان ہے اگر اس کو ہندوستان سے نکال دیا جائے تو تمام اسلامی ممالک جو اس کے بوٹ تلے دم توڑ رہے ہیں خود بخود آزاد اور طاقتور ہو جائیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں نے کانگریس کی یہ پیش کش منظور کر لی اور بھاری اکثریت کے ساتھ حصول آزادی کی جدوجہد میں ہندوؤں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ”شامل ہو گئے“ غلط

ہے، صحیح یہ ہے کہ حصول آزادی کی جدوجہد میں ہندوؤں کی قیادت کرنے لگے۔ یہ تو تھے اس فقرے کے صاف اور سیدھے معنی لیکن جب اس پر عمل ہوا تو نتیجہ کیا نکلا۔ اسی سے ہندوؤں کی سیاسی قابلیت اور مسلمانوں کی نااہلیت کا ثبوت ملتا ہے۔

ہندو لیڈر جانتے تھے کہ ہندوؤں میں گولیوں کے سامنے آ کر لڑنے کا حوصلہ نہیں ہے اس لئے انہوں نے اس تحریک کا نام ہی ”عدم تعاون غیر منتشر“ رکھا۔ اس کا نفسیاتی اثر یہ ہوا کہ ہندو یہ سمجھ کر کہ اس تحریک میں جان جانے کا کوئی امکان نہیں زیادہ سے زیادہ جیل جانا پڑے گا، آگے بڑھے اور مسلمانوں کے دوش بدوش کام کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ کوئی تحریک آزادی خون بہائے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس تحریک کا حشر بھی یہی ہوا کہ آخر میں خوب گولیاں چلیں، بم برسے، لاشیں گریں، خون بہے اور جیل خانے ٹھساٹھس بھر گئے لیکن چونکہ یہ سب کچھ رفتہ رفتہ ہوا، مسلمانوں کی معیت میں آہستہ آہستہ ہندوؤں کا ڈر نکلتا گیا اور آخر میں وہ بھی بے خوف ہو کر جانیں دینے لگے، حتیٰ کہ ان کو مسلمانوں کی معیت کی کوئی ضرورت نہ رہی۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ خلافت کا جو اثر کوں نے اپنی گردن سے خود اتار کر پھینک دیا اس لئے مسلمانان ہند کے دل سے رفتہ رفتہ خلافت کی بحالی کا جذبہ زائل اور صرف وطنی آزادی کا خیال راسخ ہوتا گیا حتیٰ کہ آخر میں تحریک خلافت ختم ہو گئی اور اس سے جو تنظیم اور طاقت پیدا ہوئی تھی اس کا سارا فائدہ کانگریس یا بالفاظ دیگر ہندوؤں کو پہنچا۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی غلطی تھی۔ انہیں اپنی منظم طاقت کو اس طرح کانگریس میں مدغم نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ خلافت یا کسی اور نام سے بحال اور زندہ رکھتے ہوئے ایک نمایاں اور الگ جماعت کی حیثیت سے کانگریس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔

اب یہ حالت تھی کہ مسلمان کانگریس کی پالیسی کے مطابق ہندوؤں کی قیادت میں جنگ آزادی لڑ رہے تھے۔ انہوں نے ہندوؤں کو بڑا بھائی مان لیا تھا اور سمجھ رہے تھے کہ جنگ کے خاتمے پر ہمارے ساتھ ہر لحاظ سے برادرانہ اور مساویانہ سلوک کیا جائے گا۔ یہ بھی ان کی سادہ لوحی تھی۔ وہ اتنا نہیں سوچ سکتے تھے کہ قوموں کی ہزار ہا سالہ ذہنیت دودن میں نہیں بدلا کرتی۔ وہ اتنا نہیں جانتے تھے کہ ویدوں کی تہذیب، منو کے قانون اور چانکیہ جیسے سیاست دانوں کی تعلیم سے ہندوؤں کی جو ذہنیت پختہ ہو چکی ہے اس میں مسلمانوں یا کسی اور غیر ہندو کے لئے مساوات اور عزت کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ عقیدہ تناخ کا حاصل یہ ہے کہ انسان جو نیکی بدی کرتا ہے ایک بندھے ہوئے قدرتی قانون کے مطابق اس کی جزا سزا ضرور ملتی ہے، اس کے گناہوں کو خدا بھی معاف نہیں کر سکتا۔ منوشاستر کے مطابق جاتی کے صرف چار ورگ ہیں، پانچواں طبقہ کیسے ایجاد کیا جاسکتا ہے۔

چانکیہ کے ارتھ شاستر کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہارا دشمن تم پر غالب آ جائے تو اس کی اتنی خدمت و خوشامد کرو کہ تمہاری دشمنی کا خیال اس کے دل سے نکل جائے اور وہ تم پر اعتقاد کرنے لگے لیکن تم اس کی طرف سے کبھی غافل نہ ہو، جب بھی موقع ملے نیست و نابود کر دو۔ اب آپ ہی بتائیے کہ جس قوم کے مذہب اور سیاسی عقائد یہ ہوں اس میں غنودہ کرم کا مادہ کہاں ہو سکتا ہے، وہ دوسروں سے کس طرح مساوات کا سلوک کر سکتی ہے، وہ کس طرح اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بہت سے کانگریسی ہندو صدق دل سے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے اور ان کے ساتھ ہر لحاظ سے مساوات اور عزت کا سلوک کرنے کو تیار تھے لیکن ان کی تعداد اس قدر کم تھی کہ بعض اوقات انہیں خود اپنی عزت بچانا بھی مشکل ہو جاتی تھی۔ چنانچہ جب یہ لوگ جیلوں میں چلے گئے تو میدان صاف تھا۔ اب ہندو مہاسبھا کی باری تھی۔ وہ پوری طاقت سے اٹھی اور تمام ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف مخالفت اور دشمنی کا طوفان برپا کر دیا۔ تمام ملک کے ہندوؤں کا سنگٹھن کیا گیا۔ شدھی شروع ہوئی اور مسلمانوں سے صاف کہہ دیا گیا کہ جو باہر سے آئے ہیں واپس چلے جائیں، جن کے باپ دادا یہیں مسلمان ہوئے تھے وہ پھر ہندو ہو جائیں۔ دن رات کے پروپیگنڈے سے انگریزوں کی پیدا کی ہوئی نفرت ہزاروں گنا بڑھادی گئی اور اس بات کی عملی تیاری ہونے لگی کہ انگریزوں کے رخصت ہوتے ہی ممکن ہو تو مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیا جائے ورنہ اس قدر پکچل دیا جائے کہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے۔ اس تحریک میں دس بیس فیصد نہیں بلکہ نوے پچانوے فیصدی ہندو شریک تھے۔ کانگریسی ہندوؤں کی بھاری اکثریت بھی انہیں لوگوں کے ساتھ تھی۔

کئی سال بعد جب ہندو اور کانگریسی مسلمان لیڈر جیلوں سے باہر آئے تو معاملہ ہی دگرگوں تھا۔ ہندو مسلم اتحاد پارہ پارہ ہو چکا تھا اور دونوں قوموں کے دلوں میں نفرت اور دشمنی کا سمندر بھٹاٹھیں مار رہا تھا۔ مسلمان رفتہ رفتہ کانگریس سے الگ ہونے لگے اور آخر میں بہت سے سربراہان اور لیڈر بھی کانگریس سے الگ ہو گئے۔ اب چونکہ کانگریس ایک آل انڈیا قومی جماعت کہلاتی تھی اس لئے انگلستان کی پبلک اور پارلیمنٹ کے سامنے اپنی اس حیثیت کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری تھا کہ کچھ مسلمانوں کو کانگریس میں ضرور رکھا جائے۔ اس لئے کانگریسی لیڈروں نے دوسری چال چلی اور روپیہ کے بل پر مسلمانوں کو خریدنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی جہالت، غربت اور افلاس کے پیش نظر یہ کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ سینکڑوں ایسے لوگ جن کا ذریعہ معاش ہی کچھ نہ تھا لیکن جاہل مسلمان پبلک کے جذبات کو برا بھینتہ کرنے کے لیے تقریریں خوب کر سکتے تھے کانگریس کے تنخواہ

دارکار کن بن گئے اور آخر تک وفادار رہے لیکن کچھ ایسے سربراہان اور وہ عمامند بھی تھے جو روپیہ کے لئے کانگریس کے ساتھ نہ تھے بلکہ صدق دل سے ان کا عقیدہ ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کی بہتری کانگریس کا ساتھ دینے ہی میں ہے۔ بہر حال اس حکمت عملی سے ہندوؤں کو دو ہر افائدہ پہنچا۔ ایک طرف تو وہ یہ دعویٰ کرنے کے قابل رہے کہ صرف آل انڈیا نیشنل کانگریس ہی ہندوستان کی واحد قومی اور نمائندہ جماعت ہے۔ دوسری طرف وہ خود ہندوستانی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور اس طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں کامیاب ہو گئے جو کبھی خلافت کمیٹی کی شکل میں منظم ہو گئی تھی اور اس طرح انہوں نے بزعم خود اس خطرہ عظیم کا بہت کچھ سدباب کر دیا جو سا لہا سال سے ان کے خوابوں کی دنیا پر کا بوس بن کر چھایا ہوا تھا کہ انگریزوں کے رخصت ہونے پر کہیں ہندوستانی مسلمان اور سرحدی پٹھان ان کو پھر غلام نہ بنالیں۔ اس خطرے کا قلع قمع کرنے کے لئے انہوں نے صرف اس حکمت عملی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اور تدابیر بھی اختیار کیں جن کا بیان آگے کیا جاتا ہے۔

زیادہ خطرہ سرحدی پٹھانوں سے تھا اسلئے زیادہ توجہ انہی کی طرف مبذول کی گئی۔ ان کی ذہنیت اور طاقت کا جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ ان میں انتہائی جہالت اور غربت دو خامیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ان کو مستحکم کر لینا کچھ بھی مشکل نہیں۔ چنانچہ ان خامیوں سے پورا فائدہ اٹھایا گیا اور زیادہ عرصہ نہ گزارنے پایا تھا کہ ان شیروں کو سنہری روپہلی زنجیروں میں جکڑ کر کانگریس کی گاڑی میں سب سے آگے جوت دیا گیا۔ پٹھانوں کو مطیع کرنے میں دو باتوں سے خاص طور پر مدد ملی۔ اول یہ کہ انگریزوں چونکہ قبائلیوں سے ہمیشہ برسر جنگ رہتا تھا اور کانگریس آزادی حاصل کرنے کے لئے انگریزوں سے جنگ کر رہی تھی اس لئے اس سیدھی سادی مخلوق کے دماغ میں یہ خیال پیدا کر دینا کچھ بھی مشکل نہ تھا کہ کانگریس کے سوا اور جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ سب انگریزوں کی پٹھو اور ملک کی خدرا ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ سرحدی علاقے میں ہندوؤں کی آبادی چودہ پندرہ فیصد سے زیادہ نہ تھی، اس لئے وہ ہمیشہ مسلمانوں کی خوشنودی کا خیال رکھتے تھے اور سرحدی پٹھان اپنی بے انتہا بے خبری اور لاعلمی کی وجہ سے ہندوستان میں ہندوؤں کی طاقت اور مسلم کش ذہنیت سے قطعاً ناواقف تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات کسی طرح بھی نہ آ سکتی تھی کہ انگریزوں کے رخصت ہونے کے بعد ہندو ان پر من مانی حکومت کریں گے یا کسی قسم کا نقصان پہنچا سکیں گے۔ الغرض سرحدی پٹھانوں کو اس طرح مستحکم کیا گیا۔ اب رہ گئے ہندوستانی مسلمان ان کو زیر کرنے کے لئے یہ تدبیر کی گئی کہ جس قدر حصول آزادی کا یقین ہوتا گیا ہندو اس قدر سنگٹھنی جماعتوں کی تربیت اور تنظیم کو زیادہ قوی کرتے گئے۔ ہر شہر اور قصبہ میں اکھاڑے قائم کر دیئے گئے اور کشتی،

گنکا، پھری، بوٹ وغیرہ سکھانے کا باقاعدہ انتظام کیا گیا تھی کہ حصول آزادی سے دو سال پہلے یعنی ۱۹۴۵ء میں یہ تحریک اس قدر منظم اور عام ہو گئی کہ ہندوستان کے طول و عرض میں ہندو نوجوان ہزاروں کی تعداد میں علی الصبح شہروں اور قصبوں کے باہر اکٹھے ہو کر فوجی ڈرل کرتے اور کڑی کے ڈنڈوں سے ان کو تلوار اور بندوق چلانے کی مشق کرائی جاتی۔ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی سیٹھ موٹر میں آتا اور ہزار دو ہزار کی قبیلی انعام میں دے جاتا۔ ہر ہندو محلہ میں تلوار، بندوق اور پستول اور بہوں کے ذخائر اکٹھے کئے جاتے اور خفیہ جلسوں میں جنگ کے پروگرام بنائے اور طریقہ ہائے کار بتائے جاتے تھے۔ اس تحریک کو صرف ہندو لیڈروں اور امیروں ہی کی نہیں بلکہ راجوں مہاراجوں کی مدد بھی حاصل تھی۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقسیم ہند کے وقت یعنی اگست ۱۹۴۷ء میں ہندو ہر جگہ جنگ کے لئے تیار اور مسلمان شیخی اور غفلت کے نشہ میں سرشار تھے۔ چنانچہ دہلی، مشرقی پنجاب اور یوپی کے مغربی اضلاع میں جو قیامت برپا ہوئی اس کے آگے چنگیز، تیور، نادر شاہ اور ۱۸۵۷ء کے مظالم بھی افسانہ بن کر رہ گئے۔ ایک کروڑ سے زیادہ مسلمان خانماں برباد ہوئے، لاکھوں عورتوں کی آبروریزی کی گئی، لاکھوں اغوا کر لی گئیں اور تیس لاکھ سے زیادہ مسلمان قتل کر دیئے گئے۔ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اس ہندو نے جو چیونٹی کو مارنا بھی پاپ بتاتا اور ہر وقت اورنگ زیب کے نظم و حکم کارونارویا کرتا تھا۔

اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو مسلمان کیا کر رہے تھے؟ اس کا جواب صرف دو لفظوں میں یہ ہے کہ ”وہ اس وقت بھی آپس میں لڑ رہے تھے“ کچھ ظاہر اطور پر کانگریس کے ساتھ تھے، کچھ خفیہ طور پر جاسوسی کی خدمت بجالا رہے تھے لیکن ہندوؤں کی سیاسی چالیں اور عزائم بے نقاب ہو گئے تو کچھ مسلمانوں کو ہوش آیا۔ آل مسلم پارٹی کا نفرنس بلائی گئی اور قوم کی قیادت کا کام ایسے نازک مرحلے پر مسلم لیگ کو سپرد کر کے قائد اعظم محمد علی جناح کو اس ڈوبتے ہوئے بیڑے کا ناخدا مقرر کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نے بہت جلد طاقت حاصل کر لی اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ ساری دنیا خلاف تھی لیکن اتحاد میں بڑی طاقت ہے۔ مسلمانوں کے اس عارضی اتحاد اور قائد اعظم کے بے پایاں خلوص، ایثار اور فولادی کردار کی وجہ سے پاکستان مل گیا۔ یقین تھا کہ پورا پنجاب اور بنگال پاکستان میں شامل ہوگا لیکن رسوائے عالم اور اسلام دشمن لارڈ ماؤنٹ بیٹن بقول خود پنڈت جواہر لال نہرو کا پرسنل فرینڈ تھا، اس دوستی کی وجہ سے اس نے انصاف کا خون کیا اور پنجاب اور بنگال کو (جو خالص مسلم اکثریت کے صوبے تھے) کاٹ کر ان کے آدھے جسم پاکستان کے حوالے کر دیئے۔ جو کسر رہ گئی تھی وہ مسٹر ریڈ کلف نے پوری کر دی جو دونوں ملکوں کی سرحد مقرر کرنے آیا تھا۔ اس نے

گورداسپور کا ضلع جو تقریباً سارے کا سارا مسلمان تھا ہندوستان کو دے دیا تاکہ کشمیر جانے کا راستہ اسے مل جائے۔ حق یہ ہے کہ ہندوؤں کی عاجزی و مسکینی اور خاطر و خدمت گزاری کی عادت نے انہیں ہر جگہ کامیاب کیا اور مسلمانوں کے غرور، نخوت، اکڑفوں، شیخی اور خود پسندی (جس کو وہ خودداری کہتے ہیں) نے ان کو ہر جگہ خسارے میں رکھا۔

ہندوؤں کی سیاست میں خاص بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ان میں علمی، معاشرتی، مذہبی اور سیاسی جتنی بھی جماعتیں تھیں، مقصد سب کا ایک لیکن طریقہ کار سب کا الگ الگ تھا اور اعلیٰ سیاست کا یہی سب سے مفید اور زریں اصول ہے۔ فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دشمن کا دھیان کئی طرف بٹا رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جب ایک جماعت ناکام ہو جاتی ہے تو دوسری کام شروع کر دیتی ہے اور اس طرح سب مل جل کر آگے ہی بڑھتی رہتی ہیں، تحریک رکنے نہیں پاتی۔ مثال کے طور پر کانگریس بظاہر مسلمانوں کی خیر خواہ اور دوست جماعت تھی اور ہندو مہاسیجھا کھلم کھلا ان کی جانی دشمن۔ کانگریس نے دوستی کے پردے میں مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان کی اجتماعی طاقت کو کم کیا اور مہاسیجھا نے تلوار کے زور سے انہیں خاک و خون میں ملایا۔ اگر تمام ہندو جماعتیں ہی کھلم کھلا خلاف ہو جاتیں تو یقیناً مسلمان بھی مایوس ہو کر سب کے سب متحد ہو جاتے لیکن کانگریس اور دوسری ”بظاہر مسلمان دوست“ جماعتوں کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکے۔ کانگریس کا مقصد یہ تھا کہ سوراج ملنے کے بعد مسلمان پر رزق کے دروازے بند کر کے ان کو رفتہ رفتہ نیست و نابود کیا جائے۔ مہاسیجھا اور سنگھتی جماعتوں کا اصول یہ تھا کہ ان کو طاقت اور تلوار کے زور سے ختم کر دیا جائے۔ مسلمان اپنی جہالت اور اپنی بے علمی کی وجہ سے ان چالوں کو سمجھ ہی نہ سکے اور آخر وقت تک آپس ہی میں لڑتے رہے۔

اب آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ ہندوؤں کی مسلمان دشمنی کوئی عارضی شے یا پانی کا بلبلہ نہیں ہے کہ سر اٹھایا اور بیٹھ گیا بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت اور ایک فطری جذبہ ہے جو ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے وقت سے شروع ہوا اور آج تک علیٰ حالہ قائم ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کی حکومت کو بخوشی کبھی بھی قبول نہ کیا اور جب کبھی ان کی طاقت کو کمزور ہوتے دیکھا تو اسے مٹانے کو تیار ہو گئے۔ شہنشاہ اورنگ زیب کی وفات کے بعد جو طوائف الملوکی پھیلی اس سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا اور پچاس برس بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ مرہٹوں نے جنوبی اور وسطی ہند کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر کے خود دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اگر احمد شاہ ابدالی پانی پت کی تیسری لڑائی میں ان کا مکمل استیصال نہ کر دیتا تو سلطنت اسلامیہ کا چراغ تو اسی

وقت گل ہو چکا تھا۔ ہندو پانی پت کی شکست کے بعد بھی خاموش بیٹھے والے نہ تھے لیکن اسی زمانہ میں انگریز آن دھکا اور ہندو حکومت کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ انگریزی حکومت کے زمانے میں بھی ہندو کی مسلمان دشمنی میں کوئی فرق نہ آیا بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ صرف اتنا ہوا کہ اظہارِ خصوصیت کے طریقے بدل گئے۔ پہلے حکومت اسلامی کو مٹانے کی کوششیں تھیں، اب خود مسلمانان ہند کو مٹانے کا تہیہ کر لیا گیا۔ دراصل ہندو اپنی مذہبی اور سماجی نفسیات اور افناد کی وجہ سے کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ خدا کی وسیع زمین پر سوائے برہمن، کھشتری اور ویش کے اور بھی کسی کو فارغ البالی اور خوشحالی سے رہنے کا حق حاصل ہے۔ اس لئے اس نے فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنا ہے تو شور و سن کر رہیں ورنہ جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں۔

اس فیصلہ کو قوت سے فعل میں لانے کے لئے ہر طرف سے مسلمانوں پر رزق کے دروازے بند کرنے کی مساعی شروع کر دی گئیں۔ حصول رزق کے چار ہی راستے ہیں۔ زراعت، تجارت، صنعت و حرفت اور ملازمت۔ چنانچہ ان چاروں راستوں پر قبضہ کرنے کی ٹھان لی گئی۔ ۱۸۵۷ء کی تباہی کے بعد کم از کم شمالی ہند میں مسلمان زمیندار اسی فیصدی زرعی زمینوں کے مالک تھے۔ وہ ایک حکمران طبقے سے تعلق اور معیار زندگی بلند رکھتے تھے۔ نوایاں اور مناصب چھن جانے کے بعد صرف زمینوں کی آمدنی ان کے شاہانہ اخراجات کے لئے کافی نہ ہو سکی اور تھوڑے ہی عرصہ میں قرضہ اور سود رسد کے چکر میں تمام زمینیں ہندو ہونوں کے ہاتھ بیچ یا رہن ہو گئیں۔ تجارت میں یہ ہوا کہ اول اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لئے انگریز نے مسلمان تاجروں کو تباہ کیا پھر جو باقی بچے ان کو ہندوؤں نے مقابلہ کر کے تباہ کر دیا۔ ہندو دنیاؤں نے ہندوؤں کو ترغیب دی کہ مسلمانوں سے کوئی چیز نہ خریدیں اور ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیں۔ اس تحریک سے مسلمان تاجروں کو سخت نقصان پہنچا لیکن یہ فائدہ بھی ہوا کہ مسلمانوں نے بھی ہندوؤں کا مقاطعہ کر دیا اور بہت سی چیزوں کی تجارت جس کے واحد اجارہ دار اس وقت ہندو تھے خود شروع کر دی۔ مسلمان حلوائی خصوصاً اسی وقت کی یادگار ہیں۔ صنعت و حرفت بھی زیادہ تر مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی لیکن ہندوؤں نے بڑی بڑی فیکٹریاں وغیرہ قائم کر لیں اور مسلمانوں کے ہاتھ میں سوائے چھوٹی چھوٹی دستکاروں کے اور کچھ باقی نہ رہا۔ اب رہ گئی ملازمت، اس کا یہ حشر ہوا کہ ہندوؤں نے تو انگریز کے آتے ہی انگریزی تعلیم شروع کر دی تھی۔ مسلمانوں نے برس برس ادھر توجہ ہی نہ کی۔ بعد میں جب انگریزی پڑھ لکھ کر دفاتر کا رخ کیا تو ہر جگہ ہندو کا قبضہ اور ہر دفتر کے دروازے کو اپنے لئے بند پایا۔ ان واقعات اور خصوصاً سرکاری دفاتر میں ہندوؤں کی اجارہ داری اور تعصب نے انگریزی تعلیم یافتہ مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں اور وہ یہ

سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آزادی ملنے کے بعد (جس کے آثار اب نظر آنے لگے تھے) مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا۔ یہی خیال ہندوستان میں ایک آزاد اسلامی ریاست کے قیام کی تجویز کا باعث ہوا اور آخر کار سخت جدوجہد کے بعد پاکستان وجود میں آیا۔

اب اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہندوؤں کے دل سے مسلمانوں کی دشمنی کا جذبہ ختم ہو گیا ہے تو وہ سخت غلطی پر ہے۔ ہندو کسی حال میں بھی بھارت ماتا کے ٹکڑے کئے جانے پر راضی نہ تھے۔ مگر دو وجوہات سے مجبور انہوں نے یہ بات مان لی۔ اول یہ کہ وہ ہر قیمت پر آزادی حاصل کرنے کے درپے تھے۔ دوسرے ان کو یقین تھا کہ مسلمان غربت، کم علمی اور باہمی جھگڑوں کی وجہ سے پاکستان کو قائم نہ رکھ سکیں گے اور آخر کار کسی نہ کسی وقت یہ ٹکڑا پھر بھارت ماتا کے جسم میں جوڑ دیا جائے گا۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ ان کی یہ آرزو پوری نہ ہوئی اور مسلمانوں نے باوجود اپنی کمزوریوں کے ایک ایسی حکومت قائم کر لی جس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کے لئے بھی بار بار سوچنا پڑتا ہے۔ مگر باوجود اس کے انہوں نے اپنی معاندانہ مساعی میں اب بھی کوئی کمی نہیں کی ہے۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو کمزور سے کمزور تر بنا دیا جائے۔ اس کے لئے ایک طرف تو وہ دن رات اپنی فوجی قوت بڑھانے میں مشغول ہیں۔ دوسری طرف مغربی ملکوں سے ساز باز کر رہے ہیں۔ تیسری طرف بیرونی دنیا خصوصاً اسلامی ممالک میں ہمارے خلاف نفرت کے بیج بوری ہے۔ چوتھی طرف ہمارے دریاؤں کا رخ پھیر رہے ہیں تاکہ ہماری زمین ہمیں اناج دینے سے انکار کر دے۔ پانچویں طرف اپنے جاسوسوں یعنی غدار اور قوم فروش مسلمانوں کی جبینیں سیم وزر سے بھر کر ہمارے ملک میں فرقہ وارانہ اور علاقائی منافرت کی آگ بھڑکار رہے ہیں۔ خصوصاً مشرقی پاکستان میں چند آسانوں کی وجہ سے ہندوؤں کی یہ سازشیں زیادہ منظم اور زیادہ وسیع پیمانے پر جاری ہیں۔ چھٹی طرف اپنی تمام طاقت اس بات پر صرف کر رہے ہیں کہ مغربی اور مشرقی پاکستان کو کسی طرح سیاسی طور پر الگ کر کے پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیں۔ (نوٹ: ۱۹۷۱ء کے واقعات، پاک بھارت جنگ اور اس کے نتائج حضرت عبدالکلیم انصاریؒ کی اس تحریر اور ان کی بصیرت کے گواہ ہیں) اور جب یہ ہو جائے تو مشرقی پاکستان پر پولیس ایکشن کے ذریعہ قابض ہو جائیں اور پھر مغربی پاکستان کی طرف توجہ کریں۔ الغرض شش جہت سے ہمیں گھیر رکھا ہے لیکن اس پر بھی ہمارے عوام تو کیا بہت سے زعماء اور لیڈر بھی کانوں میں تیل ڈالے بیٹھے ہیں اور ذاتی اقتدار کے نشہ میں مدہوش کر سیاں توڑنے میں مشغول ہیں۔ ان کو یہ باتیں سنائی جائیں تو کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی یہ مجال نہیں کہ ہماری طرف نظر اٹھا کر دیکھیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کانگریس اور اس کی

حکومت مسلمانوں اور پاکستان کی ہرگز دشمن نہیں۔ کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ اب یو۔ این۔ او برسر اقتدار ہے۔ اس کے ہوتے کسی کی طاقت نہیں کہ ہم پر حملہ کر دے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ باتیں یا تو بزدلی ہے یا خود فریبی۔ یہ انڈین نیشنل کانگریس اور اس کی حکومت وہی تو ہے جس نے ۱۹۴۷ء میں تیس لاکھ مسلمانوں کو قتل اور ایک کروڑ کو بے خانماں کرایا، حیدرآباد کی اسلامی سلطنت کو ختم کیا اور جو ناگزہ کو ہضم کر گئی، آدھا کشمیر نکل لیا اور اب باقی آدھے کو نکلنے کی فکر میں ہے اور یہ یو۔ این۔ او بھی تو وہی ہے جو سب کچھ دیکھتی رہی اور ٹس سے مس نہ ہوئی اور چلے ہم مانے لیتے ہیں کہ کانگریس حکومت اور کانگریس کے ارکان سبھی مسلمانوں کے واقعی بڑے پکے دوست اور پاکستان کے بڑے خیر خواہ ہیں اور ان کے لیڈر جو دن رات گلے پھاڑ پھاڑ کر چلاتے رہتے ہیں کہ ہم پاکستان پر کبھی حملہ نہیں کریں گے یہ بھی بالکل سچ ہے۔ پھر بھی خدا را ہمیں یہ تو بتائیے کہ کسی کے وعدوں پر اعتبار کر کے غافل بیٹھے رہنا اور دفاع کی تیاری نہ کرنا کہاں کی سیاست اور دانش مندی ہے۔ اس قسم کے سیاسی وعدوں کا اعتبار کوئی احمق ہی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے دنیا کے سیاست میں کمزوری سب سے بڑا قصور اور غفلت سب سے بڑا گناہ ہے جس کی سزا تباہی کے سوا اور کچھ نہیں۔ علاوہ ازیں اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ہندوستان میں ہمیشہ آپ کی مسلمان دوست کانگریس ہی کی حکومت رہے گی اور آپ کی دشمن جان جن سنگھ کبھی برسر اقتدار نہ آئے گی۔ پھر اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اس لئے ہندوستان اور دوسرے تمام ممالک سے بے شبہہ دوستانہ تعلقات رکھیے لیکن اپنی دفاعی طاقت کو مکمل کئے بغیر چین سے نہ بیٹھے۔

اب کچھ حال مذہب اسلام کے عقائد، عبادات، معاملات اور روحانیت کا سینے اور دیکھنے کہ قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں میں راحت و آرام اور کامرانی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔

۱۔ ہمارے اس بیان کا ثبوت ستمبر ۱۹۶۵ء کی سترہ روزہ جنگ سے مل چکا ہے۔ بلکہ یہ بات بھی خوب واضح ہو گئی ہے کہ خواہ ننتاہی زمانہ گزر جائے۔ ہندو پاکستان کو مٹانے کی کوششوں سے باز نہ آئیں گے۔ اس لئے ہم کو چاہیے کہ اپنے دفاع کو مضبوط سے مضبوط بنائے اور باہمی اتحاد اور جہاد کے جذبہ کو دن و رات چوٹی ترقی دینے میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ دوسرے اسلامی ممالک کا بھی فرض ہے کہ پاکستان کو جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے دفاع کی پہلی لائن ہے زیادہ سے زیادہ طاقت و رہبانے میں کسی قربانی سے بھی دریغ نہ کریں۔

مذہب اسلام

مذہب اسلام مشتمل ہے تین حصوں پر۔ اول عقائد، دوسرے عبادات اور تیسرے معاملات و اخلاق۔ یہ تینوں حصے آپس میں اس طرح مربوط اور پیوستہ ہیں جیسے کہ ایک مشین کے پرزے کہ ایک پرزہ بھی بیکار ہو جائے تو ساری مشین چلنے سے رُک جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اسلام کے ان تینوں حصوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل میں کوتاہی ہو تو مذہب میں خلل آ جاتا ہے اور یہ کوتاہ اعمالی اگر قوم کی اکثریت سے سرزد ہو تو ساری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے۔

اَفْتُوْا مُنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا جِزٰی ۗ فِی الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَیَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرٰدُوْنَ اِلٰی اَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ (البقرہ: ۸۵)

”یعنی کیا تم قرآن کی بعض باتوں کو تو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے۔ جو ایسا کرتا ہے اس کی جزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہو اور آخرت میں ایسے لوگ سخت عذاب کی طرف پھیر دیئے جائیں گے۔“

اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اگر تم قرآن کی ہر بات پر یقین اور عمل کرو گے تو فلاح پاؤ گے ورنہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہو گے۔ اب چونکہ مسلمان ہونے کے لئے سب سے پہلی چیز عقائد پر ایمان لانا ہے اس لئے لازم ہوا کہ سب سے پہلے بنیاد یعنی عقائد کو محکم سے محکم تر بنایا جائے۔ جتنے یہ عقائد محکم ہوں گے اتنی ہی ہماری عبادات پر خلوص اور بااثر ہوں گی اور اتنے ہی ہمارے معاملات صالح اور مفید ہوں گے۔ ہمارے زوال کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ عقائد یعنی بنیاد ہی محکم نہیں۔ یہ عقائد کیا ہیں سینے۔

عقائد

مذہب اسلام میں داخل ہونے کے لئے مندرجہ ذیل عقائد پر ایمان لانا پہلی شرط ہے۔

۱۔ اللہ کی موجودگی اور ذات و صفات میں ہر لحاظ سے اس کی یکتائی پر۔

۲۔ فرشتوں پر۔

۳۔ وحی کے ذریعہ نازل ہونے والی کتابوں پر۔

۴۔ تمام رسولوں پر۔

۵۔ قیامت کے دن پر۔

۶۔ اس بات پر کہ خبر و شکر کے تمام اندازے اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔

۷۔ موت کے بعد کی زندگی پر۔

چونکہ یہ تمام باتیں قرآن میں موجود ہیں، اس لئے اگر ہم یوں کہیں کہ مسلمان ہونے کے لئے صرف تین باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے تو غلط نہ ہوگا۔ وہ تین باتیں یہ ہیں۔

۱۔ اللہ کی وحدانیت یعنی یہ کہ اللہ ذات و صفات میں ہر لحاظ سے یکتا اور بے مثل ہے۔

۲۔ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی رسالت یعنی یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔

۳۔ قرآن کی صداقت یعنی یہ کہ قرآن جیسا کہ آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر وحی کے ذریعے نازل ہوا تھا بالکل دیباہی بغیر ایک حرف یا زبر کی کمی بیشی کے اس وقت بھی موجود ہے اور اس کے ہر حکم پر خواہ امر ہو یا نہی پوری طرح عمل کرنا ہی عین اسلام ہے۔

اب غور طلب بات یہ ہے کہ یہ تینوں باتیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں یعنی حواس ظاہری سے معلوم و متحقق نہیں ہو سکتیں۔ اللہ غیب میں ہے اور حواس ظاہری سے معلوم نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت محمد ﷺ اگرچہ بصورت بشر دنیا میں تشریف لائے لیکن آپ کے رسول ہونے کا ذریعہ یعنی وحی غیب سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح قرآن اگرچہ کتاب کی شکل میں ہمارے پاس ہے لیکن اس کے نزول کا ذریعہ یعنی جبریل علیہ السلام بھی غیب ہی میں ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں اور بھی کئی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو حواس ظاہری سے معلوم نہیں ہو سکتیں مثلاً فرشتے، دوزخ، جنت، لوح محفوظ وغیرہ وغیرہ۔

تو گویا مسلمان ہونے کے لئے سب سے پہلی چیز ”ایمان بالغیب“ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم بغیر کسی اور دلیل و حجت کے ان چیزوں پر یقین کامل پیدا کر لیں۔ یہ درجہ ایمان کا بہت ہی بڑا ہے کیونکہ بغیر دلیل کے ان باتوں کو مان لینا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی سچائی کی تصدیق کرنا ہے۔ ہم نہیں

جانتے کہ اللہ کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، ہے بھی یا نہیں؟ لیکن آنحضرت سرور کائنات حضرت محمد ﷺ کو ہم ضرور جانتے ہیں کہ وہ سچے ہیں، صادق و امین ہیں اور معصوم ہیں۔ جب وہ فرماتے ہیں کہ اللہ موجود ہے تو پھر ہم کو کسی اور حجت یا دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اور چیزوں کی طرح ایمان کے بھی مختلف درجے ہیں۔ ایک شخص محض دھوکا دینے کی غرض سے کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ اور محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لایا تو وہ منافق ہے لیکن ایک اور شخص سچ مچ مسلمان ہونے کی نیت سے کلمہ پڑھتا ہے اور سچے دل سے کہتا ہے کہ ”میں ایمان لایا اللہ، اس کے رسولوں اور کتابوں پر“ وغیرہ وغیرہ مگر اس کو اپنے الفاظ پر اعلیٰ درجہ کا یقین نہیں ہوتا۔ وہ شخص بے شبہ ”مسلمان“ ہے لیکن مومن نہیں۔ مومن صرف وہ ہے جس کو یقین کامل حاصل ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کل لاکھوں مسلمانوں میں سے شاید ایک دو ہی ہوں گے جو مومن کہلانے کے مستحق ہوں۔ برخلاف اس کے قرن اوّل کے عربوں میں اسی نوے فیصد پکے مسلمان اور رسول اکرم ﷺ کے اصحاب کبار میں صد فیصد مومن کامل تھے۔ ان کے اخلاق بھی کامل تھے۔ اللہ پر ان کا بھروسہ اور قرآن پر ان کا عمل بھی کامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جس طرف قدم اٹھاتے کامیاب ہوتے تھے۔ زندگی کا کوئی شعبہ اور گوشہ ایسا نہ تھا جس میں ان کی ترقی فقید المثال نہ ہو۔ یہی وہ مبارک جماعت تھی جس کے ساٹھ ساٹھ آدمی ساٹھ ساٹھ ہزار کفار کو میدان جنگ میں شکست دے دیا کرتے تھے۔ آج مغربیت زدہ مسلمان ان حقیقتوں کو تقلید یورپ کی وجہ سے جھوٹا سمجھتے اور مذاق اڑاتے ہیں مگر وہ معذور اور قابلِ معافی ہیں۔ وہ ایمان کی قوت اور نصرت خداوندی کی طاقت سے نا آشنا ہیں اور محض اس واسطے نا آشنا ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ وہ صرف مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں۔ بلکہ بہت سے تو شاید مسلمان بھی نہیں۔

یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے۔ قرآن میں ہے۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ (الحجرات: ۱۴)

یعنی ”اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے (تو اللہ نے اپنے پیارے رسول سے فرمایا انہیں کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔“

یعنی مومن تم اس وقت کہلاؤ گے جب ایمان تمہارے دلوں میں گھر کر لے گا۔

اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ ملتِ اسلامیہ کے دو حصے ہیں۔ ایک مسلمان، دوسرے مومن۔ اب سوال

یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اور وہ کس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے؟ پہلے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے۔ دوسرے کا جواب یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ کے سوا نہ تو کسی سے ڈرتا ہو نہ کسی سے توقع رکھتا ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے مومن کی تعریف یہ بھی کی ہے کہ جب وہ عبادت کر رہا ہو تو یہ محسوس کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا پھر بدرجہ اقل یہ کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تیسرے سوال کا جواب کہ ایسا ایمان کس طرح حاصل ہو سکتا ہے بہت تفصیل طلب ہے۔ اس لئے ہم صفحات ذیل میں کسی قدر شرح و بسط کے ساتھ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ.

ایمان محکم کس طرح پیدا ہوتا ہے؟

ذہنی لحاظ سے ہر قوم کے تین حصے کئے جاسکتے ہیں۔ ادنیٰ، اوسط اور اعلیٰ۔ ان میں سے ادنیٰ طبقے کے لوگ عوام کہلاتے ہیں اور ہر قوم کا بڑا حصہ انہیں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں تلاش و تحقیق کا مادہ بالکل نہیں ہوتا۔ یہ صرف مقلد اور لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ جیسا کسی سے سن لیتے ہیں یا اپنے آباؤ اجداد کو کرتا دیکھتے ہیں اسی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ عام مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ، رسول یا دین کے بارے میں جو کچھ باپ دادا سے سنا وہی ان کا سرمایہ عقائد و اعمال ہے۔ ان کو خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے؟ اور اس کی موجودگی کا ثبوت کیا ہے؟ اس قسم کے سوالات ہزاروں میں سے ایک دو کے دل میں پیدا ہوتے ہیں مگر وہ لوگ بھی معمولی قسم کی دلیلوں سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جب ان سے کہا جائے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز بنا سکتے ہو جس کو کسی نے نہ بنایا ہو۔ خود بخود پیدا ہوگئی ہو تو وہ یہی جواب دیں گے کہ نہیں۔ اب ان سے کہا جائے کہ پھر یہ کائنات یعنی کرۂ ارض، آسمان، چاند، سورج، ستارے وغیرہ خود بخود کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں؟ ثابت ہوا کہ ان کا بنانے والا بھی کوئی ضرور ہے۔ اس دلیل سے ان کی تسلی ہو جاتی ہے لیکن کچھ خاص لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذرا آگے سوچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہر چیز کا کوئی بنانے والا ضرور ہوتا ہے تو پھر اللہ کا پیدا کرنے والا بھی ضرور ہونا چاہیے۔ یہیں سے منطق، فلسفہ اور علم کلام کی کبھی ختم نہ ہونے والی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کا نتیجہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ تعلیم یافتہ اور لسان ہو وہ مد مقابل کو خاموش کر دیتا ہے گواس کی تسلی نہ بھی کر سکے لیکن ان بحثوں سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اور غیب کی دوسری چیزوں کے متعلق تلاش و جستجو بڑھتی چلی جاتی ہے اور ہر طالب اپنی طلب اور علم و عقل کے مطابق کسی نہ کسی مقام پر مطمئن ہو جاتا ہے یا انکار کر دیتا ہے۔

ان ہزار ہا طالبوں میں دو چار ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی استدلال عقلی سے مطمئن نہیں ہوتے بلکہ آنکھوں سے دیکھ کر ماننا چاہتے ہیں۔ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو محض ضد اور تعصب کی وجہ سے قائل ہونا ہی نہیں چاہتے، دوسرے وہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے واقعی دل سے معرفت یا دیدار باری تعالیٰ کے منتہی ہوتے ہیں۔ وہ یہ جاننے کے لئے بھی بیتاب ہوتے ہیں کہ مادے کے ان کثیف پردوں میں جو عالم لطیف مستور ہے وہ کیسا ہے؟ انسان کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ فرشتے کیا ہیں؟ دوزخ جنت کی حقیقت کیا ہے؟ یہی ہیں وہ مبارک لوگ کہ جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اولیاء اللہ کے لقب سے منقّب ہوتے ہیں۔ ان پر وہ حقیقت کبریٰ بے نقاب ہو جاتی ہے جس کو معلوم کرنے کے لئے دنیا بھر کے فلاسفر اور سائنس دان ماڈی ظلمات کے اندھیرے میں ٹاک ٹوٹیاں مارتے مارتے فنا ہو گئے اور نامراد رہے لیکن معرفت اور اس سے بھی بڑھ کر رویت باری تعالیٰ کا حصول کوئی مذاق یا دل لگی نہیں ہے تاہم یہ مجال بھی نہیں۔ قرآن میں رویت باری تعالیٰ کے متعلق بہت سی آیتیں ہیں۔ ان میں کچھ ایسی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ رویت قیامت میں ہوگی لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جن میں قیامت کا کوئی ذکر بظاہر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں میں اس مسئلہ پر بھی کافی بحث مباحثہ رہا ہے اور اب بھی ہوتا رہتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ رویت قیامت میں ہوگی۔ دوسرا کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہی ہو جائے گی۔ تیسرا گروہ جس میں عام طور پر صوفیا اور اولیائے کرام شامل ہیں دعویٰ کرتا ہے کہ رویت باری تعالیٰ اسی زندگی میں میسر آ سکتی ہے اور جس کو یہاں میسر نہ آئی اسے آخرت میں بھی میسر نہ آئے گی۔ ان کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ معرفت اور دیدار باری تعالیٰ کی خواہش بھوک پیاس کی طرح ایک فطری اور جبلی خواہش ہے۔ خواہ لاکھوں میں سے صرف ایک دو آدمیوں کے دل میں ہی کیوں نہ ہو اور مشاہدہ کہتا ہے کہ جتنی جبلی خواہشات قدرت نے پیدا کی ہیں ان سب کی تسکین کا سامان ضرور پیدا کیا ہے۔ مثلاً بھوک اور پیاس بیدار کی ہیں تو ان کی تسکین کے لئے طرح طرح کے ماکولات اور مشروبات پیدا کر دیئے ہیں۔ یہی حال دوسری شہوات و خواہشات کا ہے۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ نے اپنے دیدار اور عرفان کی خواہش تو کسی انسان کے دل میں فطرتاً رکھ دی ہو لیکن اس کی تسکین کا سامان اور حصول کے ذرائع پیدا نہ کئے ہوں۔ دوسرے یہ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ..... ۵

یعنی ”جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔“ (بنی اسرائیل: ۷۲)

اس کا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس نے یہاں اللہ کو نہیں دیکھا وہ وہاں بھی نہ دیکھے گا۔ پھر قرآن میں یہ بھی ہے کہ فَانْهَآ لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ نَّعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِي فِي الصُّدُوْرِ ۝ (الحج: ۴۶) یعنی ”ان کی ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوں گی بلکہ ان کے سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہوں گے۔“ ظاہر ہے کہ یہ آنکھیں اللہ کی صفاتی شانوں مثلاً نور وغیرہ ہی کو دیکھ سکتی ہیں۔ اس کی ذات تو صرف دل کی آنکھوں ہی سے نظر آ سکتی ہے۔ ان آیات کے علاوہ ایک جگہ یوں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ ”وَمَنْ اَعْرَضَ عَن ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً سَخِيْطًا وَّ نُحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰی ۝ (طہ: ۱۲۴)“ یعنی جس نے اعراض کی میری یاد سے یقیناً اس کے واسطے (روحانی) معیشت کی تنگی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔“ یعنی وہ ہمارے دیدار سے محروم رہے گا۔ گویا اس آیت میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ دیدار الہی حاصل کرنے کا ذریعہ یاد الہی ہے۔ الغرض ان آیات پر غور کیا جائے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو یہاں نہیں دیکھیں گے، آخرت میں بھی نہ دیکھیں گے۔ یا یہ زبان حاضرہ یوں کہنے کہ جن کو یہاں بصیرت باطنی حاصل نہیں ہوگی وہ آخرت میں بھی اس سے محروم رہیں گے کیونکہ ”دنیا آخرت کی کھیتی ہے“ جو بیج یہاں بوئے گا، اسی کے پھل وہاں کھاؤ گے۔ جو لوگ اس دنیا میں رویت باری تعالیٰ کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باوجود درخواست کے یہاں رویت میسر نہ آئی تو کسی غیر پیغمبر کو کس طرح آ سکتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وادی طویٰ میں جو آگ موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی گئی تھی اور اس میں سے آواز آئی تھی کہ ”میں تیرا رب ہوں“ اور ”میں ہی ہوں اللہ“ تو کیا یہ دیدار الہی نہ تھا۔ لیکن اس طرح اللہ کو دیکھ کر جب ایک عرصہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ اے اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو جواب ملا کہ ”تو نہیں دیکھ سکتا“ اور جب زیادہ ضد کی تو طور کا واقعہ پیش آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے تو بغیر کسی سوال بلکہ کسی خواہش کے خود اپنا جلوہ دکھایا اور دوسری مرتبہ بار بار درخواست کرنے پر انکار کر دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان ماڈی آنکھوں سے اللہ کو بصورت نور دیکھا تھا۔ دوسری مرتبہ جو درخواست کی تھی تو وہ اللہ کی ذات بے رنگ و بو کو انہیں ماڈی آنکھوں سے دیکھنے کے لئے تھی اور یہ بات ممکن نہیں اس لئے انکار کر دیا گیا یا یوں کہنے کہ معاملہ کو خوبصورتی سے ٹال دیا گیا۔ بہر حال ہم اس بات پر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ طریقے بیان کرتے ہیں جن سے بفضل خدا اس کا دیدار میسر آ سکتا ہے مگر یہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں صرف اہل طلب کے لئے ہے۔

اب جانتا چاہیے کہ عرفان یا لقاے باری تعالیٰ کے ذریعہ ایمان کامل پیدا کرنے کا سوال سامنے آتے ہی ہم

اپنے آپ کو ایک ایسے علم سے دوچار پاتے ہیں جس کا نام تصوف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتداء میں کئی صدیوں تک جب حکومت کے نشہ اور دولت کی بہتات سے عامۃ المسلمین کے صراط المستقیم سے ہٹک جانے کا خطرہ لاحق تھا، تصوف اور صوفیائے کرام نے ان کو راہ راست پر قائم رکھنے میں بڑا حصہ لیا۔ لیکن اس میں بھی شبہ نہیں کہ آخری صدیوں میں مسخ شدہ تصوف اور علم سے بے بہرہ صوفیوں کی لالیعنی اور خلاف قرآن تعلیم سے جو نقصان عظیم ملت اسلامیہ کو پہنچا ہے وہ اور کسی بات سے نہیں پہنچا۔ اس امر واقعہ کے پیش نظر نہایت ہی ضروری ہے کہ آئندہ صفحات میں اس علم کا کسی قدر واضح بیان کیا جائے۔ اسی ضمن میں ایمان کامل پیدا کرنے اور رویت و معرفت باری تعالیٰ حاصل کرنے کے طریقوں کا بیان بھی اپنی اپنی جگہ پر آ جائے گا۔

تصوف

تصوف نے پہلے مسلمانوں کے عقائد اور پھر اعمال پر اس قدر اثر ڈالا ہے کہ آج غالباً ایک فرد واحد بھی خواہ وہ تصوف کا قائل اور معتقد ہو یا نہ ہو ایسا نہیں جو اس سے بالواسطہ یا بلاواسطہ متاثر نہ ہوا ہو لیکن لطف یہ ہے کہ نہ تو قرآن میں لفظ تصوف کا کہیں نام و نشان ہے نہ حدیث میں کہیں تصوف کی مروجہ تعلیم کا ذکر آیا ہے۔ پھر یہ کہاں سے نمودار ہوا اور کیونکر ہمارے عقائد و اعمال پر اس طرح چھا گیا کہ خود قرآن ہی تعلیم بھی غائب ہو گئی اور یہ ہے کیا؟

جس کسی نے تصوف کی تحقیق پر قلم اٹھایا اس نے اس کی وجہ تسمیہ کی چھان بین پر صفحے کے صفحے کالے کر دیئے۔ اس لئے کہ وجہ تسمیہ کچھ بھی ہو، ہم کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس علم کا موضوع کیا ہے؟ چنانچہ جو شخص تصوف کی مبادیات سے بھی واقف ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ اس علم کا موضوع بالکل وہی ہے جو فلسفہ کا ہے۔ یعنی ”حقیقت“ کا معلوم کرنا یا یہ جاننا کہ مادہ کیا ہے۔ روح کیا ہے۔ انسان کیا ہے۔ عقل اور نفس کیا ہیں؟ مرنے کے بعد روح بھی مرجاتی ہے یا باقی رہتی ہے؟ جنت اور دوزخ وغیرہ ہیں بھی یا نہیں اور ہیں تو ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان سب کا بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے؟ ہے تو کیسا ہے؟ کہاں ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔

اب فلسفہ و تصوف میں فرق یہ ہے کہ فلسفہ میں ان باتوں کو جاننے کی کوشش بذریعہ عقل یعنی صحیح منطقی استدلال اور استنباط نتائج سے کی جاتی ہے لیکن تصوف میں یہ کوشش چند ایسی مشقوں اور اعمال سے ہوتی ہے جن سے کچھ باطنی حواس اور روحانی قوتیں جاگ اٹھتی ہیں اور مقاصد مطلوبہ کے حصول میں مدد دیتی ہیں۔ ان

مشقوں اور اعمال کا ذکر کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ قرآن میں بھی اس علم کا ذکر ہے یا نہیں؟

اس میں شک نہیں کہ قرآن میں لفظ تصوف کہیں موجود نہیں بلکہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی وفات کے بعد تقریباً پونے دو سو برس تک اسلامی تاریخ یا کسی اور کتاب میں بھی یہ لفظ نہیں پایا جاتا لیکن قرآن میں کئی جگہ ایک اور لفظ آیا ہے جس کا موضوع بالکل وہی ہے جو تصوف کا ہے۔ یہ لفظ ”حکمت“ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ (البقرہ: ۱۵۱)

”یعنی ہم نے تم ہی میں سے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا تا اور پاکیزہ بناتا ہے اور سکھاتا ہے تم کو کتاب و حکمت اور وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے۔“

اس آیت کے علاوہ بالکل یہی بات آل عمران اور سورہ جمعہ میں بھی ارشاد ہوئی ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ پہلے تو قرآن کی آیات پڑھ کر سنا تے اور پھر سکھاتے تھے۔ یعنی نمودندے کرتے تھے یا توضیح کر کے سمجھاتے تھے۔ مثلاً نماز کا حکم آیا تو پڑھ کر دکھائی اور دوسرے احکام آئے تو وضاحت کر کے بتائے اور حضور ﷺ کا یہ قول اور فعل حدیث کہلاتا ہے۔ ان باتوں کے علاوہ حضور ﷺ ایک اور چیز بھی سکھاتے تھے اور وہ تھی حکمت۔ اب حکمت کا ترجمہ مترجمین نے کہیں کام کی بات کیا ہے، کہیں عقل کی اور سمجھ کی لیکن الحمد للہ آج اردو زبان البصائر بیان میں اتنی بلندی تک پہنچ گئی ہے کہ اہل علم کو لفظ حکمت کا صحیح مفہوم سمجھنے میں کوئی غلطی نہ ہوگی۔ ان آیات کے علاوہ لفظ حکمت قرآن میں اور بھی کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت ۲۶۹ میں ہے۔

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾ (البقرہ: ۲۶۹)

”یعنی اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے اور جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کی گئی اور یہ حکمت کی باتیں کوئی نہیں سمجھ سکتا لیکن وہ جو دانش مند ہیں۔“ اس آیت سے ثابت ہوا کہ

(۱) حکمت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں بلکہ جس کو چاہتا ہے اس کو سکھاتا ہے۔ یعنی یہ کسی نہیں بلکہ محض وہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ

اِس سَعَادَتِ بَزُوْرِ بَاذُو نِيسَتِ
تَانَه مَخْشَدِ خَدَائِه بَخْشَدِه

(۲) حکمت کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ خیر کثیر ہے۔

(۳) حکمت ہر خاص و عام کے لئے نہیں بلکہ صرف ان خاص الخاص لوگوں کے لئے ہے جو انتہائی دانشمند ہوں۔

حکمت کا ترجمہ فلسفہ بھی کیا جاسکتا ہے لیکن جو لوگ فلسفہ یعنی استدلال عقلی سے ”حقیقت“ کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو آخر میں اللہ یعنی ایک واجب الوجود کو مان لیتے ہیں اور دوسرے وہ جو اللہ سے منکر ہو جاتے ہیں اور صرف مادہ ہی کو ازلی ابدی تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن میں لفظ ”حکمت“ فلسفہ کے معنی میں ہرگز نہیں آیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم ﷺ کے ذریعہ اپنے بندوں کو ایسی تعلیم ہرگز نہیں دے سکتا جس سے لوگ منکر بھی ہو سکیں لہذا حکمت کے معنی سوائے اس علم کے اور کچھ نہیں جس کو تصوف کہا جاتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعلیم خفیہ طور پر کیوں دی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعلیم خفیہ طور پر ہرگز نہیں دی جاتی بلکہ صرف خاص خاص لوگوں کو دی جاتی ہے، عوام کو نہیں اور اس کی وجہ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے، یہ ہے کہ اس علم کی طلب اور اس کے حصول کی استعداد صرف خواص میں ہوتی ہے، عوام میں نہ اس کی طلب ہوتی ہے نہ ان کی عقل میں یہ باتیں آ سکتی ہیں۔ یہ علم لطائف غیبی اور کوائف باطنی سے متعلق ہے جو حواس ظاہری سے معلوم و متحقق نہیں ہو سکتے اس لئے ان کا اظہار الفاظ میں ممکن نہیں، صرف کر کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ کوائف و حقائق روحانی کا بیان تو بڑی بات ہے جو ماڈی اشیاء ہم دن رات دیکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ مثلاً سفید، سرخ، نیلا، پیلا یا کسی اور قسم کا رنگ ہرگز الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا صرف سامنے رکھ کر دکھایا جاسکتا ہے یا مثال دے کر بیان کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کی خوشبو یا بدبو ہرگز الفاظ میں بیان نہیں کی جاسکتی صرف سنکھا کر بتائی جاسکتی ہے۔ کیا کوئی بڑے سے بڑا انشاء پر داز گلاب کی خوشبو کو الفاظ میں اس طرح بیان کر سکتا ہے کہ جس نے کبھی گلاب نہ سونکھا ہو اس کی ناک میں گلاب کی خوشبو آئے لگے۔

مختصر یہ کہ لطائف غیبی اور کوائف و حقائق روحانی کو الفاظ میں بیان کرنے سے عوام میں سخت غلطیوں کا پیدا ہونا یقینی ہے اس لئے یہ تعلیم صرف خواص ہی کو دی گئی۔ عوام نے اس پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تعلیم خفیہ ہے۔ ہمارے اس بیان کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب سے سچے اولیاء اللہ، تعلیم یافتہ متصوفین یا نااہل صوفیوں نے ان باتوں کو بیان کرنا یا کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا، اسی دن سے عوام کے عقائد خراب اور

اعمالِ مسخ ہونے لگے اور ملتِ اسلامیہ کو بجائے فائدے کے سخت نقصان پہنچا۔ مثلاً حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسئلہ وحدت الوجود یعنی ہمد اوست کے مسئلہ کو فتوحاتِ مکیہ اور فصوص الحکم میں تحریر کر دیا تو اسی وقت سے عوام میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ ہر چیز خدا ہے اور جب بعد کی نسلوں کے دماغ میں یہ خیال مرتب ہو گیا تو خدا کا خوف جاتا رہا، گناہوں پر جسارت پیدا ہوئی، تو حیدِ خالص کی قوت جو بنیاد تھی تمام ترقی کی، منہدم ہو گئی، حدودِ شرعیہ تار عنکبوت کی طرح توڑ ڈالی گئیں اور نوبت بد اعمالیوں اور کفر و الحاد تک جا پہنچی۔ مزید برآں یہ کہ ان بد اعمالیوں کے عامل اور تلقینِ کفر و الحاد کے قائل چونکہ صوفی اور ولی سمجھے جاتے تھے اس لئے عوام کا ان عقائد باطلہ کو مان کر صحیح اسلام سے منہ پھیر لینا کون سی تعجب کی بات تھی؟

ایک طرف تو یہ لوگ تھے دوسری طرف کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو ان باتوں سے متفر ہو کر سرے سے روحانیت ہی کے منکر ہو گئے اور بجاطور پر ہو گئے۔ اگر یہ لوگ ایسا نہ کرتے اور علمائے ظاہر کی تعلیم اس قدر عام اور شدید نہ ہوتی تو آج روئے زمین پر جو یہ نام نہاد مسلمان نظر آتے ہیں یہ بھی دکھائی نہ دیتے اور کفر و الحاد، شرک، قبر پرستی، پیر پرستی بلکہ باقاعدہ بت پرستی کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہ گیا ہوتا۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت محی الدین ابن عربی اپنے زمانہ کے بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ تھے لیکن انہوں نے منزل کو مقام اور کیفیت کو حقیقت سمجھ لیا اور آگے جانے کی ہمت نہ کی۔ اس پر غضب یہ کیا کہ جس کیفیت کو حقیقت سمجھے تھے اسے قلم بند کر دیا۔ عوام یا وہ صوفی جو اس مقام تک بھی کبھی نہ پہنچ سکے، جہاں وحدت الوجود کی کیفیت حقیقت بن کر سامنے آتی ہے، ابن عربی کی تحریر کا حقیقی مطلب خاک سمجھتے۔ مگر انہوں نے اس خیال سے کہ ابن عربی بہت بڑے عالم اور ولی اللہ ہیں، ان کی باتوں کے ظاہری مطلب کو صحیح مان لیا اور اپنے جاہل مریدوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ وہ نکلا جو سامنے ہے۔ وحدت الوجود اصل میں ویدانت کا فلسفہ ہے، اسلامی تو حید سے اسے دور کا واسطہ بھی نہیں۔ ہندوؤں کے رشی اور منی روحانی ترقی کر کے جس آخری نقطہ تک پہنچے وہ یہی مقام تھا جہاں وحدت الوجود کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ انہوں نے اسی کو حقیقت اور انہما تصور کیا اور اسی پر اپنے فلسفے کی بنیاد رکھی۔ حالانکہ حقیقت کبریٰ یعنی ذاتِ بحت کی وہ حقیقت جہاں کوئی صفت موجود نہیں اس مقام سے کہیں آگے ہے جہاں وحدت الوجود کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور یہی ”حکمتِ اسلامی“ کی فضیلت ہے کہ مسلمان اولیاء وہاں پہنچتے ہیں جہاں دوسرے ادیان کا کوئی بزرگ بھی نہ پہنچ سکا اور وہیں پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ ”توحیدِ خالص“ کیا ہے۔ وحدت الوجود کا مفصل بیان آگے کیا جائے گا۔

۱۔ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی ولی اللہ خواہ کتنا ہی بڑا ہو اگر ایسی بات کہے جو وحی یعنی قرآن کے خلاف ہو تو اس بات کو ماننے سے فوراً انکار کر دینا چاہیے لیکن یہ بھی کسی طرح جائز نہیں کہ ایسے اولیاء کی شان میں گستاخی کی جائے یا نازیبا اور ناشائستہ الفاظ ان کے لئے استعمال کئے جائیں۔ ایسے موقع پر یقین کر لینا چاہیے کہ جو کچھ اس بزرگ نے سمجھا یا دیکھا ہے قابلِ فہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکا۔

۲۔ اسی طرح ان نام نہاد صوفیوں کا ایک اور عقیدہ ہے جو عوام میں بے حد سرایت کر گیا ہے۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت و حقیقت اور شے۔ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ بہت سے اولیاء اللہ ایک ایسے مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں نہ تو عبادتِ ظاہری کی ضرورت رہتی ہے نہ کسی گناہ کا عذاب ہوتا ہے اور نعوذ باللہ یہی تعلیم تھی جو رسول اللہ ﷺ خفیہ طور پر دیا کرتے تھے۔ یعنی حضور ﷺ کا ظاہر کچھ اور تھا اور باطن کچھ اور۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ حضور ﷺ کی ذات اقدس اور آپ ﷺ کی دیانت و صداقت پر اس سے بڑا بہتان اور کیا ہو سکتا ہے۔ خیال تو کیجئے جس قوم کا حصہ کثیر اپنے ہادی کی بابت یہ ذلیل عقیدہ رکھتا ہو وہ قوم ہتہا ویر باد اور رسوا نہ ہوتو اور کیا ہو۔ دراصل مسلمانوں میں جھوٹ اور ریا کاری عام ہونے کی سب سے بڑی نفسیاتی وجہ یہی یہ عقیدہ ہے۔ جب وہ یہ یقین رکھتے ہوں کہ نعوذ باللہ خود رسول اللہ ﷺ کا ظاہر کچھ تھا اور باطن کچھ تو وہ خود ایسا کیوں نہ کریں گے۔ ”یہ لوگ مانتے اور کرتے کچھ ہیں مگر بتاتے اور کہتے کچھ اور۔“ اس بات سے ان کے کردار کی فوایدیت ختم اور جذبہ صداقت فنا ہو کر کذب و ریا کاری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم نے بے شمار جاہل صوفیوں یا بالفاظِ صحیح تصوف کے جھوٹے دعویداروں کو ایسی باتیں کہتے ہوئے بگوش خود سنا ہے۔ ایسے فقیر تو ہر جگہ بے شمار ملیں گے جو نماز نہیں پڑھتے، بھنگ پیتے، چرس کا دم لگاتے اور ان کے علاوہ اور بہت سی باتیں خلاف شرع کرتے ہیں لیکن ہم نے ایک ایسے پیر صاحب کو بھی دیکھا ہے جو کسی مرید کو بیعت کرتے وقت اس سے یہ عہد لیتے تھے کہ ”میں نماز کبھی نہیں پڑھوں گا۔“ لطف یہ ہے کہ باوجود اس کے لوگ ان کو بہت بڑا ولی اللہ مانتے تھے اور ایک دنیا میں ان کی کرامتوں کی دھوم تھی۔ اب فرمائیے اس کے بعد باقی ہی کیا رہتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ شریعت میں بنیادی چیز عقائد ہیں اور وہ سب کے سب غیب سے متعلق ہیں۔ ان غیبی حقائق کی معرفت حاصل کرنے کے جو طریقے سرکارِ دو عالم ﷺ نے تلقین فرمائے ہیں ان کا نام طریقت (یعنی راستہ) ہے اور ان پر عمل کرنے کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا نام حقیقت ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ شریعت، طریقت اور حقیقت ایک دوسرے کے خلاف یا متضاد کیسے ہو گئیں۔

حکمت

جن طریقوں سے حضور سرور کائنات ﷺ نے اپنے خاص خاص صحابیوں کو حکمت کی تعلیم دی وہ اسقدر سادہ، آسان اور سہل العمل ہیں جیسا کہ خود دین اسلام۔ نہ ان میں بھوک اور پیاس سے نفس کو ہلاک کرنا ہے نہ متواتر روزے رکھنا یا فاقے کرنا، نہ ہندوؤں کی طرح ترک دنیا کر کے جنگلوں اور خانقاہوں میں گوشہ نشین ہونا، نہ صوف کے کپڑے پہننا یا ننگا رہنا، نہ بدن کے بعض اعضاء کو سکھا لینا نہ جس دم کرنا یا نماز معکوس پڑھنا، یعنی اُلٹے لٹک کر عبادت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ باوجود اس کے یہ طریقے دوسری تمام قوموں کے طریقوں سے کہیں زیادہ موثر ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے برسوں کا راستہ مہینوں اور مہینوں کا سلوک دنوں میں طے ہوتا ہے اور وہ روحانی قوت اور دولت سردی حاصل ہوتی ہے جو دوسرے طریقوں سے کسی طرح بھی حاصل نہیں ہو سکتی یعنی قرب اور مشاہدہ ذات باری تعالیٰ۔ اس سے زیادہ اسلام کی فضیلت کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے۔ ان طریقوں کا ذکر ہم سلوک کے بیان میں کریں گے۔ اس سے پہلے دو اور باتوں کا بیان کر دینا ضروری ہے۔ یہ دو باتیں ہیں طلب اور بیعت۔ ان کا مفصل حال سینے۔

طلب صادق

یہ ہے کہ طالب کے دل میں ایسی بے چینی ہو کہ نہ کھانے پینے میں لذت آئے نہ سونے میں نہ کسی اور شغل میں۔ ہر وقت یہ خواہش قلب و ذہن پر مسلط رہے کہ گوہر مقصود ہاتھ آئے اور کوئی ایسا استاد ملے جو حکمت سکھائے۔ یہ طلب وہی ہوتی ہے لیکن بظاہر اس کے پیدا ہونے کے اسباب یہ ہوتے ہیں۔

۱۔ ایسے لوگوں کی صحبت جہاں اللہ، رسول اور بزرگوں کا ذکر ہوتا رہتا ہو۔

۲۔ بزرگوں کی کرامتوں کے حالات سننا۔

۳۔ سیر و سلوک کی کتابیں پڑھنا۔

۴۔ کسی سچے ولی کی صحبت میسر آجانا۔

۵۔ کسی بزرگ کی کوئی کرامت خود دیکھنا۔

یہ چند باتیں جتنی زیادہ میسر آئیں گی اتنی ہی طلب زیادہ ہوگی۔

یہ سچ ہے کہ عوام کے لئے صرف شریعت ہی ہے۔ ان کو طریقت یا حقیقت کی پیچیدہ راہوں میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خاصانِ خدا میں شامل ہونے یا کامل ہو جانے کے بعد شریعت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ شریعت کا پابند ”مسلمان“ کہلاتا ہے اور جب تک کوئی شخص مسلمان نہ بن جائے مومن یا مومن کامل کیسے بن سکتا ہے۔ شریعتِ ملت کے خواص اور عوام کا قانونِ زندگی ہے۔ یہی ملت کا سواوا عظیم ہیں۔ اگر یہ شریعت کے پابند یعنی پکے مسلمان نہ ہوں تو مٹھی بھر اولیاء اللہ کر ہی کیا سکتے ہیں۔ اس لئے سب سے پہلے اور سب سے آخر ہر حالت میں ہر شخص کے لئے شریعت کی پابندی لازم ہے۔

شریعت کیا ہے؟ ایک سیدھی سادی راہ، طہارت و پاکیزگی، پانچ وقت کی نماز، رمضان کے روزے، روپیہ ہو تو حج اور زکوٰۃ اور جب تحفظ و بقائے ملت کے لئے ضرورت پڑے تو جہاد۔ اس کے علاوہ قرآن کے بتائے ہوئے اوامر و نواہی پر عمل، اپنے عزیز و اقارب اور اہل دنیا کے ساتھ تمام معاملات میں وہ سلوک جو اللہ اور رسول ﷺ نے بتایا ہے۔ شریعت کی غایت کیا ہے؟ یہ کہ مسلم عوام دنیا میں عزت و شرافت اور امن و امان کی زندگی بسر کرنا سیکھیں، تمدن میں ترقی کریں اور اسلامی تعلیم و تہذیب دنیا بھر میں پھیلائیں اور مرنے کے بعد جنت میں جائیں۔ اب غور کیجئے کہ کیا یہ باتیں کچھ کم و قیع اور کچھ کم ضروری ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم ان پر تو پورا عمل کرتے نہیں، طریقت و معرفت حاصل کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تو ملتا نہیں دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تصوف کی جھوٹی سچی کچھ باتیں جو کان میں پڑ جاتی ہیں ان کو ذریعہ معاش بنا لیا جاتا ہے اور عوام کا ایمان خراب کیا جاتا ہے۔

اب ہم حکمتِ قرآن کا بیان کرتے ہیں لیکن آئندہ اس کتاب میں تصوف کی بجائے حکمت و عرفان اور صوفی کی بجائے سالک و عارف وغیرہ جیسی اصطلاحیں استعمال کی جائیں گی کیونکہ تصوف اس زمانے میں جس قدر بدنام ہو چکا ہے اس کے پیش نظر یہ لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں معلوم ہوتا۔

====☆☆☆☆====

بیعت یا شاگردی

جب طلب پختہ ہو جائے تو ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے بزرگ کی جو حکمت سکھائے۔ ایسے بزرگ پہلے زمانے میں بھی مشکل سے ملتے تھے، آج کل تو بہت ہی کمیاب ہیں اور ایک نا تجربہ کار طالب کے لئے سچے اور جھوٹے کی تمیز کرنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ اس لئے ہم مرشد کے انتخاب کا طریقہ بتاتے ہیں۔

جب تم کسی بزرگ کا ذکر سنو تو تکتے چینی، عیب جوئی یا آزمائش کے خیال سے نہیں بلکہ ارادت اور ادب کے ساتھ ان کے پاس جاؤ اور اکثر جانتے رہو اور یہ دیکھو کہ ان کی مجلس میں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ثقہ، سنجیدہ اور تعلیم یافتہ یا بازاری اور جاہل۔ یہ بھی دیکھو کہ ان بزرگ کا اخلاق کیسا ہے، ہنس مکھ اور خوش مزاج ہیں یا درشت مزاج اور تند خو؟ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ پرازم علم و حکمت یا محض روایات و حکایات ہی پر مدار تفریر ہے۔ شرع کے پابند ہیں یا حد و شرع سے آزاد۔ گالیاں تو نہیں دیتے۔ مریدوں سے سجدے تو نہیں کراتے۔ یہ بھی دیکھو کہ ان کے مریدوں میں بھی کوئی صاحبِ حال اور صاحبِ دل ہے یا نہیں۔ یہ بھی غور کرو کہ ان کی صحبت میں دل دنیوی تفکرات اور خواہشات سے ہٹ کر اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا اور ایک قسم کا سرور آمیز سکون حاصل ہوتا ہے یا نہیں۔

الغرض ان تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان کی مجلس میں پاکیزہ لوگ آتے ہیں، وہ خود ہنس مکھ، خوش طبع اور عالم آدمی ہیں، شرع کے پابند ہیں، بافیض ہیں، ان کی صحبت میں خیالات دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں اور تمہارا دل ان کی طرف مائل ہو گیا ہے تو باقاعدہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہو اور جب کچھ عرصہ بعد ذوق و شوق کا غلبہ ہو جائے، قلب خود بخود اللہ کو یاد کرنے لگے، برائیوں کو دل ناپسند کرے اور محاسن کی طرف رغبت پیدا ہو جائے تب بیعت ہو جاؤ۔ یاد رکھو کہ بزرگوں کی پرکھ ان کی کرامات سے ہرگز نہیں کرنی چاہئے کیونکہ کرامتیں یعنی خوارقِ عادت تو غیر اولیاء اللہ سے بھی اس قدر زیادہ سرزد ہوتی ہیں کہ طالب دھوکا کھا جاتا ہے۔

بہت سے بزرگ بیعت نہیں کرتے بغیر بیعت ہی فیض پہنچاتے رہتے ہیں، ان سے پورا فیض اٹھانا چاہئے لیکن سلوک طے کرنے کے لئے کسی نہ کسی کامل بزرگ سے بیعت ہونا ضروری ہے۔ اس طرح اُس سلسلے کے جتنے بزرگ گزرے ہیں ان میں اکثر سے نسبت روحانی قائم ہو جاتی ہے جو روحانی ترقی کے لئے بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو بیعت یا پیری مریدی کا سرے سے قائل ہی نہیں ہے۔ اس میں

کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں اور اچھے مسلمان ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ کسی کے مرید ہوں۔ بیعت فرض نہیں ہے لیکن جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لئے شرعی جواز کے متلاشی ہیں ان کی معلومات کے لئے یہ عرض کر دینا مناسب ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے لوگوں کو مختلف اغراض و مقاصد کے لئے بیعت فرمایا ہے اور قرآن میں اس کا ذکر یوں آیا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۗ يَسْأَلُ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَتَ فَاِنَّمَا يَنْكُثْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (سورہ فتح: ۱۰)

ترجمہ: ”یا رسول اللہ ﷺ! بلاشبہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جو اس عہد سے پھرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور جو اس عہد کو نبھاتا ہے جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔“

اس سے ثابت ہوا کہ بیعت جائز ہے اور رسول اللہ ﷺ کے بعد وہ لوگ بھی بیعت لے سکتے ہیں جو بجا طور پر نائب رسول ﷺ ہیں۔ بیعت کیا ہے؟ یہ ایک عہد ہے اللہ کے ساتھ جو کسی بزرگ کو گواہ بنا کر یا رسم کے مطابق ہاتھ دے کر کیا جاتا ہے کہ میں فلاں فلاں معائب سے مجتنب رہوں گا اور فلاں فلاں محاسن پر عمل کروں گا۔ علاوہ ازیں قرآن میں آیا ہے۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتِغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ.....“ (المائدہ: آیت ۳۵)

”یعنی اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اور اللہ کی طرف کسی کو وسیلہ بناؤ۔“

مخالفین بیعت کا کہنا ہے کہ یہاں وسیلہ سے مراد قرآن ہے لیکن وہ یہ غور نہیں کرتے کہ اس آیت کے پہلے نکلنے میں جو حکم ہے کہ تقویٰ اختیار کرو اس کے معنی کیا ہیں۔ تقویٰ کے معنی بھی تو قرآن کی تعلیم پر کما حقہ عمل کرنے کے ہیں۔ اس لئے آیت کے دوسرے نکلنے میں پھر وہی معنی لینا ایک ایسی تکرار زائد ہے جو قرآن کی فصاحت کے خلاف ہے۔ ایسی بھونڈی تکرار تو کوئی معمولی ادیب بھی نہیں کرتا۔ اس لئے وسیلہ سے مراد سوائے پیر کامل کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تیسری دلیل بیعت کے جواز میں یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے بعد سے اب تک جو ہزار ہا اولیاء کرام گزرے ہیں ان سب نے بیعت کی اور بیعت لی ہے۔ مثلاً حضرت حسن بصریؒ، حضرت جنید بغدادیؒ، حضرت بایزید بسطامیؒ، حضرت شمس تبریزیؒ، حضرت علی ہجویریؒ، حضرت محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ، حضرت خواجہ عثمان ہارونیؒ، حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ، حضرت قطب الدین بختیار کاکیؒ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکرؒ، حضرت نظام الدین اولیاءؒ، حضرت صابر کلیریؒ، حضرت نصیر الدین محمود

چراغ دہلوی، حضرت بہاؤ الدین نقشبند، حضرت خواجہ باقی باللہ، اور حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی وغیرہما۔ تو کیا یہ سب نعوذ باللہ غلط روا کر گئے تھے؟ یہی تو وہ بزرگ ہستیاں ہیں جنہوں نے چار دانگ عالم میں اسلام کا نور پھیلا یا، لاکھوں آدمیوں کو بیعت کر کے ان کا اخلاق درست کیا اور ہزاروں کو ولی اللہ بنایا۔ کیا آج کوئی شخص یہ جسارت کر سکتا ہے کہ ان کی بزرگی اور صداقت پر انگلی اٹھائے۔

اب ہم یہ بتائیں گے کہ یہ بیعت یا بالفاظ عوام ”پیری مریدی“ کیا چیز ہے، مرید کس کو ہونا چاہیے اور کس لئے ہونا چاہیے۔ انفس کہ فی زمانہ نماز روزے کی طرح پیری مریدی بھی ایک رسی چیز رہ گئی ہے۔ بہت سے لوگ اس عقیدے سے بیعت ہوتے ہیں کہ خواہ عمر بھر بڑے کام کرتے رہیں، قیامت کے دن پیر صاحب کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے اور بخشے جائیں گے۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیر صاحب کسی کو بھی نہ بخشوا سکیں گے ان کو تو اپنی ہی پڑی ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ کی شفاعت بالکل برحق ہے لیکن شفاعت کے بھروسہ پر جان بوجھ کر نیک اعمال نہ کرنا اور ساری عمر گناہوں اور بدکاری میں صرف کر دینا کہاں کی عقلمندی ہے؟ رسول اللہ ﷺ بھی تو انہی کی شفاعت کریں گے جو شفاعت کے اہل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ہماری جناب میں کوئی بھی کسی کی شفاعت نہ کر سکے گا مگر وہ جن کو ہم خود اذن دیں۔ ظاہر ہے کہ رسولوں اور علی الخصوص ہمارے رسول ﷺ سے بڑھ کر کون اس اذن الہی کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اس لئے شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہوئے بھی نیک اعمالی کو ہرگز ہاتھ سے نہ دینے جانا چاہیے۔

اکثر لوگ دنیاوی برکتوں کے لئے مرید ہوتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ پیر صاحب نہ کسی کو دولت بخش سکتے ہیں، نہ اولاد عطا فرما سکتے ہیں، نہ کسی کی تقدیر بدل سکتے ہیں، نہ مقدمہ جتا سکتے ہیں، نہ آنے والی مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں۔ سورۃ الحدید میں ہے کہ

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا
”کوئی مصیبت نہیں آتی جو اللہ نے پہلے سے کتاب میں لکھ نہ دی ہو۔“ (سورۃ الحدید: آیت ۲۲)

اب بتائیے کہ اللہ کے لکھے کو پیر صاحب کس طرح بدل یا روک سکتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے دعا کریں۔ ایسے عقیدے ہرگز نہیں رکھنے چاہئیں، یہ سب شرک ہیں۔

مسلمانو! یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ تمہاری انفرادی اور قومی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے قرآن کے خلاف عقیدے گھڑ لئے ہیں اور ان پر قائم ہو کر قرآن اور اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج تم قرآن اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ، کل تم کو وہی عزت پھر حاصل ہو جائے گی جو قرون اولیٰ میں تھی۔

اکثر لوگ اس خیال سے بیعت ہوتے ہیں کہ جب بزرگ بن جائیں گے تو عیش کریں گے، مریدوں کا حلقہ ہوگا، نذرانے ملیں گے، دولت دنیا کی افراط ہوگی یا یہ کہ منیٰ کو پھونک مار کر سونا بنالیں گے، موت اور زندگی پر اختیار حاصل ہو جائے گا اور عزت ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ فقر اور ولایت تو محض عبودیت اور بندگی ہے، کبریائی نہیں ہے اور بزرگی کے ذریعہ حصول مراتب و دولت کا خیال تو محض دنیا داری ہے، خدا کی محبت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔

آج کل خاندانی اور ورثاتی پیری مریدی بھی عام ہے۔ یعنی کسی شخص کے باپ دادا اگر کسی بزرگ سے بیعت ہوئے تھے تو وہ شخص ان بزرگ کے بیٹے یا پوتے کا ضرور مرید ہوگا اور اس کی اولاد اس کے پیر صاحب کی اولاد سے بیعت ہوگی اور ہمیشہ پونہی ہوتا رہے گا۔ یہ طریقہ بھی پیری مریدی کا نہایت ہی غلط اور تباہی پھیلانے والا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ کبھی کوئی واقعی بزرگ اور ولی اللہ کسی خاندان میں پیدا ہوئے اور اپنی بزرگی کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے اور پوتے گدی نشین ہوئے اور یہ گدی اسی طرح وراثتاً آئندہ نسلوں میں منتقل ہوتی رہی اور لوگ بھی اسی طرح وراثتاً مرید ہوتے چلے گئے۔ ایسے گدی نشین اور ورثاتی پیروں میں شاذ و نادر ہی کوئی بزرگ ہوتا ہو اور نہ عام طور پر تو یہ پیر محض دنیا دار اور طریقت و حقیقت سے بالکل ہی نابلد ہوتے ہیں۔ خدمت کے لئے بے شمار مرید اور خرچ کرنے کے لئے بے قیاس دولت ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ صرف عیش و عشرت ان کا کام ہوتا ہے اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔

بہت سے پیر عملیات کے زور پر پیری مریدی کرتے ہیں۔ وہ سلوک و طریقت کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ عوام کی جہالت کا یہ حال ہے کہ وہ تعویذ گنڈے کرنے والے عاملوں، نجومیوں، رمالوں، پامسٹوں اور حقیقی بزرگوں کے درمیان کوئی تمیز نہیں کر سکتے اور ہر ایک کو اللہ والا سمجھ کر ان کے مرید اور معتقد ہو جاتے ہیں۔ تو اس قسم کی پیری مریدی نہ صرف بالکل عبث اور بیکار بلکہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ مرید ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کے اخلاق کی اصلاح ہو، صحیح قسم کی عبادت کرنا آئے، ایمان کامل پیدا ہو، عالم روحانی کا علم، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قسمت میں ہو تو رویت کا شرف جیتنے جی حاصل ہو جائے۔

====☆☆☆☆====

پاسٹوں وغیرہ کا ہے اور اس پر یقین کرنا بھی منع ہے۔ سورۃ الانعام آیت ۵۰ میں اللہ تعالیٰ سرور دو عالم ﷺ کو خطاب کرتا ہے۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ

”آپ تمہاری باتیں کہ ہم نے کبھی اپنے پاس اللہ کے خزانے رکھنے کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی غیب دان ہونے کا اور نہ ہی کبھی یہ فرمایا کہ ہم فرشتہ ہیں۔“

جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو بھی غیب کا علم نہیں تو تم اولیاء اللہ سے کیوں یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں مستقبل کا حال بتائیں۔ اولیاء اللہ کے پاس تعویذ گنڈوں کے لئے بھی نہیں جانا چاہئے یہ کام عالموں کا ہے۔ انبیاء کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اولیاء کرام کا نہیں کیونکہ وہ کاہن اور نجومی نہیں ہوتے۔ اولیاء اللہ تعویذ گنڈے اور جھوٹی سچی پیشین گوئیوں کے دعوے نہیں کرتے صرف دُعا کرتے ہیں۔ ان کے پاس دُعا کرانے اور رُشد و ہدایت حاصل کرنے جاؤ۔ دُعا کرانے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ کسی بزرگ کے سامنے جا کر لمبی چوڑی داستانیں اور پچھلی تاریخ (History) اور قصے جیسے کہ مقدمات میں دکلا یا بیماریوں میں ڈاکٹر اور حکیموں کے سامنے بیان کرتے ہو ہرگز نہ کرو۔ بلکہ صرف دو الفاظ میں کہو کہ میں فلاں امر کے لئے دُعا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو کہ دنیا داری کے لمبے چوڑے قصے سننے سے شیخ کا دھیان اللہ کی طرف سے ہٹ جاتا ہے اور اس کی طبیعت منغض ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں صحیح رجوعات کے ساتھ دُعا دل سے نہیں نکلتی۔ الغرض شیخ کی مجلس میں کوئی حرکت ایسی نہ کرو جس سے اس کی طبیعت مکر ہو جائے۔ اگر تمہاری باتوں سے اس کی طبیعت خوش ہوگی اور کیف پیدا ہوگا تو اس حالت میں دُعا بھی مقبول ہوگی۔ اگر کوئی بزرگ تم سے وعدہ کر لے کہ انشاء اللہ تمہارا کام ہو جائے گا تو بار بار اس سے تقاضا مت کرو۔ یاد رکھو وہ تمہارا مقروض نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھار تذکرۃ ادب کے ساتھ یاد دہانی کرادو تو مضائقہ نہیں۔ جس مقصد کے لئے دُعا کرائی ہے اگر اس میں کامیابی ہو جائے تو تمہارا اخلاقی فرض ہے کہ بزرگ کو اس کی اطلاع دو اور اللہ اور اس بزرگ کا شکر یہ ادا کرو۔ سب سے اچھا یہ ہے کہ بزرگوں کی مجلس میں بالکل بے غرض ہو کر صرف پند و نصائح سننے کو جاؤ۔

بزرگوں کو دُعا کے بدلے میں شکرانہ، نذرانہ وغیرہ ادا کرنا جائز نہیں البتہ کبھی کبھی ہدایا یعنی تحفے دیئے جاسکتے ہیں کیونکہ ہدیہ لینا اور دینا شرعاً جائز ہے۔ اس سے محبت بڑھتی اور روابط مضبوط ہوتے ہیں لیکن یاد رکھو کہ ہدیہ کسی کام کی اجرت میں نہیں دیا جاتا۔ یہ محض خلوص و محبت کی نشانی کے طور پر دینا چاہئے۔ جو بزرگ محتاج

آداب سلوک

اب ہم پیری اور مریدی کے کچھ آداب بیان کرتے ہیں۔

جب تم کسی مرشد کا انتخاب کر کے اس سے بیعت ہو جاؤ تو پھر تمہیں مندرجہ ذیل قواعد پر پوری طرح عمل کرنا چاہئے۔

جب تک بصیرت باطنی پیدا نہ ہو یا تمہارا مرشد اجازت نہ دے، حصول تعلیم یا کسب فیض کے لئے کسی دوسرے بزرگ کے پاس نہ جاؤ۔ اپنے مرشد کو دنیا کے باقی تمام زندہ بزرگوں سے زیادہ کامل سمجھو۔ خدا، رسول، صحابہ اور آئمہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اپنے مرشد سے کرو۔ اس کے احکام اور ہدایات پر آنکھ بند کر کے عمل کرو۔ اگر پیر کا کوئی ارشاد سمجھ میں نہ آئے تو مناسب وقت اور تخیلہ میں نہایت ادب کے ساتھ اس کا مطلب پوچھو۔ شیخ کی مجلس میں ادب سے خاموش بیٹھو۔ خود ہرگز نہ بولو۔ شیخ کو بولنے کا موقع دو اور جو کچھ وہ کہے غور سے سنو اور اس پر عمل کرو۔ یاد رکھو کہ تم بزرگوں کے پاس کچھ سیکھتے جاتے ہو ان کو سکھانے نہیں جاتے۔ جو لوگ بزرگوں کی مجلس میں خود بولتے رہتے ہیں اور ان کو بولنے کا موقع نہیں دیتے وہ نہ صرف بدتمیزی کے مرتکب ہوتے ہیں بلکہ اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اگر شیخ خاموش ہو لیکن مراقبہ یا حالت استغراق میں نہ ہو تو کوئی مناسب سا سوال کر دو تا کہ وعظ و نصیحت اور حکمت و معرفت کا دریا پھر بہنے لگے۔ شیخ سے بحث و مباحثہ کبھی نہ کرو۔ اس کے سامنے حرکات و سکنات میں انتہائی ادب ملحوظ رکھو لیکن خیال رہے کہ معاملہ تعبد کی حد تک نہ پہنچ جائے۔ مثلاً اتنا بھلنا کہ رکوع سے مماثلت پیدا ہو، سجدہ کرنا یا مجلس میں اس طرح بیٹھنا جیسے نماز میں اللہ کے سامنے بیٹھتے ہو ہرگز جائز نہیں لیکن یہ بھی نہیں چاہئے کہ شیخ کی مجلس میں لیٹ جاؤ یا پاؤں پھیلا کر بیٹھو۔

مریدوں کے علاوہ عام لوگ بھی جب کسی بزرگ کی مجلس میں جائیں تو ان کو بھی انہی آداب کا خیال رکھنا چاہئے۔ انہیں چاہئے کہ بزرگوں کی مجلس میں جا کر دنیا کی باتیں ہرگز نہ کریں۔ ان سے غیب کی باتیں ہرگز نہ پوچھیں۔ یہ فقر اور بزرگی کی سب سے بڑی توہین ہے۔ یہ کام بزرگوں کا نہیں بلکہ نجومیوں، رمالوں اور

اور مفلوک الحال ہوں ہدایا کے ذریعہ ان کی خدمت کرنا بہت ثواب کی بات ہے۔ اس طرح وہ دنیا کے بہت سے افکار سے بے نیاز ہو کر وعظ و تلقین سے خلیق خدا کی خدمت اور سکون سے اللہ اللہ کر سکتے ہیں۔ مگر اہل اور نااہل کو ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ ایسے بزرگوں کی مدد کا حکم قرآن میں بھی ہے۔

جس طرح مریدوں اور عوام کے لئے اوپر بتائے ہوئے آداب ضروری ہیں اسی طرح بزرگوں کو بھی مریدوں اور عوام کے ساتھ ملنے وقت چند آداب و قواعد کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثلاً جو لوگ ملنے آئیں ان کو بہت دیر تک ملاقات کے لئے انتظار کی تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ فقیر اور اللہ کے ایک عاجز بندے ہیں کہیں کے گورنر اور ڈپٹی کمشنر نہیں جو لوگوں کو گھنٹوں انتظار میں رکھتے ہیں۔ ملاقات کے لئے ایک وقت مقرر کر دیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ حاضرین سے نہایت محبت و مدارات سے پیش آنا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی بدتمیزی سرزد ہو تو برا نہیں ماننا چاہیے بلکہ خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ کسی کو اس کے عیب صاف صاف بتا کر ڈانٹنا اور برا بھلا کہنا فقیر کی شان کے خلاف ہے بلکہ نصیحت ہمیشہ اشارے اور پردے میں کرنی چاہیے۔ مثلاً کسی شخص میں کوئی عیب ہو تو اس ”عیب کی خرابیاں“ اس شخص کے سامنے بیان کی جائیں، ”خود اس شخص“ کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے۔

أذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ..... (النحل: ۱۲۵)

”لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ۔“

اس کا مطلب ہی یہ ہے۔

بزرگوں کے پاس لوگ اکثر اس وقت آتے ہیں جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ آنے والوں میں اکثر بہت ہی مظلوم، دکھی اور محتاج لوگ ہوتے ہیں۔ وہ خدا جانے دل میں کیا کیا امیدیں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ان کو جھڑکنا اور ان پر ناراض ہونا فقیریوں اور بزرگوں کا کام نہیں، یہ دنیوی حکام کا کام ہے۔ فقیریوں کو اس بات سے ہمیشہ مجتنب رہنا اور وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَوْهُ (والضحیٰ: ۱۰) یعنی (اور سائل کو مت جھڑکو) کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یاد رکھو ”صاحب الغرض مجنون سے“ کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ ان کے دلوں کا زخم اور گہرا ہو جائے۔ ان آنے والوں میں شرابی، زانی، چور، ڈاکو وغیرہ سب ہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ فقراء کا یہ منصب نہیں کہ گناہوں کی وجہ سے ان سے نفرت کریں اور ان کو اپنی بارگاہوں سے دھکے دے کر نکلا دیں۔ فقراء کا فرض تو ان کی اصلاح ہے اور اصلاح صرف پیار، محبت اور باطنی ہمت صرف کرنے سے ہوتی

ہے، مار دھاڑ سے نہیں ہوتی۔ اگر تم ان کو اپنی مجلس میں بیٹھے ہی نہ دو گے تو پھر اصلاح کس طرح ہوگی۔ بزرگوں کو اہل غرض کی تمام جائز باتوں کے لئے دُعا کرنی چاہیے اور ایسا بیٹھا بولنا چاہیے کہ انہیں محسوس ہو کہ کسی نے زخم دل پر مرہم رکھ دیا ہے۔ غیر مذاہب کے لوگ بھی بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ اس قدر حُسنِ خُلق اور محبت سے پیش آنا چاہیے کہ وہ اسلامی اخلاق اور تعلیم قرآن کی عقیدت و محبت دلوں میں لے کر واپس جائیں۔

اب ہم سلوک اور اس کو طے کرنے کے عملی طریقے بیان کرتے ہیں۔

====☆☆☆☆====

سلوک اور اس کے عملی طریقے

رسول اکرم ﷺ نے سلوک طے کرنے کے یہ طریقے بتائے تھے۔

۱۔ چوبیس گھنٹے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بلکہ سوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھنا۔

۲۔ پنج وقتہ نماز حضوری قلب کے ساتھ۔

۳۔ تلاوت قرآن۔

۴۔ نوافل تہجد۔

۵۔ تزکیہ اخلاق۔

ظاہر ہے کہ حضور ﷺ کے زمانہ میں جتنے اعراب مسلمان ہو چکے تھے وہ سب نہ تو ان طریقوں پر عمل کرتے تھے نہ سب کو مرتبہ ایمان حاصل تھا۔ ان کی اکثریت صرف مسلمان تھی لیکن جن لوگوں کو حضور ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل تھا وہ سب مومن تھے۔ ان بزرگوں میں بھی جو کوئی رسول اللہ ﷺ سے جتنا زیادہ تقرب اور محبت رکھتا تھا اس کا ایمان اتنا ہی محکم اور مستحکم تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ملت اسلامیہ دو جماعتوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مومن۔ اب معلوم ہونا چاہیے کہ اعمال و اخلاق کے لحاظ سے تمام مسلمان بھی ایک درجے کے نہیں ہوتے، بہت سے فاسق و فاجر اور بے انتہا گنہگار ہوتے ہیں۔ دوسرے ان سے کم اور پھر ان سے بھی کم و قس علیٰ ہذا اور آخر میں بہت سے لوگ نہایت ہی متقی، پرہیزگار، صالح اور عبادت گزار بھی ہوتے ہیں۔ یہی حالت مومنوں کی بھی ہے۔ معمولی درجے کے مومن، اوسط درجے کے مومن اور آخر میں اعلیٰ درجے کے مومن۔ ایمان کی تعریف رسول اکرم ﷺ نے یہ فرمائی ہے کہ عبادت کرتے وقت تم یہ محسوس کرو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے لیکن اعلیٰ درجے کے ایمان کی تعریف یوں کی ہے کہ جب تم عبادت کر رہے ہو تو یہ محسوس کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ ایمان کا یہ درجہ سب سے بڑا ہے۔ اس درجے کے ایمان کو احسان کہتے ہیں۔ بہر حال مرتبہ ایمان ہو یا مرتبہ احسان، حضور اکرم ﷺ کی زندگی میں یہ مرتبہ آپ کے فیضِ صحبت سے میسر آ جاتا تھا۔

سرکارِ دو عالم ﷺ کی رحلت کے بعد صحابہ کبار کے فیضِ صحبت سے بھی یہ بات میسر ہو جاتی تھی لیکن بعد

میں جتنا بعد حضور ﷺ کے زمانہ سے ہوا یہ فیضِ صحبت کم ہوتا گیا۔ جب عرب کے علاوہ دوسرے ممالک کی پوری آبادیوں نے مذہب اسلام قبول کر لیا، خلافت کی جگہ بادشاہت نے لے لی، دولتِ دنیا کی بہتات اور فسق و فجور کی زیادتی ہوئی، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت دلوں سے جاتی رہی، بادشاہوں اور امیروں میں عیاشی اور بے دینی عام ہو گئی تو اہل اللہ نے ان لوگوں سے الگ ہو کر خانقاہیں آباد کیں اور مختلف گوشوں میں بیٹھ کر حکمت کی تعلیم دینے لگے۔ وہ ایسا کرنے میں حق بجانب اور مجبور تھے۔ ان بزرگوں اور ان کے مریدوں میں خالص عرب عنصر برائے نام ہی رہ گیا تھا۔ زیادہ تر یہ لوگ عجمی اور نو مسلم تھے۔ مثلاً ایرانی، شامی، مصری، ہندوستانی وغیرہ۔

ان تمام قوموں میں پہلے سے اپنا تصوف اور عالم روحانی کا ایک خاص تصوف اور فلسفہ موجود تھا اور اس عالم روحانی کی معرفت حاصل کرنے کے خاص طریقے سینکڑوں سال سے مروج چلے آ رہے تھے۔ مثلاً حلقوں میں ذکر کرنا، رقص و سرود اور ریاضت ہائے شاقہ جیسے کہ یوگ کی مشقیں۔ اس سے بھی کہیں زیادہ جو چیز ان عجمیوں کے تصوف میں تھی وہ کشف و کرامات کے مظاہر تھے۔ یہ تمام باتیں حکمت میں بھی سا لکین کو خود بخود بلا کوشش حاصل ہو جاتی تھیں لیکن ابتداءً اسلام میں جو بزرگ تھے وہ نہ تو کرامتوں کو کوئی خاص وقعت دیتے تھے نہ ان کا اظہار کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایسا کرنے سے توحید اور حق پرستی کے بجائے اشخاص پرستی پیدا ہو جائے گی جو ملت کی تباہی کا باعث ہوگی لیکن زمانہ مابعد کے اولیاء اس پر مجبور ہو گئے کہ تبلیغ اسلام کے لئے غیر مسلم صوفیوں سے بہتر کرامات دکھائیں۔ اسی طرح وہ اس بات پر بھی مجبور ہو گئے کہ ہر عجمی قوم کے رجحانات اور مقتضیات کے مطابق حکمت کے ابتدائی طریقوں میں کچھ تغیر و تبدل ضرور کریں۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ۱۱۰ ہجری میں حضرت حسن بصری نے بصرے میں فلسفہ تصوف کا درس شروع کیا۔ گویا تعلیم حکمت اب دلوں سے نکل کر زبان پر آنے لگی۔ اس کے بعد تیسری صدی ہجری میں حضرت ذوالنون مصری نے علم تصوف کو باقاعدہ مدون کیا۔ گویا ”حال“ اور کوائف باطنی کے لئے اصطلاحات وضع کی گئیں اور یہ علم رفتہ رفتہ کتابی بننے لگا جیسے کسی زبان کے وجود میں آنے کے بعد اس کی گرامر تیار ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ رفتہ رفتہ یہ علم کتابی بننا گیا اور حصول مقصد کے ذرائع اور قواعد میں بھی ترمیم و متنوع اور اختراع و ایجادات ہوتی گئیں اور عجمی رنگ غالب آتا چلا گیا۔ مثلاً ایران

کے مشائخ نے ذکر بصورت حلقہ شروع کیا یعنی سب بزرگ مل کر ایک دائرہ بناتے اور آواز بلند ذکر کرتے اور اگر دوران ذکر میں کسی پر وجد طاری ہوتا تو وہ حلقے کے بیچ میں آ کر حال کھیلتا اور تمام حلقہ اس کے گرد ذکر کرتا یا اشعار پڑھتے ہوئے رقص کرتا یا مثلاً جب خواجہ معین الدین چشتیؒ نے ہندوستان پہنچ کر تبلیغ شروع کی اور دیکھا کہ ہندوؤں کی تمام عبادتوں کا جزو اعظم گانا بجانا اور ان کی روحانیت کا حاصل یوگ کے کرشمے دکھانا ہے تو آپ نے ان کو رجوع کرنے کے لئے سماع یعنی توالی جاری کی نیز یوگ کا مطالعہ کر کے اپنے مریدوں کو سکھایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو جوق در جوق ان کے حلقوں میں شامل اور مسلمان ہونے لگے۔

الخصریہ تبدیلیاں ہوتے ہوتے چار بڑے خاندان قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ وجود میں آئے۔ پھر ان میں بھی بہت سی شاخیں نکل آئیں اور ذکر و فکر کے طریقوں میں تھوڑا بہت تغیر ہوتا رہا۔ یہاں تک تو حالات پھر بھی قابل اطمینان رہے لیکن جب ملحد بادشاہ اکبر نے دین الہی جاری کیا اور اس میں عیسائی، ہندو اور مسلمان تمام مذاہب کے اصولوں، عقیدوں اور رسموں کو مدغم کر دیا تو اس کا یہ اثر ہوا کہ ہندو بھی اپنی توحید کو مسلمانوں کی توحید کے برابر سمجھنے لگے۔ اتنا ہی نہیں خود عام مسلمانوں میں بھی یہی خیال راسخ ہو گیا کہ توحید کا ڈر دیکتا صرف ہمارے ہی خزانہ میں نہیں، دوسرے مذاہب کی تجزیوں میں بھی موجود ہے۔ اس پر غضب یہ ہوا کہ وحدت الوجود کے غلط عقیدے کی وجہ سے چونکہ توحید کا اصلی مفہوم ان کے دماغ سے نکل چکا تھا وہ دوسروں کے خرف ریزوں کو بھی گواہ بیکدانہ ہی سمجھ بیٹھے اور اپنے دین کی فضیلت کا جو یقین ان کے دلوں میں قائم تھا، ضائع ہو گیا۔

حصول حکمت کے جو چار مستند طریقے آج کل رائج ہیں وہ اگرچہ بجنسہ تو وہ نہیں جو حضور سرور کائنات ﷺ نے تعلیم فرمائے تھے لیکن ان میں کچھ خامی بھی نہیں ہے۔ طالبین ان سے پورا استفادہ کر سکتے ہیں بشرطیکہ مرشد کامل ہو۔ یہاں ان طریقوں کو الگ الگ اور مفصل طور پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ سب بہت عام اور مشہور ہیں۔ ہاں موجودہ زمانہ کی ذہنیت اور طالبین کی مصروف زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم نے خود معمولی سی ترمیم کے بعد کچھ طریقے حصول حکمت کے مقرر کئے ہیں جو بفضل تعالیٰ قرآنی اصولوں کے عین مطابق ہیں اور ان کو تجربہ کے بعد مفید اور سہل العمل پایا ہے۔ اس لئے ہم یہ طریقے بیان کرتے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

ذکر

۱۔ پاس انفاس

۲۔ نفی اثبات

۳۔ نماز فرض اور نوافل

۴۔ تلاوت قرآن

مجاہدہ

۵۔ ترک ماسوی اللہ

۶۔ تسلیم و رضا

تزکیہ اخلاق

۷۔ غصہ اور نفرت کو نفی کرنا

۸۔ عالمگیر محبت اور صداقت یعنی حق کو اختیار کرنا۔

عرفان

۹۔ تفکر (تفکر بالمشاہدہ، تفکر بالمراقبہ)

مقصود اعظم

۱۰۔ خدمت خلق

اب ان کی تفصیل سنئے۔

۱۔ پاس انفاس

پاس انفاس کے لفظی معنی ہیں سانسوں کا لحاظ رکھنا۔ یعنی کوئی سانس اللہ کی یاد سے خالی نہ رہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر سانس جو اندر جائے یا باہر آئے اس سے لفظ اللہ اس طرح کہو کہ دل کہے اور کان سنیں۔ جلدی جلدی اللہ اللہ کہنے کے خیال سے سانس جلدی جلدی نہ لو۔ سانس کی لمبائی قدرتی رہے۔ لفظ اللہ کو سانس کے مطابق لمبا کر لو۔ اندر جانے والے سانس کے ساتھ جو ”اللہ“ کہا جائے وہ دل سے شروع ہو کر اُم الدماغ

میں ختم ہو اور باہر نکلنے والا سانس اُمّ الدماغ سے شروع ہو کر دل میں گھس جائے۔ اس طرح اللہ اللہ کہتے وقت یہ محسوس کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ تمہارے اندر، باہر، اوپر، نیچے، داہنے، بائیں ارد گرد کے مادے اور خلاء میں ہر جگہ موجود ہے اور خواہش پیدا کرو کہ وہ نظر آ جائے۔ یہ خواہش ہی محبت الہی کی ابتداء ہے۔ اس کو بڑھاتے رہو۔ ظاہر ہے کہ یہ ذکر صرف فرصت کے اوقات میں ہو سکتا ہے کام کاج کی مصروفیت میں نہیں ہو سکتا۔ اس لئے یہی کوشش کرو کہ فرصت کا کوئی لمحہ اس سے خالی نہ رہنے پائے۔ تم دیکھو گے کہ کچھ عرصہ بعد کام اور بات چیت کرتے وقت بلکہ سوتے میں بھی یہ ذکر خود بخود جاری رہے گا اور کوئی دقت پیش نہ آئے گی۔

اس ذکر کی غرض و غایت صرف یہ ہے کہ اللہ کی یاد مستقل دل میں بیٹھ جائے۔ رسول اکرم ﷺ کے زمانہ میں ذکر پاس انفاس نہیں کرایا جاتا تھا کیونکہ اللہ کی مستقل یاد حضور ﷺ کی صحبت سے صرف چند دن میں حاصل ہو جاتی تھی۔

اسم ذات یعنی اللہ اللہ کے سوائے اور اسماء کا ذکر بھی پاس انفاس کے لئے بتایا جاتا ہے۔ مگر ان اسماء کا انتخاب صرف مرشد ہی کر سکتا ہے، طالب خود مقرر نہیں کر سکتا۔

۲۔ نفی اثبات

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ذکر کو نفی اثبات کہتے ہیں۔ کیونکہ لا اللہ کے معنی ہیں کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ نفی ہوئی اور اِلَّا اللہ کے معنی ہیں ”لیکن اللہ“ یہ اثبات ہوا۔ طریق حکمت میں یہ ذکر کرتے ہوئے لَا إِلَهَ کہتے وقت نفی کی مشق کے واسطے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز بھی موجود نہیں۔ طریقہ اس کا یوں ہے کہ تہجد، فجر مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد دُعا سے فارغ ہو کر اسی طرح دوزانو بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے چند مرتبہ درود شریف رسول اکرم ﷺ کو یاد کرتے ہوئے پڑھو۔ پھر دماغ کو تمام دنیاوی وسوسوں و خیالات سے پاک کرو۔ اس کے بعد ناف کے ایک انگشت نیچے سے لفظ ”لا“ شروع کرو۔ اس وقت گردن جھک جائے گی۔ اب گردن اوپر اٹھاتے جاؤ اور ”لا“ کو کھینچتے ہوئے بالکل سیدھا اوپر کی طرف لاتے جاؤ یہاں تک کہ گردن تن جائے اور سر کسی قدر اوپر اٹھ جائے۔ اس طرح لفظ ”لا“ کو ام الدماغ میں ختم کرو۔ اب گردن کو داہنی طرف موڑو یہاں تک کہ سر داہنے کندھے کی طرف ڈھلک جائے۔ اسی کے ساتھ لفظ ”اللہ“ کہو اور خیال کرو کہ کوئی شے اور کوئی ہستی موجود نہیں ہے یعنی دماغ میں کوئی بھی خیال باقی نہ رہے بالکل خالی ہو جائے۔ چار پانچ سیکنڈ ٹھہرو

اور اگر کوئی خیال باقی ہے تو اس کو نفی کرو۔ پھر گردن اور سر کو بائیں طرف قلب کی جانب جھکاتے ہوئے جھٹکے اور پوری طاقت سے اِلَّا اللہ کی ضرب دل پر لگاؤ اور فوراً یہ خیال کرو کہ صرف اللہ ہی اللہ موجود ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ یعنی اب دماغ میں صرف اللہ کا خیال باقی رہے۔ دل بائیں چھاتی سے دو انگشت نیچے واقع ہے اور اس کی صورت صنوبر کی سی ہے۔ یعنی ایسی پشت۔ اِلَّا اللہ کی ضرب دل کی پشت پر لگانی چاہئے۔ یہ ذکر کرتے ہوئے جب تھک جاؤ یا سانس پھول جائے تو اِلَّا اللہ کے بعد مُحَمَّد رَسُوْلُ اللہ کہہ کر کلمہ پورا کر لیا کرو اور رسول ﷺ پر درود بھیجو۔ یہ ذکر ایک تسبیح سے لے کر دس تسبیح تک کرنا چاہئے۔ جتنی طاقت ہو اور جتنی دیر دل لگے اور یکسوئی قائم رہے۔ جب دل سیر ہو جائے تو ذکر بند کر دو۔

اگر تسبیح یا انگلیوں پر شمار کرنے میں دھیان بٹے تو ایک دفعہ گھڑی رکھ کر دیکھ لو کہ ایک تسبیح کتنی دیر میں ہوتی ہے پھر وقت کے لحاظ سے کرتے رہو۔

بلندی آواز کے لحاظ سے یہ ذکر تین طرح ہو سکتا ہے۔ بہت بلند آواز سے، صرف اتنی آواز سے جو کمرے سے باہر نہ نکلے اور سوائے تمہارے دوسرے نہ پھر بالکل دل ہی دل میں۔ ابتدا میں بلند آواز سے ذکر کرنا بہتر ہے کیونکہ اس طرح اور آوازیں کانوں میں نہیں آتیں اور دھیان نہیں بٹتا لیکن اگر کسی ساتھی یا پڑوسی کے آرام میں خلل آتا ہو تو پھر آہستہ آواز ہی سے کرنا چاہئے۔ یہ ضروری ہے کہ ابتدا میں برس چھ ماہ یہ ذکر ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر کے کیا جائے۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں یہ ذکر بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا بلکہ اصحاب رسول ﷺ چلتے پھرتے ہر وقت دل میں کلمہ پڑھتے رہتے تھے۔ غایت اس ذکر کی یہ ہے کہ قلب جاگ اٹھے، اس میں حرارت اور سوز و گداز پیدا ہو اور نفی اثبات کی مشق سے دماغ آئندہ فنا و بقا کی کیفیات کو محسوس کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔ دل کے مرکز میں ایک سوراخ ہے جو ایٹم سے بھی چھوٹا ہے۔ صحیح قسم کے ذکر سے وہ سوراخ کھل جاتا ہے اور اس کے کھلتے ہی انسان کا تعلق عالم روحانی سے قائم ہو جاتا ہے۔ یہی کشف و مشاہدہ کی ابتداء ہے۔

اس ذکر کے بعد ذکر کو چاہئے کہ تین مرتبہ سورۃ الحمد معنی سمجھ کر پڑھے اور اس کے بعد مادری زبان میں کوئی مناجات یا نعت اپنے ذوق کے مطابق پوری یکسوئی سے پڑھے۔ اس کے بعد کم از کم ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ کر اپنے فائز المراد ہونے کی دُعا کرے۔ پھر اپنے ماں باپ، عزیز واقارب، پیر بھائیوں اور مرشد کے لئے دُعا خیر کرے۔ پھر سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔

نماز پنج وقتہ جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ اگر ملازمت و روزگار کے حالات کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو تنہا ہی پڑھ لو، قضا نہ کرنی چاہیے۔ نماز ایسی ہو کہ نیت باندھنے سے سلام پھیرنے تک برابر اللہ ہی یاد رہے۔ یہ حالت صرف انہیں لوگوں کو میسر آ سکتی ہے جو چوبیس گھنٹے اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اس کے سوا ممکن نہیں۔ یاد خدا کے انتہائی مدارج یہ ہیں کہ انسان کو اللہ کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے، اسی کو حضور کی کہتے ہیں۔ اس حضور میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے اور جو کیف و سرور اور لطف اس نماز میں حاصل ہوتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی نماز کے لئے سرور کائنات ﷺ نے ارشاد فرمایا لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ اور اسی نماز کے لئے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (طہ: ۱۴) کہ نماز کو میری یاد کے لئے قائم کرو۔ پنج وقتہ نماز کے علاوہ تہجد کے نوافل پڑھنے بھی بہت مفید ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے نوافل میں ملتا ہے اسی کو قرب کے نوافل کہا گیا ہے۔ جو سالک جلدی راستہ طے کرنا چاہتے ہیں ان کو تہجد ضرور پڑھنی چاہیے۔

۴۔ تلاوت:

بہتر تو یہی ہے کہ تلاوت فجر کی نماز کے بعد کی جائے۔ یہ ممکن نہ ہو تو پھر جب بھی وقت ملے کم سے کم پاؤں سپارے کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ باواز بلند نہایت خوش الحانی سے قرآن پڑھو اور معنی و مطلب کی طرف مطلق دھیان نہ دو۔ صرف الفاظ کی ترتیل کا خیال رکھو اور تصور یہ نہ کرو کہ تم جو آواز سن رہے ہو اللہ کی آواز ہے۔ وہ خود اپنا کلام پڑھ رہا ہے اور تم سن رہے ہو۔ جب تلاوت ختم ہو جائے تو اسی کو معنی اور مطلب سمجھ کر آہستہ آہستہ پڑھو۔ ایک نوٹ بک پاس رکھو جو مفید مطلب بات نظر آئے اسے لکھ لو اور اس پر عمل کرو۔ ذکر کا بیان ختم ہوا۔ اب مجاہدے کا بیان کیا جاتا ہے جس میں قطع ماسوی اللہ اور تسلیم و رضا کی مشق کرنا پڑتی ہے۔ اس کے بغیر ذکر سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔

۵۔ قطع ماسوی اللہ:

اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے دلی تعلق توڑ کر صرف اللہ سے رشتہ جوڑ لیا جائے۔ جیسا کہ سورہ منزل میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ سے خطاب کیا ہے کہ وَتَبَسَّلْ إِلَيْهِ تَبَسُّلاً ۝ یعنی سب جھمیوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ہو جا۔ قوم کی بدبختی سے اس کے معنی بھی کئی صدیوں سے یہ لئے جاتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کر

جنگلوں، پہاڑوں، غاروں، تکیوں اور خانقاہوں میں بیٹھ جاؤ اور دنیا کے تمام کاروبار چھوڑ دو۔ یہی چیز رہبانیت ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے لَا رَهْبَآئِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ (اسلام میں رہبانیت نہیں) کہہ کر منع فرمایا ہے۔ اسلامی حکمت تو یہ ہے کہ نوکری، مزدوری، تجارت، زراعت، جس طرح بھی ہو، دنیا کا وہ شادی کرو، بچوں اور بیوی کے حقوق ادا کرو۔ تمام حقوق العباد کو بوجہ احسن پورا کرو اور سلوک بھی طے کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ طریقہ رہبانیت سے مشکل لیکن زیادہ افضل ہے۔ جو آدمی علاقہ دنیوی سے آزاد ہو کر اگر عمر بھر جنگلوں میں بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہے تو اس نے کیا کمال کیا؟ کمال تو یہ ہے کہ ہر ہر قدم پر دنیاوی کاروبار، تعلقات، محبت و فرائض اور تفکرات اس کا راستہ روکیں اور سب کو ٹھکرا کر ہر ہر قدم پر اللہ سے زیادہ نزدیک ہونا چلا جائے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ طاقت ہمیشہ رکاوٹ کا مقابلہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جاتی۔

قطع ماسوی اللہ کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ زندگی میں جو واقعات پیش آئیں مثلاً کوئی خوشی غم یا فکر، ان کا اثر دل پر ہرگز قائم نہ ہونے دو۔ اس اثر کو نفی کر کے پھر اللہ کا خیال قائم کر لو۔ غایت اس کی بھی یہی ہے کہ دل میں سوائے اللہ کے اور کسی کی یاد باقی نہ رہے اور حوادث زمانہ تمہارے راستہ کی رکاوٹ نہ بن سکیں۔ دراصل یہ بہت بڑا کردار انسانی ہے کہ جب تم کسی چیز کو حاصل کرنے پر تمل جاؤ تو کوئی رکاوٹ تمہارا دل نہ پڑ سکے خواہ وہ روٹی کا فکر ہو یا بیوی بچوں اور عزیز و اقارب کی محبت یا کسی کی موت اور جدائی کا صدمہ۔ اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جس دل میں خوشی، غم اور محبت کے احساسات ہی باقی نہ رہیں وہ دل تو کیا پتھر کا ٹکڑا ہوا۔ ایسا قصی القلب انسان حقوق العباد کیونکر ادا کر سکتا ہے اور معاشرہ کے لئے کس طرح مفید ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مشق صرف دوران سلوک کرائی جاتی ہے۔ اس میں احساسات کا مٹانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ مغلوب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ قدرتی جذبات اور احساسات فنا نہیں ہوا کرتے مگر ان پر قابو حاصل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ احساسات اور جذبات پر قابو حاصل کر لیتے ہیں انہی کو یہ قوت حاصل ہوتی ہے کہ ماحول سے متاثر ہوئے بغیر اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور اپنا مقصد حاصل کئے بغیر دم نہیں لیتے۔ بڑا آدمی اور کام کا آدمی بننے کے لیے یہ صفت بہت ہی ضروری ہے۔ قطع ماسوی اللہ میں اس سے بھی بہت مدد ملتی ہے کہ تم دوسروں کے افعال و اعمال سے قطعاً کوئی سروکار نہ رکھو کہ کوئی کیا کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے۔ یعنی دوسروں کے اعمال کی جستجو نہ کرو۔ نہ کسی کی غیبت کرو۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۝ (المحجرات: ۱۲)

”یعنی نہ کسی کے حال کا تجسس کرو اور نہ کسی کی غیبت کرو۔“

تسلیم و رضا یہ ہے کہ جو واقعات تم کو اپنی مرضی کے خلاف پیش آئیں ان کو منجانب اللہ سمجھو اور ان پر صرف صبر ہی نہ کرو بلکہ خوشی سے برداشت کرو۔ یہ بات بہت مشکل ہے لیکن مشق کرنے سے اس کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ غرض و غایت اس کی یہ ہے کہ آلام و تفکرات تمہاری قوائے عمل کو مفلوج نہ کر سکیں اور ہمیشہ خوش رہنے کی عادت پڑ جائے۔ جو انسان خوش رہتا ہے اپنے کاموں کو زیادہ جوش اور خوش اسلوبی سے انجام دے سکتا ہے اور ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ فکر اور رنج کی حالت میں جو کام کیا جاتا ہے کبھی اچھی طرح انجام نہیں پا سکتا۔ یاد رکھو کہ بہت سی باتوں کو تم اپنے لئے اچھا اور مفید سمجھتے ہو لیکن اللہ ان کو تمہارے لئے مفید نہیں سمجھتا۔

آج کل تسلیم و رضا کے یہ معنی لئے جاتے ہیں کہ کام کا ج نہ کرو، ہاتھ پاؤں توڑ کر گھر میں بیٹھے رہو۔ یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى..... "انسان کے لئے سوائے سعی اور کوشش کے اور کچھ نہیں ہے۔" (نجم: ۳۹) اس لئے کوشش اور عمل سے کسی حالت میں دست بردار نہیں ہونا چاہئے۔ ہر قوم کی زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اس کی ترقی کے لئے جادو کا کام دیتے ہیں لیکن جب وہ قوم گرتی ہے تو ان الفاظ کا مفہوم بالکل الٹا سمجھنے لگتی ہے۔ یہی حال آج کل ہمارا ہے۔ تسلیم و رضا کی تعلیم سے یہ مقصود تھا کہ تمہیں اپنے عزائم میں کتنی ہی ناکامی ہو مایوس ہو کر عمل نہ چھوڑو اور ہمیشہ خوش رہو۔ اسی طرح لفظ "صبر" اور "توکل" ہے۔ صبر کے معنی انتہائی قوت برداشت سے کام لینے کے ہیں۔ کتنا ہی مشکل کام ہو، اس کی صعوبتوں کو خاطر میں نہ لا کر برابر کام کئے جانے کو "صبر" کہتے ہیں۔ اسی طرح توکل ہے کہ کتنا ہی مشکل اور ناممکن کام ہو اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر عمل شروع کر دو۔ پہاڑوں کی دشوار گزار چوٹیوں پر چڑھ جاؤ، سمندروں کی لا انتہا گہرائیوں میں اتر جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو کہ تم ضرور کامیاب ہو گے۔ توکل کے معنی بھروسہ کے ہیں۔ کتنا ہی مشکل مرحلہ ہو لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی قدرت اور اس کی مدد پر یقین کامل رکھتا ہے تو اس کی قوت عمل ہزار گنا بڑھ جاتی ہے۔ وہ نہ سستی کرتا ہے نہ تھکتا ہے، نہ ہراساں ہوتا ہے، برابر کام میں لگا رہتا ہے حتیٰ کہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ سب تعلیم قرآن کی ہے لیکن اغیار اس پر عمل کر کے کامیاب ہو رہے ہیں اور ہماری قوم تمام ایسے الفاظ کے لئے معنی سمجھ کر بتا ہی کے غار میں چلی جا رہی ہے۔ تسلیم و رضا، صبر و توکل سبھی کے یہ معنی ہیں کہ عمل کرتے ہوئے ان پر کار بند رہو۔ مگر ہمارے ہاں آج کل سب کا یہ مطلب ہے کہ کام مت کرو، گھر میں بیٹھا صبر کئے پڑے رہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو کہ وہ تمہارا رزق وہیں پہنچا دے گا خواہ وہ بھیک اور خیرات ہی

کیوں نہ ہو۔ استغفر اللہ کیا یہ ہماری قومی تباہی کا ایک بڑا سبب نہیں ہے؟

اوپر نمبر ۵ اور ۶ میں جو کچھ بیان ہوا وہ مجاہدہ ہے۔ پہلے زمانہ میں مجاہدہ یہ تھا کہ شیخ اپنے مریدوں سے بارہ بارہ سال تک سقہ اور بھنگی وغیرہ کا کام کراتے تھے، بھیک منگواتے تھے، سفر کراتے تھے۔ آج کل یہ باتیں بتائی جائیں تو ایک آدمی بھی "حکمت" سیکھنے کے لئے تیار نہ ہو۔ اس لئے ہم نے مجاہدہ کے یہ دو طریق مقرر کئے ہیں جو دیکھنے میں بہت آسان معلوم ہوتے ہیں لیکن دراصل کافی مشکل ہیں۔ مقصود ان کا بھی یہی ہے کہ سالک میں انتہائی قوت برداشت اور طبیعت و جذبات اور خواہشات پر قابو پیدا ہو جائے۔ وہ ہمیشہ خوش رہے اور کبھی مایوس نہ ہو۔ یہ صفیت اعلیٰ انسانی کردار میں انمول جواہرات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جس سالک کا کردار اعلیٰ نہ ہو صرف روحانی قوت کا مالک ہو وہ صاحب ارشاد اور مصلح ہونے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ صرف یہ کر سکتا ہے کہ عوام کو کشف و کرامات کے نمائشے دکھاتا اور اللہ سے غافل کر کے پیر پرستی سکھاتا رہے۔

تسلیم و رضا کے معنی بعض آدمی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خواہشات کو بالکل نفی کر دیا جائے۔ یہ ریاضت بہت عام ہے لیکن کسی طرح بھی مفید اور درست نہیں۔ یہ فلسفہ بدھ کی تعلیم اور گیتا کا ہے۔ گودونوں میں یہ کہا گیا ہے کہ فرانس دنیاوی پوری طرح ادا کرتے ہوئے ترک خواہشات کرو لیکن عملاً یہ بات بھی مضرب ہوتی ہے۔ جو لوگ اوتاریت اور رہبانیت کے معتقد ہیں ممکن ہے ان کو یہ مضر نہ معلوم ہوتا ہو لیکن جو لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں وہ تو اسے نہایت ہی نقصان رساں پائیں گے۔ بات یہ ہے کہ متواتر مشق کرنے سے جب خواہشات بالکل ہی مر جاتی ہیں تو ایسے آدمی کو نہ کوئی خوف رہتا ہے نہ توقع۔ یہاں تک کہ اس کو نہ دوزخ کا ڈر ہوتا ہے نہ جنت کی پرواہ۔ ظاہر ہے کہ ایمان خوف ورجا کے درمیان ہے۔ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے اسی وقت تک ہے جب تک کہ ہم اپنی مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرنے اور اپنی بہتری اور بہبودی حاصل کرنے کے لئے اللہ سے دعا کریں اور التجائیں کرتے رہیں یا مرنے کے بعد دوزخ کے خوف اور جنت کی امید میں اللہ کی رحمت سے لو لگائے رہیں۔ جس آدمی کے لئے ان باتوں میں سے کوئی سی بات بھی باقی نہ رہے اس کو اللہ کی کیا پرواہ اور اللہ سے کیا تعلق رہ سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز نجات کا باعث نہیں ہو سکتی بلکہ کفر والحاد کا سبب بن سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دل میں خواہش کا ہونا ایک بڑا مستحسن اور تمدنی ترقی کا واحد سبب ہے۔ جس آدمی کے دل میں کوئی بھی خواہش باقی نہ رہے گی وہ پتھر کا بت بن کر رہ جائے گا اور اگر پوری قوم کے دل سے خواہش معدوم ہو جائے تو وہ ساری قوم ہی تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ اس لئے خواہشات کا بالکل نفی کرنا کسی طرح بھی مفید نہیں لیکن کوئی سالک خواہشات کو نفی کرنا ہی چاہے تو اسے چاہئے کہ دل میں اللہ

کی ملاقات کی خواہش جس قدر بھی زیادہ ممکن ہو پیدا کرے اور اس کو بڑھاتا رہے ورنہ نتیجہ خراب نکلے گا۔
 ے۔ غصہ اور نفرت کی نفی

غصہ ایک طبعی اور نہایت شریف جذبہ ہے۔ جس میں غصہ نہ ہو بے شرم اور بے غیرت ہوتا ہے۔ ایسا آدمی دشمنوں کے مقابلے میں نہ اپنے جان و مال کی حفاظت کر سکتا ہے نہ اپنے دین و مذہب کو بچانے کے لئے اس کی رگ حمیت جوش میں آسکتی ہے لیکن یہی غصہ جب ضرورت سے زیادہ ہو جائے اور عقل و حواس پر غالب آجائے تو اس سے زیادہ کمینہ اور نقصان دہ کوئی صفت نہیں۔ انسان کی ساری شرافت اور بزرگی عقل کی وجہ سے ہے۔ جب عقل ہی غائب ہو جائے تو آدمی بہائم سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ غصہ کو مدبّر کر کے قابو میں رکھنے کی تدبیر کی جائے۔ عوام کے لئے یہ ناممکن ہے۔ خواص الٰہیہ ایک تدبیر جانتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ غصہ بالکل ہی نفی کر دیا جائے یعنی خواہ کتنی ہی غصہ کی بات ہو، غصہ کو روکنے کی پوری کوشش کی جائے، اس طرح دوران سلوک میں غصہ بالکل جاتا رہے گا لیکن تکمیل سلوک کے بعد چونکہ وہ ایک طبعی صفت ہے پھر ابھر آئے گا لیکن اب وہ قابو میں ہوگا۔ یعنی یہ بات عارف کے اختیار میں ہوگی کہ جب ضرورت ہو غصہ کرے اور جتنا ضروری ہو اتنا ہی غصہ کرے۔ اس طرح غصہ سے سوائے فائدے کے نقصان کوئی نہ پہنچے گا۔ جس شخص کو غصہ اور دوسرے جذبات پر اس قدر قابو حاصل ہو۔ کیا کوئی بڑے سے بڑا ماہر نفسیات اس کی بے پناہ قوت ارادی کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضرت علیؓ کا وہ واقعہ یاد دلاتے ہیں جب کہ آپ نے جہاد میں ایک یہودی کو مغلوب کر کے اس کے قتل کا ارادہ کیا اور اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ آپ فوراً اس کی چھاتی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ارادہ قتل ترک کر دیا۔ یہودی نے حیران ہو کر وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ”پہلے میں محض خدا کے لئے تجھے قتل کرنا چاہتا تھا لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو مجھے برا لگا اور اب اگر میں تجھ کو قتل کرتا تو یہ قتل خالص اللہ کے لیے نہ ہوتا کیونکہ اب اس میں ذاتی انتقام کا جذبہ بھی شریک ہوتا۔“ ملاحظہ فرمایا آپ نے حضرت علیؓ کو اس پر غصہ تو یقیناً آیا لیکن اس وقت غصہ میں قتل کرنا حق نہ تھا اس واسطے ایسے نازک موقع پر بھی حضرت علیؓ نے غصہ پر فوراً قابو پالیا۔

غصہ کو نفی کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ دن اور رات میں کسی کسی وقت یہ خیال کر لیا کر دے کہ غصہ کو نفی کرنا ہے۔ اس طرح جب کسی بات پر غصہ آنے لگے تو یاد آ جائے گا کہ میں نے اپنے مرشد کے ہاتھ پر اللہ سے

غصہ کو نفی کرنے کا عہد کیا ہے۔ یہ بات یاد آتے ہی غصہ کا فوراً ہو جائے گا۔ اگر یہ تدبیر کارگر نہ ہو تو لا حول پڑھو اور اس جگہ سے ہٹ کر دور چلے جاؤ۔ ٹھنڈا پانی پیو اور تنہائی میں لیٹ کر افسوس کرو کہ غصہ کیوں آیا۔ اس طرح بھی کامیابی نہ ہو اور کبھی غصہ آ ہی جائے اور لڑائی جھگڑا ہو جائے تو بعد میں جب سکون ہو، اپنی حرکتوں پر نادم ہو اور سوچو کہ میں تو اہل سلوک سے ہوں، میں نے تو غصہ کو نفی کرنے کا عہد کیا تھا وہ عہد توڑ ڈالا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے فوراً اٹھو، وضو کرو، دو نفل نماز توبہ کی نیت سے پڑھو، استغفار کی تسبیح بعد نماز پوری کرو اور آئندہ کے لئے پھر عہد کرو کہ غصہ نہ کروں گا۔ اس طرح انشاء اللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ یوں بھی نہ ہو تو مرشد سے رجوع کرو۔

نفرت:

یہی حال نفرت کا ہے لیکن نفرت طبعی صفت نہیں ہے۔ دراصل پسندیدگی اور ناپسندیدگی طبعی صفات ہیں۔ اگر یہ دونوں انسان میں نہ ہوں تو وہ نیک باتوں کو پسند کر کے اختیار نہ کرے اور بری باتوں سے باز نہ رہ سکے۔ نفرت اسی ناپسندیدگی کی انتہائی حالت ہے۔ غصہ تو اکثر حالات میں ضروری بھی ہے۔ مثلاً دفاعِ عزت و ناموس اور جہاد میں لیکن نفرت تو کسی حالت میں بھی فائدہ بخش نہیں۔ نفرت کی کیفیت یہ ہے کہ دل جلتا ہے، خون کھولتا ہے۔ آدمی جس سے نفرت کرتا ہے اس کو ذلیل سمجھتا ہے۔ پھر یہی نفرت اس کو دشمنی اور ایذا رسانی پر آمادہ کر دیتی ہے اور وہ ایسی ایسی حرکتیں کر گزرتا ہے جو شرافت کے خلاف ہوتی ہیں اور وہ اگر کوئی ایسی حرکت نہ بھی کرے، صرف دل میں جلتا بھنرتا رہے تو یہی کیا کم ہے۔ اس سے دماغ پریشان ہوتا ہے، سکون قلب مفقود ہو جاتا ہے اور جس سے وہ نفرت کرتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ نفرت ان چیزوں پر آتی ہے۔ بری شکل و صورت، بری وضع و قطع، بری حرکات و عادات، برے افعال، گندی اور ناپاک اشیاء وغیرہ۔ جہاں تک بری شکل و صورت کا تعلق ہے تم کو سوچنا چاہیے کہ وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اس سے نفرت کرنا تو خود اللہ کے فعل اور صناعت سے نفرت کرنا ہے۔ اگر کسی کے افعال و حرکات سے نفرت ہو تو یہ سوچو کہ وہ آدمی اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہے۔ مرنے کے بعد ان افعال کی بابت اسی سے پوچھا جائے گا۔ مجھ سے سوال نہ ہوگا۔ میں اپنے دل کو خواہ مخواہ کیوں جلاؤں۔ اس طرح خاطر خواہ کامیابی ہوگی۔ اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم برے اور فحش کاموں سے بھی نفرت نہ کریں۔ تو جواب یہ ہے کہ جب آپ سلوک کے قواعد پر عمل کر رہے ہیں تو واقعی برے کاموں سے ناپسندیدگی کا جذبہ تو رکھنا چاہیے لیکن جذبہ نفرت کسی طرح بھی مفید نہیں ہوتا۔ بلکہ تصفیہ قلب میں

رکاوٹ ڈالتا ہے کیونکہ اس سے دل جلتا رہتا ہے۔ جس کی نفی ممکن نہیں ہوتی۔ کر کے دیکھنے سے آپ کی سمجھ میں آجائے گا کہ نفرت اور ناپسندیدگی میں کیا فرق ہے۔ مقصود دونوں کا ایک ہی ہے لیکن جذبہ نفرت جس دل میں ہوتا ہے وہ خدا کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا۔

غصہ اور نفرت سے اور بہت سی بری عادتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً غرور، تکبر، بغض و حسد، کینہ، تجسس، عیب جوئی، نکتہ چینی، پھلکھو پن، دوسروں کا مذاق اڑانا، بد بینی، بد گوئی، بدخواہی، غیبت، چغلی، دشمنی، ایذا رسانی، دل شکنی اور قتل وغیرہ اور ان دو باتوں کو نفی کر دینے سے انسان تمام متذکرہ برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم صرف خوبیوں پر نظر رکھو۔ برائیوں کو دیکھو ہی نہیں۔ انسان کے حواس جس چیز کے مطالعہ میں منہمک رہتے ہیں وہی رنگ اس انسان کے کردار میں پیدا ہو جاتا ہے۔ پولیس والوں کا اخلاق عام طور پر اسی لئے گندہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کی برائیوں کے متلاشی رہتے ہیں۔ جو کوئی کونلہ کے گودام میں کام کرے گا اس کے کپڑے اور منہ ضرور کالا ہو جائے گا۔

۸۔ عالمگیر محبت اور صداقت:

محبت کے جذبہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے۔ محبت کا جذبہ ہی تخلیق عالم کا اصل سبب ہے۔ دنیا کی تمام خوبیاں، زینتیں، رونق، زیبائش و آرائش محبت ہی کی وجہ سے ہے۔ ہر نوع کی مادہ جو اپنے بچوں کو پرورش کرتی ہے محبت ہی کے جذبہ سے کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت خالصہ محبت ہی ہے۔ عورت اسی شان ربوبیت کا مثالی مظہر ہے۔ خالق اپنی مخلوق سے جتنی محبت کرتا ہے، کوئی ماں اپنے بچوں سے بھی اتنی محبت نہیں کرتی۔ اس لئے سالک کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق سے محبت کرے۔ یہ ایک تعمیری جذبہ ہے اور دنیا کی فلاح و بہبود اور تمدن و تہذیب کی ترقی اسی جذبہ پر منحصر ہے۔

محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی صرف خوبیوں کو دیکھو ان کی برائیوں کو نہ دیکھو۔ یاد رکھو کہ انسان کمزوری اور خطا کا مرکب ہے۔ ہر شخص غلطیاں کرتا ہے۔ تم خود بھی معصوم نہیں ہو۔ اس لئے دوسروں کی غلطیوں اور خطاؤں پر ان کے ساتھ درشتی نہ کرو۔ بلکہ عفو و کرم سے پیش آؤ اور یقین رکھو کہ اگر تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ عفو و کرم سے پیش آؤ گے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ عفو و کرم ہی سے پیش آئے گا۔ محبت پیدا کرنے کی دوسری ترکیب یہ ہے کہ دل کو غصہ اور نفرت کے جذبات سے پاک رکھو اور لوگوں پر احسان کیا کرو اور جو کوئی تم

پر احسان کرے تو اس کو خوشی سے قبول کرو اور اس کا شکر یہ ادا کرو اور احسان کا بدلہ احسان سے دو۔ احسان کے معنی محض نیکی کرنے کے ہیں لیکن آج کل اس کو گالی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ زبان میں بے شمار ایسے فقرے پیدا ہو گئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ احسان کوئی بہت ہی بری چیز ہے۔ مثلاً میری جوتی اس کا احسان اٹھاتی ہے، میں تیرے باپ کا احسان مند نہیں ہوں وغیرہ۔ یہ نہایت ہی غیر اسلامی خیالات ہیں۔ اگر احسان اٹھانا برا ہوتا تو قرآن میں احسان کرنے اور احسان کا بدلہ احسان سے دینے کا حکم کیوں دیا جاتا؟ احسان سے جماعت میں رابطہ اور اتحاد پیدا ہوتا ہے تعمیرِ ملت کے لئے احسان بہت ضروری ہے۔

یہاں ایک خیال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے قلبی تعلق اور محبت رکھو، دوسری طرف تمام مخلوق سے محبت کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مخلوق سے محبت کرو صرف اس لئے کہ وہ اللہ کی نشانی اور اللہ کی محبوب ہے۔ اس طرح تم جس قدر محبت مخلوق سے کرو گے، اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی اور جن ہستیوں سے اللہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تم کو بھی ان سے نسبتاً اسی قدر محبت زیادہ ہو جائے گی۔ غایت اس کی یہ ہے کہ تمہارے دل میں خالص محبت کا جذبہ سمندر کی طرح جوش مارنے لگے۔

صداقت کہنے کو ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن انسان کے تمام اقوال و افعال اور حرکات و سکنات پر حاوی ہے۔ لوگ صداقت کے معنی صرف سچ بولنے کے سمجھتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے ہاتھ پاؤں، آنکھ کان، دل سب ہی کی صداقت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت ۳۶ میں فرماتا ہے کہ کان، آنکھ اور دل سبھی کی پوچھ ہو گی۔ یہاں ہر ایک کے افعال الگ الگ لکھنے کی گنجائش نہیں۔ صرف یہ بتا دینا کافی ہے کہ ہر عضو کے افعال کا اوامر الہی کے مطابق ہونا ہی صداقت ہے۔

صداقت اس قدر ضروری ہے کہ اگر کبھی محبت اور صداقت کا مقابلہ آپڑے تو صداقت پر عمل کرنا اور محبت کو قربان کر دینا چاہیے ورنہ تمام نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ مثلاً اگر تم جج یا ججسٹریٹ ہو اور تمہارا اپنا بیٹا ملزم کی حیثیت سے تمہارے سامنے آئے اور تمہاری تحقیق کے مطابق وہ واقعی مجرم ہو تو محبت کی وجہ سے اس کو رہا اور بری کر دینا ہرگز جائز نہیں بلکہ صداقت کی بناء پر پوری سزا دینا تمہارا فرض ہے۔ اس بارے میں حضرت عمرؓ کی مثال یاد رکھو کہ کس طرح انہوں نے اپنے لخت جگر کو ڈرتے لگوائے اور جب وہ مر گئے تو بیس درے ان کے مردہ جسم پر پورے کئے اور پھر لاش کو گلے لگا کر روئے اور پیار کیا اور کہا بیٹا یہ میں نے اس لئے کیا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پاک و صاف جائے اور وہاں جواب دہ نہ ہو۔

اب تفکر کا بیان سنیے لیکن پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ جب تک اوپر بتائی ہوئی آٹھ باتوں میں کافی دستگاہ نہ ہو جائے تفکر شروع نہ کیا جائے، ورنہ عام حالتوں میں بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ ہاں شیخ کامل کسی خاص طالب میں یہ استعداد دیکھے تو کسی خاص منزل سے بھی شروع کرا سکتا ہے۔

۹۔ تفکر:

اللہ نے قرآن میں جا بجا حکم دیا ہے کہ ہماری آیات پر غور کرو۔ آیات سے مراد کہیں تو قرآن کی آیات و عبارت ہی ہے لیکن زیادہ تر زمین و آسمان میں قدرت کی نشانیاں مقصود ہیں۔ اس حکم پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ عبادت کے احکام پر بھی نہیں دیا گیا۔ عبادت کے متعلق تقریباً ایک سو پچاس آیات ہیں لیکن مطالعہ کائنات کے متعلق چھ سو سے زیادہ آیات ہیں۔ اس مطالعہ اور غور و فکر سے یہ مطلب نہیں کہ بس بیٹھے ہوئے آنکھ بند کر کے سوچتے رہو اور جب دماغ تھک جائے تو سوچنا چھوڑ دو بلکہ مقصد یہ ہے کہ اشیائے کائنات کی ہیئت ترکیبی اور خواص کا علم حاصل کرو اور ان قوانین فطرت کا مطالعہ کرو جن کی بدولت کائنات کا یہ نظام قائم ہے اور جو علم اس طرح حاصل ہو اس سے خود فائدہ اٹھاؤ اور نوع انسانی کو فائدہ پہنچاؤ۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اختلاف لیل و نهار پر غور کرو (آل عمران: ۱۹۰) اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ دن رات کیوں ہوتے ہیں؟ پھر چھوٹے بڑے کیوں ہو جاتے ہیں اور موسم کیوں بدلتے ہیں؟ اگر ہمارے علماء اس حکم خداوندی کی تعمیل کرتے تو وہ یہ معلوم کر لیتے کہ زمین گول ہے اور اپنے محور اور مدار پر گھومتی ہے لیکن اس حکم پر انہوں نے نہیں بلکہ اغیار نے عمل کیا اور انہوں نے یہ باتیں معلوم کیں جن سے جغرافیہ اور علم ہیئت میں ایک بڑے مفید باب کا اضافہ ہوا۔ ان احکام میں ”حکمت“ یہ ہے کہ ایک تو تم قیامت تک عمل میں مصروف رہو گے جو قوموں کی زندگی کے لئے پہلی شرط ہے، دوسرے یہ کہ تمہاری قوم برابر ترقی کرتی رہے گی اور دوسری قوموں پر غالب رہے گی۔ ان احکام میں سے مثال کے طور پر یہاں صرف دو آیتیں بیان کی جاتی ہیں۔

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ؕ لَآ وَاَنۡ عَسٰى

اَنْ يَّكُوۡنَ قَدِ افْتَرَبَ اَجْلُهٗمۡ ؕ (اعراف: ۱۸۵)

”کیا یہ لوگ کائنات اور اس میں جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے ان کی موت قریب آگئی ہے۔“

قُلۡ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ (العنكبوت: ۲۰)

”مسلمانوں سے کہو کہ وہ کرۂ زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ آفرینش کی ابتدا کیسے ہوئی۔“

ملاحظہ فرمایا آپ نے یہ آیتیں کس قدر واضح ہیں۔ پہلی آیت میں صاف صاف تنبیہ ہے کہ جو قوم کائنات کی تخلیق پر غور یعنی قوانین فطرت کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرے گی وہ فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ دوسری آیت میں تخلیق کائنات کا علم حاصل کرنے کے لئے کرۂ زمین پر تحقیق کی غرض سے سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ الغرض کائنات کی چیزوں میں غور و فکر اور ان کی حقیقت و ماہیت معلوم کرنے کی کوشش کرنا مسلمانوں کے لئے اس قدر ضروری ہے کہ خود حضور سرور کائنات ﷺ بھی اکثر یہ دُعا فرمایا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا حَقَائِقَ كُلِّ الْاَشْيَاءِ كَمَا هِيَ

”یعنی اے اللہ ہمیں تمام اشیاء کی اصلی حقیقت سے آگاہ فرما۔“

اس حدیث پاک کا ایک ایک لفظ جو اہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ خصوصاً الفاظ ”ہمیں“، ”تمام“ اور ”اصلی“ خاص توجہ کے قابل ہیں۔ یعنی رسول پاک ﷺ حقائق اشیاء کا علم خود اپنے لئے ہی نہیں بلکہ امت کے ہر فرد کے لئے چاہتے تھے۔ سبحان اللہ کیا کرم ہے۔ ”تمام“ سے مقصود یہ ہے کہ کوئی چیز بھی کائنات میں ایسی باقی نہ رہ جائے جس کا علم کسی مسلمان کو نہ ہو۔ ”اصلی“ سے مقصود یہ ہے کہ حقیقت معلوم ہونے میں بال برابر بھی شبہ یا کسر نہ رہے۔ علاوہ ازیں حضور اکرم ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ۔

تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً

”یعنی ایک گھڑی کا تفکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔“

ان آیات و احادیث کو پڑھنے کے بعد یقیناً ہر وہ مسلمان جس کے دل میں اللہ اور رسول ﷺ کی ذرا سی بھی عزت و محبت ہے شرم سے اپنا سر نیچا کر لے گا اور یہ سوال کرنے کی جرأت ہرگز نہیں کرے گا کہ ہمارے قومی زوال اور تباہی کی وجوہات کیا ہیں؟

حقیقت کائنات کی تحقیق کا نتیجہ کون کون سے علوم ہیں؟ کیا آپ انکار کر سکتے ہیں کہ وہ علوم طبعیات، علم الکیمیا، علم طبقات الارض، علم الحیوۃ، علم نباتات، علم معدنیات، علم الجیوانات، فلکیات، علم ریاضی اور بے شمار دوسرے علوم ہیں جو آج کل یورپین اور امریکن اقوام کی واحد اجارہ داری میں پھل پھول رہے ہیں اور انہی علوم کی برکت سے وہ قومیں متمدن، مہذب، خوش حال اور صاحب اقتدار ہیں اور..... ہم.....؟

کچھ نہ پوچھ اے ہم نشیں تو میری بابت کچھ نہ پوچھ

ہمارے ہاں تو ان علوم کا نام لینا بھی گناہ ہے۔ کون سے علوم کا.....؟ انہی علوم کا جن کو حاصل کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور جن کے حصول کے لئے رسول اللہ ﷺ دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ اور رسول ﷺ کے احکام پر ہمارا عمل۔ کیا اس معاملہ میں قرآن کی یہ آیت ہمارے اوپر صادق نہیں آتی جس میں فرمایا گیا ہے کہ کیا تم قرآن کی بعض باتوں کو تو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے۔ جو ایسا کرتا ہے اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ ”اس دنیا میں اس کی رسوائی ہو اور آخرت میں ایسے لوگ سخت عذاب کی طرف پھیر دیئے جائیں گے۔“ (بقرہ: ۸۵) کیا اب بھی آپ کو شک ہے کہ آپ کی تباہی اور دنیا میں رسوائی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ماڈرن علوم حاصل نہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جس کی سزا میں یہ رسوائی ہو رہی ہے۔

اب ہم تمام مسلمانوں خصوصاً علمائے دین اور امرائے ملت سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ایمان داری سے اپنا محاسبہ کریں کہ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ان احکام کی بجا آوری میں کہاں تک سعی کی ہے؟ نہیں کی تو کیا آپ کو کبھی خوف آتا ہے کہ مرنے کے بعد اس غفلت کے لئے آپ سے باز پرس کی جائے گی۔ علمائے دین میں کون ہے جس نے یہ علوم یا ان میں سے کوئی سا علم حاصل کیا ہے۔ امرائے ملت میں سے کون ہے جس نے کوئی سکول، کالج، کوئی معمول (لیبارٹری) یا کوئی ادارہ ان علوم کے لئے کھولا ہے یا اس کے لئے کچھ روپیہ اللہ کے دیئے ہوئے روپے میں سے خرچ کیا ہے؟

اتنا بیان کر دینے کے بعد اب بتایا جاتا ہے کہ ”حکمت“، ”تفکر“، ”تفکر“ صرف یہ نہیں ہے کہ چادر سے منہ ڈھانپ کر کشف القبور یا مکاشفہ لظاہف غیبی کا مراقبہ کر لیا اور بس۔ بلکہ تفکر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تفکر بالمشاہدہ دوسری تفکر بالمرآقبہ۔ ان کا حال آگے بیان کیا جاتا ہے۔

تفکر بالمشاہدہ

اس کے کئی طریقے ہیں۔

پہلا طریقہ: کائنات میں جتنی خوبصورت اور حسین چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ مثلاً آسمان میں، سورج، چاند، ستارے، شفق، بادل، بارش، قوس قزح اور زمین پر سمندر، دریا، چشمے، آبشار، سبزہ، پھول، میوے، رنگ برنگ جانور، چرند، پرند، طرح طرح کے خوبصورت پتھر، جواہرات اور دھاتیں وغیرہ ان سب کو غور اور دلچسپی سے دیکھنے کی عادت ڈالو اور یہاں تک دیکھو کہ ان میں جو حسن، نزاکت اور دلکشی ہے اس کا

احساس پیدا ہو جائے۔ جب یہ بات حاصل ہو جائے تو ان کے بنانے والے کا خیال کرو اور سوچو کہ وہ خود کتنا حسین اور صنّاع ہوگا۔ اس مشق کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں قدرت کی ہر مخلوق میں حسن مطلق کی جھلک نظر آنے لگے اور ساتھ ہی اللہ کی موجودگی کا احساس ذہن نشین ہوتا چلا جائے۔ یہ انہماک رفتہ رفتہ اس قدر بڑھ جائے گا اور حس چیز کا نظارہ کر رہے ہو خود اس کی موجودگی کا احساس فنا ہو جائے گا اور ایک ایسی ہستی کی موجودگی کا احساس پیدا ہوگا جو موجود تو ہے مگر دکھائی نہیں دیتی، یہی حضوری کی ابتدا ہے۔

اس مشق کو (پچھلے اعمال کے ساتھ ساتھ) اگر جاری رکھا جائے تو جس ہستی کا احساس پیدا ہوا تھا وہ نظر آنے لگے گی۔ یہ حضوری کا دوسرا درجہ ہے۔ کیا نظر آئے گا؟ اس کا بیان الفاظ میں نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو کہ یہ مشاہدہ ظاہری آنکھوں سے نہیں ہوگا۔ ایک ایسی حس کے ذریعے ہوگا جس کو بصارت کی روح کہنا چاہیے اور جو آنکھ سے کہیں زیادہ دیکھتی ہے۔ آنکھ تو چیزوں کی صرف ظاہری سطح کو دیکھتی ہے نہ ان کے اندر دیکھ سکتی ہے نہ ان کے پیچھے کی طرف مگر یہ حس جب بیدار ہو جاتی ہے تو چیزوں کے اندر باہر، اوپر نیچے، آگے پیچھے ہر طرف دیکھتی ہے۔ یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ۝ (نساء: ۱۲۶) اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے) يَا هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۝ (المجادید: ۳) تو اس طریقہ تفکر سے ان آیات کا معنوی مشاہدہ ہوتا ہے لیکن یہ مشاہدہ بھی ہر طالب کو اس کی اپنی روحانی استعداد کے مطابق ہوتا ہے۔ عین ذات کو تو جس طرح ہمارے سرکار دو عالم ﷺ نے مشاہدہ فرمایا ہے نہ پہلے کسی نے دیکھا نہ آئندہ دیکھ سکے گا۔ اس جگہ یہ بیان کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آیت۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ کی تشریح میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کائنات کے ذرہ ذرہ میں موجود ہے تو اکثر لوگوں کو جو صرف پڑھتے اور سنتے ہیں۔ عملی طور پر کچھ نہیں کرتے، دو سو سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس طرح حلول کا مسئلہ ٹھیک ہوا۔ دوسرے یہ کہ جب اللہ گندی چیزوں میں بھی ہے تو وہ ناپاک کیوں نہیں ہو جاتا۔ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے ارد گرد جو فضا اور خلا ہے اور جس میں بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آتا اس میں ان گنت چیزیں موجود ہیں۔ اول تو ہوا ہے جس کو تم جانتے ہو لیکن اور بھی بہت سی چیزیں ہیں مثلاً پانی کی نمی یا بھاپ، کئی قسم کی گیسیں، برق، ریڈیائی لہریں، ایٹھ اور کئی قسم کی شعاعیں۔ ان چیزوں کا پتہ تو سائنس نے لگا لیا ہے لیکن اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جن کا پتہ ابھی سائنس نہیں لگا سکی۔ مگر اہل حال اور بصیرت باطنی رکھنے والے جانتے ہیں۔ مثلاً نفس، عقل، روح وغیرہ اور جنت و دوزخ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ (آل عمران: ۱۳۳) اور جلدی کر اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے میں اور دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت میں زمین و آسمان سمائے ہوئے ہیں اور یہ متقین کے لئے تیار کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ ہے کہ ہر جگہ موجود ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سب چیزیں جو اس فضا اور خلا میں موجود ہیں ان میں سے ہر ایک اپنا اپنا کام کرتی ہے اور کوئی چیز کسی دوسری چیز سے نہ تو متاثر ہوتی ہے نہ اس کے کام میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ حتیٰ کہ ریڈیو کی لہریں جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، ایک لاکھ چھپاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہیں اور سوائے چند مخصوص دھاتوں کے کوئی اور مادی شے ان کے لئے رکاوٹ کا سبب نہیں ہو سکتی۔ جب مخلوقات کا یہ حال ہے تو خود خالق کا تو ذکر ہی کیا؟ وہ بذاتہ سب پاکوں کا پاک ہے۔ اس پر کوئی شے اثر نہیں کر سکتی۔ ہر شے میں ہوتے ہوئے بھی ہر شے سے الگ ہے۔ یہاں پر ایک اور مثال پر غور کیجئے۔

زمین پر گو براور گندگی کا ایک ڈھیر بڑا ہے اور آفتاب عالمتاب کی دھوپ اس پر پڑ رہی ہے اور دھوپ کی حرارت گندگی کے اندر کئی گز نیچے تک پہنچ رہی ہے۔ اب بتائیے کہ یہ دھوپ اور حرارت اس گندگی سے ناپاک ہو جائے گی یا خود اس کو پاک کر دے گی۔

بہر حال اس طریقہ تفکر سے جو مشاہدہ ہوتا ہے اسے سیر ہی سمجھنا چاہیے کیونکہ جو کچھ دکھائی دیتا ہے، اس کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔

دوسرا طریقہ: جب پہلے طریقہ پر عمل کرنے سے تجلیات وغیرہ کا مشاہدہ ہونے لگے تو اب تم اس تمام یونیورس (Universe) یعنی کائنات کا تصوّر دماغ میں قائم کرو۔ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ پہلے فلکیات پر چند ایسی کتابیں پڑھو جو موجودہ تحقیقات کے مطابق لکھی گئی ہیں۔ اس طرح تمہیں علم ہوگا کہ یہ سورج، چاند، ستارے اور سیارے سب بڑے بڑے گزے ہیں جو اس فضا میں تیر رہے ہیں۔ ان کی تعداد، جسامتیں اور درمیانی فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ انسانی شمار و حساب میں بھی نہیں آسکتے۔ اس طرح جب اس فضا کی وسعت و پہنائی کا کچھ تصوّر دماغ میں قائم ہو جائے تو رات کو جب ستارے جگمگا رہے ہوں کھلے آسمان کے نیچے لیٹ کر غور کیا کرو کہ تمہاری زمین جو ایک گزہ ہے اس کے چاروں طرف ایسا ہی آسمان جیسا کہ اوپر نظر آتا ہے، لا انتہا فاصلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ سوچو کہ آخر یہ سلسلہ ستاروں اور سیاروں یعنی آفرینش کا کہاں تک چلا گیا ہے۔ اگر تفکر بالمشاہدہ کے پہلے طریقے سے تمہاری حس فکر یہ تربیت یافتہ ہو چکی ہے تو تم یونیورس (Universe)

کا زیادہ صحیح تصوّر قائم کر سکو گے اور دیکھو گے کہ پہلے آسمان سے آخری آسمان تک کس طرح آفرینش کا سلسلہ قائم ہے۔ اس کے بعد یہ سوچنا شروع کرو کہ جہاں آفرینش ختم ہوتی ہے اس سے آگے کیا ہے۔ تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ آگے محض خلاء ہے۔ اب سوچو کہ یہ خلاء کہاں تک چلا گیا ہے اور اس کی انتہا کے بعد کیا ہے۔ یہاں تمہاری عقل عاجز اور تمہارا دماغ بیکار ہو جائے گا اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے گا۔ اس ناقص تصوّر یا تفہیم کو خوب پختہ کر کے یہیں چھوڑ دو۔

اب ایک ایٹم کی جسامت کا تصوّر دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ ایٹم اس قدر چھوٹا ہے کہ ایک سوئی کی نوک پر لاکھوں ایٹم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ایٹم پر دو ایک کتابیں پڑھو۔ جب یہ تصوّر قائم ہو جائے تو آگے چلو اور اقلیدس کے نقطے کا تصوّر کرو۔ جس میں نہ لمبائی ہے نہ چوڑائی، نہ گہرائی ہے نہ وہ سمتوں اور امتداد میں مقید ہے، نہ اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ جب یہ تصوّر بھی قائم ہو جائے تو آیت۔

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٨٠﴾ (الطُّهَّر: ۱۸۰)

ترجمہ: ”یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے“

کے معنی دماغ میں رکھتے ہوئے یہ فکر کرو کہ ایک طرف تو اللہ اتنا بڑا ہے کہ تمام یونیورس (Universe) پر محیط ہے اور اس کے ذرہ ذرہ میں موجود ہے۔ دوسری طرف اگر وہ چاہے تو اقلیدسی نقطے میں بھی سما سکتا ہے۔ جب یہ تصوّر رات پختہ ہو جائیں گے تو سخت مشقت اور مدت دراز کی کوشش کے بعد عجیب راز تم پر گھلین گے۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمام یونیورس باوجود اس بے انتہا وسعت و پہنائی کے اس ذات بیچون و چگون میں جو نقطے کے تصوّر سے محسوس یا مدرک ہوئی ہے اس طرح سما ہوا ہے کہ معدوم محض کی سی حیثیت رکھتا ہے اور وہ ذات بیک وقت اس یونیورس سے بھی بے اندازہ بڑی اور اقلیدسی نکتہ سے بھی کہیں چھوٹی ہے۔ اس نکتہ پر اس سے زیادہ صاف لکھنے کے لئے ہماری زبان میں الفاظ ہیں نہ قلم میں طاقت نہ رخصت۔

اسی تفکر کا ایک ضمنی پہلو یہ بھی ہے کہ جب تم کائنات کی وسعت و پہنائی کا ایک تصوّر قائم کر لو تو اس کے مقابلہ میں اپنی زمین کی جسامت پر غور کرو۔ تمہیں دکھائی دے گا کہ یونیورس (Universe) کے مقابلہ میں تمہاری زمین اتنی بڑی بھی نہیں جتنا اس کرہ زمین کے مقابلہ میں ایک رائی کا دانہ۔ پھر غور کرو اس کرہ ارض کے مقابلہ میں خود تمہارا جسم اتنا بڑا ہے۔ تم کو دکھائی دے جائے گا کہ تمہاری جسامت اس نسبت سے اتنی بھی تو نہیں جتنی گندے پانی کی ایک بوند میں خوردبین سے نظر آنے والے لاکھوں جراثیم میں سے ایک جرثومہ کی۔ کہیں

ایسا تو نہیں کہ یہ تمام کائنات ایک کتاب مرقوم ہے اور تم اس میں ایک نہایت باریک موہوم سی تحریر یا نقش جیسا کہ غالب نے کہا ہے۔

نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا

کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا

پھر لطف یہ ہے کہ جہاں ایک طرف تم اس قدر ضعیف و حقیر ہو وہاں دوسری طرف اس قدر قوی اور عظیم کہ سمندروں میں طوفان لاسکتے ہو، اٹھتے ہوئے طوفانوں کو روک سکتے ہو، پہاڑوں کو ان کی بنیادوں سے ہلا سکتے ہو اور ہمت و ارادہ کرو تو کیا نہیں کر سکتے۔ جب تم ایسے ہو تو تمہارا خالق کیسا کچھ نہ ہوگا۔

غالب کا مندرجہ بالا شعر لکھتے ہوئے ایک بات یاد آگئی۔ صوفی شعراء اور بعض فلاسفوں نے یہ مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے۔ خصوصاً برکلے کے فلسفہ کا تو ما حاصل ہی یہ ہے کہ

عالم تمام حلقہ دام خیال ہے

یعنی حقیقتاً صرف ایک ذہن کل موجود ہے اور باقی سب کچھ اسی ذہن کے تصور رات ہیں۔ قرآن کی بعض آیات سے بھی ذہن اسی طرف منتقل ہوتا ہے کیونکہ جب اللہ ہی سب سے اوّل و آخر اور ہر چیز کے اندر و باہر اور ہر شے کو محیط ہے تو کائنات کی حیثیت اس کی ذات میں یقیناً ایسی ہی ہو سکتی ہے جیسی ذہن میں تصور رات کی یا یوں سمجھو کہ جب نقاش صفحہ قرطاس پر ایک تصویر کھینچنا چاہتا ہے تو جس طرح وہ تصویر کاغذ پر آنے سے پہلے نقاش کے ذہن میں موجود ہوتی ہے اسی طرح یہ کائنات مصوّر حقیقی کے ذہن میں موجود ہے۔ اس مثال کو وحدت الوجود کے ماننے والے بہت زور شور سے اپنے عقیدے کے ثبوت میں پیش کیا کرتے ہیں۔ ہم اس بارے میں ان سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ تصویر جو مصوّر کے ذہن میں موجود ہے اس کے دماغ کا کوئی حصہ یا اس کے جسم کا کوئی عضو ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً ایسا نہیں ہے تو پھر اس تصویر کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے۔ کیا وہ اس ذہن اور دماغ کی مخلوق نہیں؟

یہ سب کچھ تو ہم ایک رد اور جذبہ میں بیان کر گئے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ حقیقت کا ایک شے بھی نہ تو کسی سے بیان ہوا ہے نہ ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے کوئی بھی لفظ صحیح طور پر استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً بڑا، چھوٹا، ظاہر، چھپا وغیرہ وغیرہ۔ نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے ہاتھ، آنکھیں، چہرہ اور زبان یا روح اور نفس ہے لیکن سمجھنے سمجھانے کے لئے کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں وہ خود اپنے لئے فرماتا ہے کہ میں

سمیع ہوں، بصیر ہوں، یعنی سنتا اور دیکھتا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ بھی بیان کرتا ہے۔ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ وَهُوَ سَمِيعٌ وَجْهَ اللّٰهِ وَهُوَ لِنَفْسِ كَا هُوَ نَا كَمَا هُوَ نَا۔ فَآيِنَمَا تُوَلُّوْا فَتَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ وَهُوَ لِنَفْسِ كَا هُوَ نَا كَمَا هُوَ نَا۔ وَكَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ کہتا ہے کہ میرے روح بھی ہے۔ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِيْ اس لئے ہم بھی مجبور ہیں کہ اس کا بیان کرتے ہوئے یہ سب الفاظ استعمال کریں ورنہ اس کی ذات تمام الفاظ اور افہام و تفہیم سے کہیں ارفع و اعلیٰ اور ماوراء ہے۔

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ (الصُّفُّت: ۱۸۰)

ترجمہ: ”یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے“

تیسرا طریقہ: تفکر بالمشاہدہ کا ایک اور بھی طریقہ ہے۔ یعنی چیزوں کی شکل و صورت اور حسن و لطافت پر غور کرنے کی بجائے ان کی ساخت پر غور کیا جائے اور تجربہ کر کے دیکھا جائے کہ وہ کن عناصر یا اجزاء کو کس نسبت سے ملا کر بنائی گئی ہیں اور ہم انہی عناصر یا اجزاء کو اسی یا دیگر نہتوں سے ملا کر کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں اور وہ انسان کے فائدے کے لئے کس طرح استعمال کی جاسکتی ہیں۔ اس طریقہ تفکر میں روشنی، حرکت، برق، ایقار، قدرتی شعاعوں کے خواص اور ان قوانین کے اکتشافات بھی شامل ہیں جن کے مطابق یہ چیزیں کام کرتی ہیں۔ اسی کا نام سائنس ہے اور اسی سے وہ علوم وجود میں آتے ہیں جو آج کل یورپ و امریکہ کا طرہ امتیاز بنے ہوئے ہیں۔ یہی وہ علوم ہیں جن کو حاصل کرنے کے لئے آیات اللہ پر غور کرنے کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے اور ہم نے آج تک اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر آپ موجودہ ذلت و رسوائی سے چھٹکارا اور عاقبت کے عذاب سے نجات پانا چاہتے ہیں تو ان علوم کے حاصل کئے بغیر چارہ نہیں۔ اس عملی طریقہ تفکر سے یقیناً اللہ کا دیدار تو نہیں ہوگا لیکن اس کی موجودگی پر یقین محکم ضرور پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ جب سے یہ اکتشاف ہوا ہے کہ ایٹم کے چھٹنے سے انرجی (توانائی) پیدا ہوتی ہے سائنس کے اس مسلمہ اصول کا خاتمہ ہو گیا ہے کہ مادہ فنا نہیں ہوتا۔ اب تمام سائنس دان اس بات کے قائل ہیں کہ اس مادی دنیا سے آگے ایک اور دنیا ہے جس کو بیٹا فزیکل ورلڈ (عالم ماورائے مادہ) کہتے ہیں۔ یہ تو ابتداء عشق ہے آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سائنس کے ذریعہ سے بھی اپنی ہستی کو منور کر رہے گا۔ اس نے مخلوق خصوصاً انسان کو پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ پہچانا جائے اور سب اس کی پرستش کریں۔ یقین ہے کہ ایک دن یورپ کا بچہ بچہ کسی کہ لٹرا اور منکر خدا کی ونسٹ بھی ایمان لے آئیں گے۔ وہی دن ہوگا جب قرآن اور اسلام کی صداقت آفتاب نصف الشہار کی طرح روشن ہو جائے گی۔ یہ صرف گمان اور قیاس نہیں ہے۔ ایسا یقیناً ہو کر

رہے گا کیونکہ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہتے ہیں۔

سَسْرِبُهُمْ آيِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ
أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۗ ۱۰ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
مُّحِيطٌ ۗ (تم سجدہ: ۵۳ اور ۵۴)

”یعنی ان لوگوں کو (منکرین کو) ہم یہ نشانیاں تمام اطراف عالم میں دکھائیں گے اور ان کے اپنے
نفوس میں بھی۔ یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ
تمہارا رب ہر چیز کا شاہد ہے۔ خبردار کہ انہیں اپنے رب کی ملاقات میں شک ہے۔ یاد رکھو کہ وہ ہر چیز
کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔“

اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ ہم تمام اطراف عالم میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ وہ تو نظر آ ہی رہی ہیں
کہ قدرت کے سینکڑوں راز معلوم ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں اب چاند اور ستاروں کا سفر درپیش ہے اور ایک
عالم ماورائے مادہ کا عقیدہ قائم ہو چکا ہے لیکن یہ جو فرمایا ہے کہ ہم ان کے نفوس میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں
گے یہ بہت قابل غور بات ہے۔ ایک سرے کے ذریعہ بدن کے اندر اعضائے ربیہ کے حالات تو بہت کچھ اب
دکھائی دینے لگے ہیں کہیں یہ تو مراد نہیں کہ آئندہ آلات کے ذریعہ انسانی عقل نفس اور روح وغیرہ کی طاقت
اور لطافت و کثافت بھی معلوم ہو جایا کرے گی۔ دل کے خیالات بھی ریکارڈ ہونے لگیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تعجب
تو کچھ نہیں اگر ایسا ہو اور اس کے ساتھ ہی یہ جو کہا ہے کہ انہیں ہماری لقاء پر شک ہے مگر ہم ہر چیز پر محیط ہیں۔
اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ آئندہ کچھ ایسے آلات نکل آئیں کہ خدا کی موجودگی اس قدر ثابت و ظاہر ہو جائے
جیسی آنکھوں سے دیکھ کر ہوتی ہے۔ اب ہم تفکر بالمراقبہ کا بیان کرتے ہیں۔

تفکر بالمراقبہ:

مراقبہ کے معنی حفاظت و نگہبانی کے ہیں لیکن حکمت و عرفان میں اصطلاحاً دماغ میں کسی خیال یا تصور کے
اس طرح قائم کرنے کو کہتے ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی خیال یا تصور باقی نہ رہے۔ تفکر بالمشاہدہ میں ہم اشیاء کی
شکل و صورت پر غور کرتے ہیں مگر تفکر بالمراقبہ میں اشیاء یا اسماء کی حقیقت اور معنویت پر غور و فکر کیا جاتا ہے۔ مثلاً
تفکر بالمشاہدہ میں ہم برف کو دیکھ کر اس کی چمک دمک اور سفید رنگ کی شوخی اور خوبصورتی کے تصور میں محو ہو

جائیں گے لیکن تفکر بالمراقبہ میں برف کی کسی صفت مثلاً سردی کا تصور اس انہماک سے کریں گے کہ آخر کار
ہمیں سردی محسوس ہونے لگے کہ خواہ اس وقت گرمی ہی کیوں نہ پڑ رہی ہو۔

یہ ضروری ہے کہ مراقبہ مرشد کی ہدایت کے بغیر نہ کیا جائے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لئے کون سے اسم
یا آیت کا مراقبہ زیادہ مناسب ہوگا۔ بہت سے طالب نفی ماسوی ہی میں وہ کمال حاصل کر لیتے ہیں کہ انہیں
مراقبہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ مراقبہ کی غرض و غایت یہ ہے کہ کشف حاصل ہو جائے، روحیں نظر آنے لگیں
اور عالم مثال کا مشاہدہ میسر آ جائے اور یہ سب باتیں قطع ماسوی میں ہی بعض سالکوں کو حاصل ہو جاتی ہیں۔
مبادیات مراقبہ یہ ہیں کہ پہلے اللہ کی اسماء صفات میں سے کسی اسم کا مراقبہ کیا جائے۔ جب اس میں دستگاہ ہو
جائے تو قرآن کی کسی آیت کا، پھر اسم ذات کا، پھر فنا کا وغیرہ وغیرہ۔

مراقبہ کے لئے ضروری نہیں کہ اسی طرح بیٹھو جس طرح نماز میں بیٹھتے ہو بلکہ اس طرح بیٹھنا چاہئے جس
میں تکلف اور تکلیف نہ ہو اور ایسے وقت اور ایسی جگہ بیٹھو کہ شور و شغب نہ ہو اور دھیان نہ بٹے۔ طریقہ یہ ہے کہ
مراقبہ کے لئے وہ لفظ منتخب کرو جو تمہارے دل کو سب سے پیارا لگتا ہے۔ مثلاً یار رحیم۔ اب پاس انفاس بند کر دو
اور یار رحیم کا ورد شروع کرو لیکن رحیم کا خیال رکھنے کی بجائے اس کے معنی کا خیال کر کے اللہ تعالیٰ کی عام رحمت
کو ہر چیز میں خیال کی مدد سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ کچھ دن میں رحمت کا عام مفہوم دماغ
اور قلب میں پیوست ہو جائے اور اسم غائب ہو کر مستفی باقی رہ جائے پھر قرآن کی کوئی آیت چنو۔ مثلاً وَهُوَ
مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ (حدید: ۴) ”یعنی تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے“ اب اس کا ورد معنوں کا
خیال رکھتے ہوئے اس قدر کثرت سے کرو اور اس کے معنوں میں اس قدر مستغرق ہو جاؤ کہ آیت کے الفاظ کی
طرف خیال ہی نہ جائے لیکن معنی دل کی آنکھوں کے سامنے روشن ہو جائیں۔

فناء کے مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ خلاء محض کا تصور دماغ میں قائم کرو اور اس قدر کوشش کرو کہ خلاء کے بیچ میں
جو آفرینش ہے، اس کا خیال بھی باقی نہ رہے حتیٰ کہ خود اپنا وجود بھی نفی ہو جائے۔ اب جو تصور حاصل ہوا ہے وہ
خلاء یا عدم کا ہے۔ اب اس تصور کو اتنا بڑھاؤ کہ خود تصور کا احساس بھی جاتا رہے، فنا حاصل ہو جائے گی۔

ایک مراقبہ کشف قبور کا بھی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی قبرستان میں رات کی تنہائی میں بیٹھ کر مردے
کے جسم کا تصور کرو اور مَسْبُوحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ کی ان گنت تکرار کرو اور لفظ روح
کو خوب دل و دماغ میں جماؤ۔ ارتکاز خیال کامل ہونے پر اس مردے کا جسم نظر آنے لگے گا اور رفتہ رفتہ تمام

قبرستان کے مردے بھی ممکن ہے نظر آ جائیں۔ روجوں کو بلانے اور دعوت دینے اور مستقبل کی باتیں معلوم کرنے کے لئے بھی مراقبے کئے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ باتیں ہماری رائے اور تجربہ میں سالکوں کو بجائے فائدے کے نقصان پہنچایا کرتی ہیں، اس کے علاوہ عام تصوف کی کتابوں میں موجود ہیں اس لئے ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔

اب ہم خدمتِ خلق کا ذکر کرتے ہیں جو حاصل ہے تمام جدوجہد و ریاضت اور سلوک کا۔ ظاہر ہے کہ تم کتنے ہی بڑے ولی اللہ بن جاؤ اگر تم سے دنیا کو فیض نہ ہو تو تمہاری ولایت صرف تمہارے ذاتی فائدے کے لئے ہے اور تم کسی حالت میں نائب رسول ﷺ کہلانے کے مستحق نہیں کیونکہ نبی مبعوث ہی اسی لئے ہوتے ہیں کہ خلق خدا کو زندگی بسر کرنے کے ایسے طریقے بتائیں جن پر عمل کرنے سے دنیا اور عقبی دونوں میں کامرانی نصیب ہوتی ہے۔

۱۰۔ خدمتِ خلق: اگر طالب صادق اور محنتی اور اس کا مرشد کامل ہو تو اوپر بتایا ہوا سارا انصاب زیادہ سے زیادہ تین سال میں مکمل ہو جاتا ہے ورنہ تیس چالیس برس میں بھی نہیں ہو سکتا۔ معرفت الہی حاصل ہونے کے بعد دنیا اور کائنات کی تمام اشیاء اور خصوصاً انسانی فطرت کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور عقل سلیم بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص اخلاق میں کامل ہوتا ہے۔ وہ انفراداً اور اجتماعاً انسانی فطرت کو اوروں سے کہیں زیادہ سمجھتا ہے اس لئے زندگی کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو آسانی سے حل کرنے اور عوام کے اخلاق کی اصلاح کرنے کا اہل اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرن اول میں ملت کے رہنما، قائد، افسر اور جنرل ایسے ہی لوگ تھے، اسی لئے اس زمانہ میں اس قدر ترقی ہوئی۔ آج کل کے لیڈر اور افسر جیسے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔

خدمتِ خلق میں ایک معمولی سی بات سے لے کر انتہائی قربانی اور ایثار تک سب کچھ شامل ہیں۔ مثلاً کسی کو راستہ بتانا، راستہ کو کانٹوں اور پتھروں سے صاف کر دینا، کسی کا بوجھ اٹھادینا، بھوکے اور ننگے کو روٹی کپڑا دینا، بیماروں کی تیمارداری اور علاج کرنا، بے علموں کو علم حاصل کرنے میں مدد دینا، ان سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی کو اس قابل بنادینا کہ وہ معیشتی لحاظ سے اپنی زندگی آرام سے گزار سکے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کسی کو اللہ کا راستہ بتانا اور قرآن کی تعلیم میں اس طرح کامل کر دینا کہ اس کی زندگی دنیا اور عقبی دونوں میں کامیاب رہے۔ انبیاء کرامؑ بھی سکھاتے تھے اس لئے ان کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔

خدمتِ خلق کی دو صورتیں ہیں۔ ایک انفرادی دوسرے اجتماعی۔ زیادہ اشرف اور افضل کام وہ ہیں جن

سے انسانوں کی بڑی سے بڑی جماعتوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے مثلاً بیماروں کے مفت علاج کی غرض سے اعلیٰ درجے کے ہسپتال کھولنا، عوام کی معمولی اور اعلیٰ تعلیم کے لئے کتب خانے، سکول اور کالج قائم کرنا، سائنس کی ترویج کے لئے معمل یعنی لیبارٹریاں بنانا، بینک اور ایسے صنعتی ادارے اور کارخانے قائم کرنا جن کی وجہ سے قوم میں دولت کی ریل پیل ہو جائے۔ یہ سارے کام دراصل قومی امراء کے فرائض میں شامل ہیں۔ متمدن ممالک اور زندہ قوموں میں یہ سب کام قوم خود کرتی ہے۔ حکومت کے ذمہ تو صرف ایڈمنسٹریشن (Administration)، انصاف اور دفاع کا کام ہوتا ہے۔ مگر اسلامی ممالک کی قومیں روٹی کے ٹکڑے تک کے لئے گورنمنٹ کے آگے ہاتھ پھیلائے کی عادی ہیں۔ جن قوموں کے امراء یہ کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں وہ قومیں ترقی کرتی چلی جاتی ہیں۔ جیسا کہ یورپ، امریکہ، جاپان، اور آخر میں ہندوستان کے ہندو بیٹھوں نے کر کے دکھایا۔ مسلمانوں میں بھی ہزاروں لکھ بچی، سینکڑوں کروڑ بچی اور بیسیوں ارب بچی ہیں لیکن یہ لوگ سارا روپیہ اپنی ذاتی آسائشوں اور عیاشیوں پر ہی خرچ کرتے ہیں۔ قومی خدمت کا خیال بھی ان کے دماغ میں نہیں آتا۔ قرآن دولت کمانے کو ہرگز منع نہیں کرتا لیکن دولت کو جمع کر کے رکھنے یا صرف ذاتی عیش و عشرت پر صرف کرنے کو ضرور منع کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ آیت ۳۴ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ”روپیہ اور دولت زمین میں گاڑ رکھنے والوں کو عذاب ہے جو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔“ یہ راہ خدا کیا چیز ہے؟ قومی فلاح و بہبود۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَاقْرَءُوا لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا ط..... (المزمل: ۲۰) ”اور قرض دیتے رہو اللہ کو قرض حسنہ۔“

ظاہر ہے کہ اللہ کو اپنے لئے روپیہ وغیرہ قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ کسی حیثیت سے بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا اس قرض سے اس کے سوا اور کچھ مراد نہیں کہ قوم کی فلاح و بہبود اور دفاع و ترقی پر روپیہ خرچ کرو۔ کیونکہ ملت کی بقاء ہی سے اسلام کی بقاء ہے۔ پھر ہمارے امراء کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی ہستی بھی قوم کی ہستی پر منحصر ہے۔ قوم ترقی کرے گی تو وہ بھی ترقی کریں گے، قوم تباہ ہو جائے گی تو وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی دشمن ملک پر قبضہ کر لے تو سب سے پہلے ان کو لوٹے گا۔ اس لئے قوم کو مضبوط اور طاقتور رکھنے میں انہی کا فائدہ ہے۔ ع

پوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

جو لوگ اوپر بتائے ہوئے طریقوں سے ایمان محکم حاصل کرتے اور کردار انسانی کی تکمیل کرتے ہیں ان

کو روپیہ پیسہ ہرگز اتنا عزیز نہیں ہوتا کہ قوم کو ضرورت ہو اور وہ اپنے خزانوں کو سانپ کی طرح کلیجے سے لگائے بیٹھے رہیں۔ ایسے لوگ روپیہ ہی نہیں اپنی املاک، اپنی بیوی، بچے اور جان سب کچھ بوقت ضرورت اللہ کے راستے یعنی قوم پر قربان کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم ﷺ کے صحابی ایسے ہی تھے۔

سلوک کے طریقوں کا بیان ختم ہوا۔ اب ہم بتائیں گے کہ ایک سالک کو دوران سلوک کیا کچھ نظر آتا ہے؟ کیا کوائف وارد ہوتے ہیں، کون سی منازل اور طبقات سے گزرنا ہوتا ہے اور سلوک کا حاصل کیا ہے؟ ان باتوں کو آسانی سے سمجھانے کے لئے ہم نے چار دور قائم کئے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر سالک کو ہر چیز ضروری نظر آئے یا اسی ترتیب سے نظر آئے یا حاصل ہو جو ہم نے قائم کی ہے۔ ظاہری صورت و شکل اور عادات و اطوار کی طرح سالکوں کی روحانی استعداد بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اس لئے ان کے حصول درجات کی ترتیب اور کوائف بھی ایک دوسرے سے بہت کچھ مختلف ہوتے ہیں۔

حصول درجات کے جو چار دور ہم نے مقرر کئے ہیں، ان میں جب بجا روحانی سفر اور ان مقامات کا ذکر آتا ہے جہاں سے روح گزرتی ہے۔ اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان ادوار چارگانہ کا ذکر کرنے سے پہلے اس عالم روحانی اور اس کے طبقات وغیرہ کا کچھ ذکر کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو قلیل علم روح کا ہم کو عطا فرمایا ہے اس کی بناء پر کچھ حال روح کا بھی لکھ دیا جائے تاکہ قارئین کی سمجھ میں ہمارا مفہوم و مطلب اچھی طرح آجائے۔

عالم روحانی

علماء اور اولیائے متقدمین نے دو عالم بیان فرمائے ہیں۔ ایک عالم امر اور دوسرا عالم خلق۔ ہم نے زیادہ واضح طور پر سمجھانے کی غرض سے عالم خلق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک عالم مثال، دوسرے عالم ماڈی۔ اس طرح کل تین عوالم ہوئے عالم امر، عالم مثال، عالم ماڈی۔ ان تینوں کے مجموعہ کا منفرد نام کائنات ہے۔

عالم ماڈی میں زمین، سورج، چاند اور تمام ستارے شامل ہیں۔ عالم مثال اور عالم امر اس تمام کائنات کی فضا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ ہماری زمین اور ستاروں اور گزروں میں بھی موجود ہے، اگر چنانچہ کہ رہنے والوں کو محسوس نہیں ہوتا۔ عالم مثال میں رہنے والی مخلوق کو یہ گزریے محسوس ہوتے ہیں۔ قرآن میں اس کی بابت آل عمران آیت ۱۳۳ سورۃ الحدید کی آیت ۲۱ میں ہے کہ جنت زمین و آسمان کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی ہے۔

یہ تمام کائنات کردی شکل کی ہے، اس کا مرکز عرش اعظم ہے اور اس عرش کا مرکز عین ذات یا ذات بحت کا جائے قرار ہے۔ جس کو قرآن میں **ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ** کہا گیا ہے۔ یہ ذات کی وہ حقیقت ہے جو پاک ہے ان تمام صفات سے جو ہم اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس ذات بحت کے ارد گرد ذاتی تجلیات کا عالم ہے، عرش کے سروں سے صفاتی تجلیات شروع ہوتی ہیں یعنی اللطف مقابلہ کم لطیف ہوتا جاتا ہے۔ ذاتی و صفاتی تجلیات کا مبداء اگرچہ عرش ہے مگر وہ تمام کائنات میں ہر وقت اور ہر جگہ موجود لیکن اس طرح مستور ہیں جیسے بادلوں میں بجلی۔ عرش کے بعد بساط ہیں، ان کی تعداد کو اللہ ہی جانتا ہے لیکن ان میں سے خاص خاص یہ ہیں۔ پہلے روح بسیط یا روح الاعظم ہے، دوسرے عقل بسیط ہے، تیسرے نفس بسیط ہے، نفس بسیط کے بعد عدم بسیط ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم عرش سے عالم مثال اور عالم ماڈی کی طرف نزول کر رہے ہیں۔ عرش کے بعد جن بساط کا ذکر ہوا وہ اور دوسرے عوالم جن کا اب ذکر ہوگا عرش کے چاروں طرف طبقات کی طرح واقع ہیں۔ عدم بسیط کے آخری سرے پر عالم امر ختم ہو جاتا ہے۔

عالم امر کے بعد عالم مثال ہے جس کے پہلے طبقے کا نام عالم صو ہے، اس کے بعد علی الترتیب باہوت، لاہوت، جبروت اور ملکوت کے عوالم ہیں۔ یہاں جنتوں کے طبقات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناسوت یعنی دوزخوں کا ملک ہے جس کے ڈانڈے ہمارے عالم ماڈی سے ملے ہوئے ہیں۔ ناسوت ماڈی عالم کو کہتے ہیں۔ ہم نے آسانی سے سمجھ میں آنے کے لئے یہ لفظ دوزخ کے لئے استعمال کیا ہے۔

عوالم کی یہ ترتیب نزولی ہے یعنی ہم عرش سے اس عالم ماڈی کی طرف آئے ہیں۔ اس میں یاد رکھنے کی بات صرف یہ ہے کہ ہر عالم اور اس عالم کا ہر طبقہ جو جتنا عرش سے نزدیک تر ہے اتنا ہی اپنے بعد کے عالم سے زیادہ لطیف ہے حتیٰ کہ سب سے کثیف یہ ہمارا عالم ماڈی ہے۔ اب ہم کچھ حال ارواح انسانی کا بیان کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے اور کس طرح چل کر اس عالم ماڈی تک پہنچتی اور ماڈی جسموں میں جلوہ لگتی ہوتی ہیں۔

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ عرش کے بعد اور اس کے ارد گرد روح بسیط ہے جو مخزون ہے ان تمام ارواح مجردہ کا جو خالق حقیقی نے روز اول محض اپنے حکم سے پیدا کر دی تھیں۔ ان ارواح مجردہ میں کوئی صفت سوائے محبت اور عبودیت کے نہیں ہوتی لیکن استعداد دوسرے خواص کو جذب کرنے کی بھی موجود ہوتی ہے۔ مثال روح بسیط کی سمندر کو سمجھو، سمندر کیا ہے؟ پانی ہے بسیط شکل میں۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سمندر مجموعہ ہے پانی کے بے شمار ایٹموں کا، جب سورج اس پر نظر ڈالتا ہے تو اس کے تار ہائے نظر یعنی کرنوں سے ان ایٹموں

میں زندگی یعنی حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ایک تاریا شعاع کی شکل میں آسمان کی طرف صعود کرتے ہیں۔ یہ تار اس قدر باریک ہوتے ہیں کہ خوردبین سے بھی نظر نہیں آ سکتے البتہ وہ سب مل کر دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہم اس کو بھاپ کہتے ہیں۔ جب خلاء میں اس بھاپ کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بادل کہلاتی ہے، اس بادل کو جب سردی پہنچتی ہے تو وہ پھر پانی بن کر زمین پر برس پڑتا ہے اور اپنی اصل یعنی سمندر کی تلاش میں بے اختیار نشیب کی طرف دوڑنے لگتا ہے کیونکہ سمندر سطح زمین سے نشیب ہی میں واقع ہے۔ اس میں سے کچھ پانی جس کو صراطِ المستقیم مل جاتی ہے دریاؤں کے وسیلے (وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) بہت جلد سمندر میں جا ملتا ہے۔ کچھ پانی غلط راستے پر پڑ کر تالابوں، جھیلوں، کنوؤں وغیرہ میں قید ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ زمین میں جذب ہو کر تنگ و تاریک اور پیچیدہ ماڈی (مثلاً ناسوتی) راہوں سے سمندر کی تلاش میں رواں دواں رہتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ پانی ہزار ہا سال سرگرداں رہنے کے بعد اپنی اصل سے جا ملے اور یہ بھی ممکن ہے کہ قیامت تک نہ پہنچ سکے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ..... یعنی ”ایک سیدھی راہ ہے جو اللہ تک پہنچتی ہے اور کئی راہیں ٹیڑھی میڑھی بھی ہیں۔“ (نحل: آیت 9)

یعنی یہی حال ارواحِ مجردہ کا ہے، ہر روح ایک ایٹم کی طرح روح بسیط میں موجود ہے۔ آفتاب حقیقی جب کسی روح کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنی نظر حیات افروز اس پر ڈالتا ہے جس کے اثر سے یہ روحانی ایٹم لمبا ہو کر بشکل شعاع (یا بالفاظ قرآن ظل یا پرچھائیں) عالمِ اسفل کی طرف نزول کرنے لگتا ہے لیکن برخلاف پانی کے اس روحانی ایٹم کا سر اور روح بسیط میں اپنی جگہ پر ہی قائم رہتا ہے۔ روح بسیط سے گزر کر یہ شعاع عقل بسیط میں داخل ہوتی ہے اور بقدر استعداد عقل کو جذب کرتی ہوئی نفس بسیط میں پہنچتی ہے اور نفس سے جو حصہ مقدر ہوتا ہے لے لیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں اس میں نفس پیدا ہو جاتا ہے (نفس کیا ہے؟ خواہش مجرد) اب یہ عدم بسیط میں پہنچتی ہے۔ چونکہ قانونِ آفرینش کی مطابق کوئی ہستی اس وقت تک متشخص نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی ضد کے مقابل نہ آئے، اس لئے عدم میں پہنچتے ہی اس کو اپنے وجود کا عرفان ہو جاتا ہے گو یہ عرفان ابھی بہت ضعیف ہوتا ہے۔ اسی کو ”آنا“ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح روح، عقل اور نفس کے لطائف میں سے گزرتے ہوئے بقدر استعداد عقل اور نفس کے خواص کو اخذ کر لیتی ہے اسی طرح عدم میں سے گزرتے ہوئے تخریب و فنا کے تاخرات اور خواص کو بھی ساتھ ملا لیتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جو چیز اس مادی عالم میں ایک دفعہ پیدا ہو جاتی پھر کبھی فنا نہ ہو سکتی۔ عدم کے آخری کنارے پر عالم

امر ختم ہو جاتا ہے گویا اب تک اس کا وجود محض اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادہ میں مستور رہتا ہے اب یہ شعاع ھو میں داخل ہوتی ہے۔

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ ہر روح میں مبداء سے معاد تک اس کا پورا مقدر اس طرح پنہاں ہوتا ہے جس طرح بڑے رائی برابر بیچ میں اس سے پیدا ہونے والے تناور درخت کی پوری زندگی۔ اب لامل حالہ یہ روح یا تو دوزخی ہوگی یا جنتی۔ اگر دوزخی ہے تو عالمِ ناسوت کے کسی طبقے میں اس کے لئے کوئی خاص مقام مقرر ہوتا ہے جہاں مادی سفر کے بعد اس کو قیامت تک ٹھہرنا ہے۔ اگر جنتی ہے تو پھر جنت کے عوامل میں سے کسی عالم اور طبقے میں کوئی خاص جنت اس کے لئے مخصوص ہوتی ہے۔ اسی جنت کو اس روح کا مقام محمود کہتے ہیں۔

الغرض عالمِ امر کے ختم ہونے پر یہ روح عالمِ مثال کے مہینہ عوامل میں سے گزرتی ہوئی اپنے مقام محمود (یا دوزخی ہو تو عالمِ ناسوت میں اپنے مقام معاد) تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں وہ قدرے قیام کرتی ہے تاکہ اس مقام سے روشناس ہو جائے۔ حقیقتاً اسی مقام پر اس کو وہ وجود عطا ہوتا ہے جس کو بجا طور پر روحانی وجود کہا جا سکتا ہے۔ اب مقام محمود سے روانہ ہو کر باقی عوامل کو طے کرتی اور عالمِ ناسوت سے گزرتی ہوئی یہ ایٹم میں داخل ہوتی ہے جو مادے کی سب سے لطیف اور آخری حد ہے۔ ایٹم سے یہ حواس پنجگنا اور دیگر مادی خواص و قوی کو بقدر استعداد اخذ کرتی ہوئی کسی نظامِ شمسی کے آفتاب میں جاتی ہے اور اس سے جان یا روح حیوانی کی حرارت حاصل کر کے اس گزے میں پہنچ جاتی ہے جہاں اس کو پیدا ہونا ہوتا ہے۔ اب وہ بہ انتظام و قضا و قدر کسی کھانے پینے کی چیز مثلاً پھل، غلہ وغیرہ میں داخل کی جاتی ہے اور وہ چیز اس شخص کو کھلائی جاتی ہے جو اس کا باپ بننے والا ہے۔ صلب پدر سے یہ رحمِ مادر میں منتقل ہوتی ہے۔ نو ماہ وہاں مادی تعمیر میں بسر ہوتے ہیں، اس کے بعد انسان بن کر عالمِ مادی میں پیکر مادی پہن کر جلوہ افروز ہو جاتی ہے۔ اب جنتی اور جیسی زندگی مقدر ہو بسر کر کے عالمِ مثال میں اپنے مقام معاد یا مقام محمود کو واپس چلی جاتی ہے اور یوم الحساب تک وہیں مقیم رہتی ہے۔ اس کے بعد جو مالکِ یوم الدین چاہے گا اس کے ساتھ کرے گا۔ یہاں یہ بات خاص طور پر غور کرنے کی ہے کہ روح بسیط میں اپنے پہلے سرے سے چل کر یہ شعاع کس طرح درجہ بدرجہ لطیف سے کثیف تر ہوتی نطفہ تک پہنچتی ہے۔ نطفہ کیا ہے؟ وہ جرثومہ یا زندہ مادی اجسام کی وہ سب سے پہلی اور لطیف ترین یونٹ جو خوردبین سے بھی بمشکل نظر آتا ہے۔ یہی جرثومہ مادہ کے پیٹ میں اپنی غذا حاصل کر کے درجہ بدرجہ کثیف ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ مکمل ہو کر شکمِ مادر سے باہر نکل آتا ہے۔ اب ہم بتائیں گے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح سفرِ آخرت

کس طرح طے کرتی ہے۔ اس کے لئے اب ہم کو الٹا سفر کرنا پڑے گا یعنی عوالم میں ترتیب صعودی کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ تو بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے عالم مادی سے ملا ہوا عالم ناسوت یا دوزخوں کا عالم ہے۔ اب سنیے کہ اس عالم میں ہماری تحقیق کے مطابق بہتر (72) طبقات ہیں جن میں سے شروع کے چند طبقات میں بے برگ و گیاہ ریگستان اور بیابان اور جلے ہوئے خشک پہاڑ، دہشت ناک جنگل، کھولتے ہوئے پانی کے چشمے اور جھیلیں، آتش فشاں پہاڑ اور آگ سے بھری ہوئی وادیاں ہیں۔ پینے کے پانی کا کہیں نام و نشان نہیں اور ملتا بھی ہے تو گرم اور کڑوا، درختوں میں سوائے زقوم، ناگ پھنی اور خاردار جھاڑیوں کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد چند طبقات میں کسی قدر ٹھنڈا پانی، سرسبزی اور کچھ بہتر قسم کے جنگل اور آبادیاں ہیں۔ اس کے بعد ہر طبقہ پہلے طبقے سے بہتر ہوتا چلا گیا ہے۔ حتیٰ کہ بہتر واں طبقہ سرسبزی شادابی میں پچھلے تمام طبقوں سے بڑھا ہوا ہے اور عالم ملکوت کے پہلے طبقے کی جتنوں سے کچھ ہی کم ہے۔ یہ طبقہ ناسوت کے بالکل آخری سرے پر واقع ہے۔ اس کے آگے ایک دیوار ہے جس کا نام اعراف ہے۔ اسی کی نسبت سے یہ طبقہ اعراف کہلاتا ہے۔ دیکھیں سورہ اعراف آیت ۴۵ اور سورہ الحدید آیت ۱۳ میں ارشاد ہوا ہے۔ اس دیوار کے بعد جتنوں کے عوالم شروع ہوتے ہیں جن میں پہلا عالم ملکوت ہے۔ اعراف اور جنت کے پہلے طبقے میں یہ فرق ہے کہ جنت میں کھانا پینا اور عیش و عشرت کے سامان اعراف سے بہت بہتر ہیں اور بے محنت و مشقت میسر آتے ہیں۔ اعراف میں یہ سب چیزیں گھٹیا درجے کی ہیں اور محنت و مشقت سے ملتی ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اعراف کے لوگ (یعنی روحیں) دوسروں کو اپنے سے بہتر حالت میں دیکھ کر جلتے اور رنج کرتے ہیں جس کا کرب ہی ان کے لئے عذابِ دوزخ ہے۔ برخلاف ازیں جنت میں ہر شخص (روح) اپنی حالت پر خوش اور رگن ہے بلکہ دوسروں کو زیادہ اچھی حالت میں دیکھ کر اور بھی خوش ہوتا ہے۔ اس طرح جنت میں خوشی ہی خوشی ہے رنج کا نام نہیں۔ کاش ہم دنیا میں بھی یہی عادت اختیار کر لیں تو دنیا بھی جنت سے کم نہ رہے۔

اس بیان کو پڑھ کر بہت سے لوگ کہیں گے کہ اگر یہی امر واقعہ ہے تو پھر مادی اور روحانی عالم میں فرق ہی کیا رہ گیا تو جواب یہ ہے کہ واقعی عالم مثال (برزخ) سارے کا سارا قطعاً روحانی ہے، ہرگز مادی نہیں لیکن وہاں ہمارا جسم بھی تو روحانی ہوگا اور روحانی جسم کو روحانی عالم کی تمام کیفیات و کمیات مثلاً راحت، اذیت، سردی، گرمی اور نرمی و سختی وغیرہ بالکل ایسی ہی معلوم و محسوس ہوں گی جیسی کہ ہمارے مادی اجسام کو اس مادی عالم میں ہوتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن و احادیث میں عذابِ دوزخ اور وہاں کی تکالیف کا جو بیان ہے

مثلاً آگ، کھولتا ہوا پانی، کھانے کو زقوم اور خاردار درخت، پینے کو گرم پانی، لہو اور پیپ وغیرہ وغیرہ تو یہ سب بے معنی ہوتا۔ اس طرح جتنوں کے بیان میں جو حور و قصور، باغات، ماکولات و مشروبات اور دیگر لذائذ و نعمات کا ذکر ہے وہ بھی کوئی معنی نہ رکھتا۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے کلام پاک میں بیان کیا ہے لفظاً لفظاً درست ہے اور ایک مسلمان کو اسی طرح اس پر ایمان رکھنا چاہئے اس کی اور کوئی توجیہ نہیں ہے۔

ہاں تو اعراف کے بعد جتنوں کے عوالم شروع ہوتے ہیں جن میں پہلا عالم ملکوت ہے۔ اس کے چھینس طبقات ہیں جن میں سے ہر طبقہ پچھلے طبقے سے ہر لحاظ سے بہتر اور افضل ہوتا چلا گیا ہے۔ ملکوت کے بعد عالم جبروت اور اس کے بعد عالم لاہوت ہے۔ ان دونوں عوالم میں سے ہر ایک میں اٹھارہ اٹھارہ طبقات ہیں جن میں ہر طبقہ عمارت و امارت، وسعت و رفعت، سرسبزی و شادابی اور زہت و لطافت میں اپنے پچھلے طبقے سے کہیں زیادہ بہتر و برتر ہے۔ ان جتنوں میں جو محلات، قصور، باغات، نہریں، چشمے، پھل، پھول، ماکولات و مشروبات، حوریں، غلمان وغیرہ ہیں اور جو کیف و سرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور بقا سے حاصل ہوتا ہے ان سب کا بیان بخوف طوالت ترک کیا جاتا ہے جس کو شبہ ہو قرآن اور احادیث نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف رجوع کرے۔

یہاں تک ہم نے عالم لاہوت کا بیان کیا ہے۔ اب ہم اگلے عوالم کا بیان کرتے ہیں لیکن ایک مرتبہ پھر یاد دلانا ضروری ہے کہ ان عوالم میں سب سے بڑا فرق کثافت و لطافت کا ہے۔ عالم ناسوت کا پہلا طبقہ سب سے کثیف ہے۔ اس کے بعد ہر طبقہ پچھلے طبقے سے لطیف تر ہوتا گیا ہے۔ حتیٰ کہ عرش اور اس کے مرکزی نقطہ پر جہاں عین ذات کی حقیقت ہے اس لطافت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اب سنیے کہ عالم لاہوت کے بعد عالم ہاہوت ہے جس کے چودہ طبقات ہیں۔ اس عالم کا پہلا طبقہ لطافت میں اس قدر بڑھ گیا ہے کہ وہاں کی جنتیں اور ان کے قصور بڑی صاحب بصیرت روحوں کو بھی محض دھندلے نقوش کی طرح نظر آتے ہیں۔ اگلے طبقات میں یہ نقوش اور بھی لطیف ہوتے ہوتے محض خیالی رہ جاتے ہیں اور چودھویں طبقے میں تو صورت و اشکال کا تکمیل بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اس عالم میں صرف اُن اولیاء اللہ کی روحیں رہتی ہیں جو عرفان میں کمال حاصل کر کے اس دنیا سے گئے ہیں۔ اس کے بعد عالم ہو ہے۔ اس کے طبقات کا فرق تمیز نہیں ہوتا۔ پھر بھی ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ لطافت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایک نور کا سامیہاں ہے جہاں تجلیات الہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے اور ان تجلیات ہی میں ہر قسم کی لذتیں اور کوائف موجود ہیں۔ عالم ہو اُن بزرگوں کی روحوں کا

مسکن ہے جنہوں نے قرآنی آیت وَتَبَسَّلْ إِلَيْهِ تَبَسُّلاً پُرْعَمَلْ كَالْمِائِدَةِ اور حقیقی معنوں میں دنیا کی ہر چیز سے تعلق قلبی قطع کر کے صرف اللہ کے ہو گئے۔ دراصل جتنوں کے طبقات عالم لاہوت پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ باہوت اور صُوح جتنوں کے طبقے نہیں ہیں بلکہ جتنوں کے طبقات کی روح یا معنوی شکل ہیں۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں کہا گیا ہے کہ ”دوزخ بہت ہی بری جگہ ہے خواہ مستقلاً رہنے کے لئے ہو یا عارضی قیام کے لئے“ پھر اس رکوع کے آخر میں ارشاد ہوا ہے کہ ”جنت بہت اچھی جگہ ہے خواہ مستقلاً رہنے کے لئے ہو یا عارضی طور پر ٹھہرنے کے لئے“۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوزخ سے تو کبھی عذاب بھگتنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے لیکن جنتی جنت میں عارضی قیام کے بعد کہاں جائیں گے۔ تو وہ اگلے مقامات یہی باہوت اور صُوح کے طبقات ہیں۔ یہاں صرف انہیں بزرگوں کی رو میں رہیں گی اور رہتی ہیں۔ جنہوں نے جیتے جی اللہ کی محبت میں فنا ہو کر اس کا تقرب حاصل کر لیا اور جس روح کو جتنا زیادہ تقرب حاصل ہوگا وہ اتنا ہی عرش کے نزدیک والے طبقے میں رہے گی۔

عالم صُوح کے بعد علی الترتیب عدم بسیط، نفس بسیط، عقل بسیط اور پھر روح بسیط ہے پھر عرش کبریا اور اس کے مرکز میں ذات بحت یا وہ حقیقت کبریٰ ہے جس کی بابت وہ خود فرماتے ہیں۔ سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ یہی وہ ذات ہے جس میں کوئی صفت موجود نہیں یا بالفاظ دیگر کئیوں سمجھیں کہ تمام متضاد صفتیں اس طرح جمع ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی بالخصوص موجود نہیں کہی جاسکتی۔ مطلب یہ ہے کہ بیک وقت سب کچھ موجود ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس ذات بحت کی بھی کوئی حدود و انتہا نہیں ہے۔ ہر طالب اپنی اپنی استعداد کے مطابق دیکھتا اور عرفان حقیقت حاصل کرتا ہے اور اسی میں سب سے آگے کہیں وہ مقام ہے جہاں سرکارِ دو عالم ﷺ بھی بے اختیار پکارا ٹھٹھے ہیں۔ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ ”ہم نے تجھ کو ایسا نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا۔“

مندرجہ بالا بیانات سے آپ اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے کہ انسان کی روح ایک شعاع کی طرح ہے جس کی چوٹی یعنی پہلا سر اور بسیط میں ہے، دوسرا انسان کے جسم میں۔ سورہ ہود آیت 56 میں ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کو اللہ اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے نہ ہو۔ مَا مِنْ ذَاتٍ اِلَّا هُوَ اَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ط اس چوٹی سے یہی روح کا پہلا سر مراد ہے۔ چونکہ اب ہم یہ بیان کرنے والے ہیں کہ اس روح کے خواص کیا ہیں اور اس جسم فانی سے نکلنے کے بعد یہ کس طرح سفر آخرت طے کرتی ہے اور یہ مضمون بہت ہی مشکل ہے اس

لئے آسانی کی خاطر ہم اس شعاع کے پہلے سرے کو **الف** اور دوسرے کو **جیم** کہیں گے۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ الف اور جیم کے درمیان ہر روح کا مقام محمود ہے جہاں روح وجود امری سے وجود مثالی اختیار کرتی ہے اس مقام کو **ب** لکھیں گے۔ اس طرح پوری شعاع کا نام ہوا، **اب ج**۔ اب ہم **اب ج** کے کچھ خواص بیان کرتے ہیں جس سے بہت سے نادرونا معلوم نکات واضح ہوں گے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ سفر واپسی کس طرح طے ہوتا ہے۔ سلاست و وضاحت کی پوری کوشش کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ یہ باتیں اہل بصیرت و اہل عرفان حضرات کے سوا اوروں کی سمجھ میں پوری طرح ہرگز نہ آئیں گی۔ تاہم جو کچھ لکھا جاتا ہے ابلاغ علم اور تفکر کی غرض سے ہے۔

اب روح کے خواص و تاثرات کا جو کچھ قلیل علم و عرفان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو عنایت فرمایا ہے اس کا بیان سنیں۔

۱۔ روح ایک شعاع ہے یہ شعاع جب تک اللہ کا حکم یعنی موت نہ آئے ہمیشہ اور ہر وقت **ا** سے **ج** تک قائم رہتی ہے یعنی کوئی چیز نان کنڈکٹر (Non Conductor) بن کر اس کو منقطع نہیں کر سکتی۔

سورہ الفرقان آیت ۴۵ اور ۴۶ میں ارشاد ہوتا ہے۔

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظُّلَّ ج وَكُوْشَاۤءَ لَجَعَلَهَا سَا كِنًا نَّمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ مَسَّ عَلَیْهِ
ذَلِیْلًا ۝ نَّمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَیْنَا قَبْضًا یَسِیْرًا ۝

”یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کتنی لمبی کر دی ہم نے پر چھائیں۔ ہم چاہتے تو اس کو ٹھہرائے رکھتے لیکن پھر ہم نے سورج کو اس کی دلیل بنایا۔ پھر کھینچ لیا اس پر چھائیں کو اپنی طرف سب سے۔“

”علمائے ظواہر نے یہاں ظل سے مراد مادی اشیاء کا سایہ لیا ہے جو سورج سے پیدا ہوتا ہے۔ ایسے سائے کے لئے ضروری ہے کہ سورج پہلے سے موجود ہو۔ حالانکہ آیت میں پہلے پر چھائیں یا سایہ کو لمبا کرنے کا ذکر ہے اور یہ کہ ”ہم چاہتے تو اسے وہیں قائم رکھتے۔“ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ ”پھر ہم نے سورج کو دلیل بنایا اور پر چھائیں کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات کا مفہوم کچھ اور ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ کو یہ دکھانا چاہا ہو کہ انسانی روح کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ کہا ”دیکھو ہماری طرف“ جب رسول اللہ ﷺ نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے روح بسیط کی ایک روح مجرد کو حکم دیا ”ہو“ یہ حکم ملتے ہی اس روح نے شعاع، پر چھائیں یا ظل کی صورت اختیار کی اور بڑھ کر زمین تک آگئی

لیکن چونکہ اس کا پیدا کرنا مقصود نہ تھا اس لئے اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف (یعنی روح بسیط میں) کھینچ لیا اور رسول اللہ ﷺ کو فرمایا کہ یہ طریقہ ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا۔ باقی باتیں آپ سورج کی دلیل سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی شعاعیں کس طرح اس زمین کی مخلوقات کو زندہ رکھتی ہیں۔ واللہ اعلم۔ بہر حال یہ آیت اہل بصیرت کے تفکر کے لئے ایک بڑی نشانی ہے۔

۲۔ یہ شعاع اس قدر چمکیلی اور سریع السیر ہے کہ انسان پیدل یا سواری پر چاہے جس رفتار سے حرکت کرے اور جہاں چاہے جائے یہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے۔

۳۔ (سب اور ب سے حج تک اس شعاع کے ہر ذرہ میں اس انسان کا ایک پیکر مثالی (یا ہمزاد) موجود ہوتا ہے جو ہو بہو اسی کا ہم شکل ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ حج سے جس قدر آگے چلو ہر جسم پچھلے جسم سے لطیف تر ہوتا جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں ایک ہی جسم کے لا انتہائیت ہیں۔ ان کی بابت نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ بہت سے جسم ہیں نہ یہ کہ یہ سب ایک ہی جسم ہے۔ الفاظ میں یہ بات سمجھنا بہت ہی دشوار ہے۔ مندرجہ ذیل مثال سے شاید کچھ سمجھ میں آجائے۔

سینما ہال کا تصور کیجئے۔ ایک طرف آپریٹرز روم ہے دوسری طرف پردہ سیمیں اور دونوں کے بیچ میں دو سو فٹ لمبا ہال۔ آپریٹرز روم میں انجن اور مشینری وغیرہ ہے۔ ایک چرخ پر فلم چڑھی ہوئی ہے جس کے سامنے دیوار میں ایک سوراخ ہے۔ آپریٹرز فلم پر پیچھے سے روشنی ڈالتا ہے جو ایک تصویر پر پڑتی ہے اور تصویر روشنی کی شعاعوں پر سوار ہو کر ہال کی خلاء میں سے گزرتی اور پردہ پر زیادہ بڑی ہو کر نظر آنے لگتی ہے۔ مثلاً اس فلم کو روح بسیط خیال کیجئے اور اس تصویر کو جو روشنی کے ذریعہ پردہ تک پہنچی گئی ہے روح مجرد۔ پیچھے سے جو روشنی پڑ رہی ہے اس کو اللہ کا نور، ارادہ یا حکم۔ فلم کی سطح سے پردہ تک جو خلاء ہے اس کو عالم مثال اور خود پردہ کو عالم مادی۔ اب ہمارے ایک سوال کا جواب دیکھیے۔ فلم سے پردہ تک جو خلاء ہے کیا اس میں کوئی ذرہ بھی ایسا ہے جہاں وہ تصویر موجود نہ ہو جو فلم پر غیر متحرک ہے اور پردہ پر متحرک (یا جاندار) نظر آ رہی ہے اور یہ بھی بتائیے کہ فلم کی تصویر سے پردہ کی تصویر تک کوئی ذرہ بھر جگہ بھی ان شعاعوں میں ایسی ہے جہاں یہ تصویر موجود نہیں اور بتائیے کہ یہ ایک ہی جسم ہے یا بہت سے۔ مثالاً یقیناً دوسری باتوں کے لحاظ سے ناقص ہے مگر سمجھانے کے لئے ہمیں اس سے زیادہ اچھی اور مثال معلوم نہیں۔ اس مثال پر غور کریں اور فلم پر جو روشنی ڈالی جاتی ہے اس کو نور خدا فرض کر لیں تو آپ پر اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کا مطلب بھی خوب اچھی طرح واضح ہو جائے گا۔

۴۔ انسان کا دماغ اس کے حواس پنجگانہ، عقل اور تجربہ سے جو علم حاصل کرتا ہے۔ وہ مثالی اجسام کو بھی ان کی متناسب لطافت کے لحاظ سے منتقل ہوتا رہتا ہے، بصیرت باطنی بھی۔

۵۔ انسان کا قلب جن جذبات سے زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ مثالی اجسام پر بھی متاثر ہوتے ہیں۔

۶۔ انسان کا نفس عقائد و اعمال کی وجہ سے جو رنگ پکڑتا ہے وہی رنگ ان مثالی اجسام پر بھی متاثر ہوتا ہے۔

۷۔ انسان میں نیک یا بد اعمال سے کردار کی جو طاقت یا کمزوری پیدا ہوتی ہے وہ مثالی اجسام میں بھی متاثر ہوتی ہے۔

۸۔ یہ شعاع انسانی ارادے کی قوت کے مطابق چشم زدن میں کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک حرکت کر سکتی ہے۔ اگر یہ شعاع کسی کامل ولی اللہ کی روح کی ہو تو وہ ولی اللہ اپنی قوت ارادی سے (بحکم اللہ تعالیٰ) اپنے کسی مثالی جسم کو اس زمین یا کائنات میں (یہ طاقت پر منحصر ہے) جہاں چاہے مجسم طور پر ظاہر کر سکتا ہے یا اپنے اس جسم مادی کو جہاں چاہے منتقل کر لیتا ہے۔ یہی وہ راز ہے کہ اکثر اولیاء اللہ ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر موجود پائے گئے ہیں اور پائے جاتے ہیں۔ جس نے یہ طاقت حاصل کر لی یا جو اس کا علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی معراج جسمانی تھی۔

۹۔ خط ج ب اپنے اوپر والے حصہ ب ا کے ذریعہ قضا و قدر کی طرف سے نازل ہونے والے احکامات سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ (یہ تقدیر ہے)

تمام عالم مادی اور عالم مثال میں اپنے ارد گرد کے ماحول کا اثر بھی اپنی کمزوری اور طاقت کے لحاظ سے قبول کرتا ہے۔ (یہ حوادث ہیں)۔

جسم مادی سے جو افعال و اعمال سرزد ہوتے ہیں ان سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ (یہ تدبیر ہے)

۱۰۔ جب تک اس خط کا تعلق نقطہ جیم سے قائم رہتا ہے یہ زندگی کہلاتی ہے۔ جب یہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو اسی کو موت کہتے ہیں۔

موت اور سفرِ آخرت

جب حکم قضا صادر ہوتا ہے نقطہ ا نقطہ ب اور نقطہ ج کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کشش کا فطرتی

تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ ساری شعاع ج ب سمت کرنقطہ ب یعنی مقام محمود میں جمع ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا

بلکہ نقطہ ج ایک جھٹکا محسوس کرتا ہے اور شعاع کے تمام مثالی اجسام میں سب سے کثیف ہونے کے سبب

سرے سے الگ ہو جاتا ہے یا صحیح الفاظ میں یوں کہنے کہ الگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی کا نام موت ہے۔ اب ج کے جسم ماڈی کے سرے پر سے غائب ہوتے ہی اس کی جگہ وہ جسم مثالی لے لیتا ہے جو ج کے بالکل متصل تھا۔ اسی کو ہم مرنے والے کا روحانی جسم کہتے ہیں۔ ہم اس کو د کہیں گے اب یہ شعاع نسبتاً ہلکی ہو جانے کی وجہ سے سمٹ کر ناسوت کے پہلے طبقہ میں چلی جاتی ہے۔ اب اگر بہت بھاری اور کثیف ہے تو سرا د میں مقیم ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی قدر ہلکا ہے تو جتنا یہ ہلکا ہوتا ہے اسی نسبت سے شعاع ب کی طرف سمتی ہے اور لفظ ”د“ ”ب“ کی طرف بڑھتا ہے یعنی عالم ناسوت کو طے کرتا جاتا ہے۔ اگر شعاع کے ناسوتی حصہ کے سارے ہی اجسام (ہمزاد) ہلکے ہیں تو یہ ایک دوسرے میں سما کر ایک ہی جسم بن جاتے ہیں۔ اس طرح ناسوتی عالم میں شعاع کا جو حصہ تھا سب سمٹ جاتا ہے یعنی ناسوت طے ہو جاتا ہے اور ”د“ ملکوت یعنی جتنوں کے طبقہ اوّل میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شعاع کے ان حصوں کے مثالی اجسام بھی جو ملکوت، جروت اور لاہوت وغیرہ میں سے گزرتے ہیں متناسب طور پر ہلکے ہوں تو شعاع اور زیادہ سکتھ کر جروت، لاہوت یا اور آگے تک سمٹ جاتی ہے اور ”د“ اپنے مقام محمود پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی قیامت تک کے لئے سفر آخرت کا اختتام ہے۔ یہ بیان ذرا مشکل ہے اس لئے یہ بات اب ہم ذرا عام فہم انداز میں لکھتے ہیں۔

جب روح جسم سے نکلتی ہے تو تکبیرین اس کو عالم ناسوت کے طبقہ اوّل میں اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں سے اس کو سفر آخرت شروع کرنا ہے۔ اگر یہ روح ایسے آدمی کی ہے جو عالم آخرت اور اللہ کی لقا وغیرہ کا قائل نہ تھا یا سخت گنہگار اور صراطِ مستقیم سے نابلد محض تھا تو یہ روح وہیں قید ہو جاتی ہے یا عالم ناسوت کے طبقہ اوّل ہی میں بھٹکتی پھرتی ہے۔ (دیکھئے بارش کے پانی کی مثال جو پیچھے دی جا چکی ہے) سورۃ الانعام آیت نمبر ۳۱ میں ارشاد ہوتا ہے ”تحقیق نقصان اٹھایا انہوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو یہاں تک کہ جب آجائے گی قیامت ان کے پاس اچانک تو کہیں گے افسوس تقصیر کی ہم نے“ اسی آیت کے آخری ٹکڑے میں اور سورۃ عنکبوت کی تیرہویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بوجھ فرمایا ہے۔ اس لئے جو روح جتنی زیادہ گنہگار ہوگی اتنا ہی اس کو چلنا اور آگے بڑھنا مشکل ہوگا۔ ان میں بعض روحیں اس قدر بوجھل بھی ہوں گی جو مطلق چل ہی نہ سکیں گی بلکہ مفلوج یا بیمار کی طرح ایک ہی جگہ پڑی رہیں گی۔ بہر حال یہ اپنے اپنے گناہوں کی مقدار، تعداد اور نوعیت پر منحصر ہے۔ ناسوت کے ابتدائی طبقات میں دہکتی ہوئی آگ اور کھولتے ہوئے پانی کا عذاب بھی ہے۔ جو روحیں اس عذاب کی مستحق ہیں وہاں پہنچا دی جاتی ہیں۔ برخلاف ازیں جو روحیں ایمان

محکم، صحیح اعتقادات اور نیک اعمال کی وجہ سے ہلکی پھلکی، لطیف اور طاقتور ہوتی ہیں وہ ہلکی جیسی تیزی سے عالم ناسوت یعنی طبقات دوزخ کو طے کر کے تھوڑے ہی عرصہ میں اپنے مقام محمود پر پہنچ جاتی ہیں۔ انقیاء، اصفیاء، شہداء اور اولیاء کی ارواح اس قدر لطیف اور طاقتور ہوتی ہیں کہ چشمِ زدن میں اپنے مقام محمود پر پہنچ جاتی ہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کس وقت طبقات دوزخ میں سے گزرے تھے۔ تمام جنتی ارواح کی سمت سفر اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے۔ اسی واسطے فرمایا ہے۔ ”إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ“ (البقرہ: ۱۵۶) اور یوں بھی ارشاد ہوتا ہے۔ ”کُلُّ نَفْسٍ ذٰلِقَةٌ اِلَیْنَا ثُمَّ اِلَیْنَا تُرْجَعُونَ“ (العنکبوت: ۵۷) یعنی ”ہر نفس کو مرنا اور ہماری طرف واپس آنا ہے۔“ اس میں لفظ ”طرف“ خصوصاً قابل توجہ ہے۔ ”طرف“ کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے صرف سمت ظاہر کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے اندر مل جانا یا سما جانا ہے۔ جیسا کہ بعض صوفیاء اور عوام کہا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے۔ ”یَسْأَلُہَا الْاِنْسَانُ اِنَّکَ کَادِحٌ اِلَی رَبِّکَ کَذْحًا فَمُلَاقِیْہِہ“ (انشقاق: ۶) ”اے انسان تو جو اس کوشش سے اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے تو ضرور اس سے ملے گا۔“ اور یہ بھی فرمایا: لَنْسُکِبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (انشقاق: ۱۹) یعنی ”تم کو چڑھنا ہے (اللہ کی طرف) طبق طبق کر کے۔“ یہاں طبق طبق سے مراد عالم مثال کے وہی طبقات ہیں جن کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ طبق ہمیشہ ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں برابر برابر کے قطعات کو طبق نہیں کہتے۔

یہاں ہم یہ بھی عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ ان بیانات میں جو کچھ کہا گیا ہے اور جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مثلاً اوپر نیچے آگے پیچھے، دور اور نزدیک وغیرہ یہ سب سمجھانے کے لئے ہیں ورنہ عالم مثال اور عالم امر میں اطراف، وقت اور فاصلے کے وہ اندازے ہرگز نہیں جو اس عالم ماڈی میں ہیں لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں وقت اور فاصلہ وغیرہ موجود ہی نہیں وہ غلطی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں فرمایا ہے کہ ”اللہ کا ایک دن ایک ہزار برس کے برابر ہے۔“ اگر وقت اور فاصلے کی مزید حقیقت معلوم کرنی ہو تو ٹائم (Time) اور سپیس (Space) پر موجودہ زمانہ کی تحقیقات سے جو کتا ہیں لکھی گئی ہیں وہ پڑھو۔ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وقت اور فاصلے کا جو تصور تمہارے ذہن میں ہے اور جسے تم حقیقت سمجھتے ہو وہ تو صرف تمہارے ان حواس اور قوی کی وجہ سے ہے جو تم کو قدرت نے عطا کئے ہیں۔ اگر ایک ہوائی جہاز مشرق سے مغرب کی طرف اس رفتار سے سفر کرے جس رفتار سے زمین اپنے محور پر گھومتی ہے اور جس وقت وہ روانہ ہو اس وقت سورج افق مشرق سے صرف ایک درجہ بلند ہو چکا ہو تو اس جہاز کے لئے چوبیس گھنٹے ہمیشہ ایک ہی وقت رہے گا۔ یعنی سورج

ہمیشہ ایک ہی درجہ بلند نظر آثار ہے گا۔ یہی حال فاصلے کا ہے۔ اگر ہمارے قدموجودہ اوسط سے دس گنا بڑے ہوتے یا آئندہ ہو جائیں یا ہماری رفتار موجودہ اوسط رفتار سے بقدر دس گنا بڑھ جائے تو ہمارے لئے فاصلہ بقدر دس حصے کم ہو جائے گا۔ یعنی دس میل ایک میل کے برابر معلوم ہوگا۔ یہی حال بصارت کا ہے ادھر ایک آدمی لندن میں ٹیلی ویژن پر کھڑا ہو، ادھر وہ کراچی یا بمبئی بلکہ ساری دنیا میں ہر جگہ کے ٹیلی ویژنوں پر فوراً ہی نظر آئے گا یہی حال آواز کا ہے۔ ادھر نیویارک یا برطانیہ کے براڈ کاسٹنگ اسٹیشنوں پر کوئی بولا ادھر تمام دنیا کے ریڈیو اسٹیشنوں پر اس کی آواز پہنچ گئی۔ ایٹم کی ساخت پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ بجائے خود ایک نظام شمسی ہے جو اس ننھے ننھے معدوم ذرہ میں پوشیدہ ہے اور اسی قاعدے سے کام کر رہا ہے جس سے آسمانوں میں بڑے بڑے نظام ہائے شمسی کام کرتے ہیں۔ کیا ان چیزوں کے مطالعہ اور ان باتوں پر غور کرنے سے ایک نئی و قدیم اور قادر و توانا ہستی کا ثبوت نہیں ملتا جو ان سب کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہی ہے لیکن یہ ایمان انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو علم حاصل کر کے غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔

الحمد للہ کہ عالم روحانی کا بیان ختم ہوا۔ اب اس کے متعلق صرف چار پانچ باتیں اور بیان کرنی ہیں۔ یہ باتیں ان اعتراضات کا جواب ہیں جو متذکرہ صدر بیانات پڑھتے وقت دل میں پیدا ہوئے ہوں گے۔

پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ لکھا گیا ہم نے اپنے ذاتی کشف و عرفان کی بناء پر لکھا ہے۔ مگر ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ پہلے بزرگ ان باتوں کو نہیں جانتے تھے۔ بلاشبہ جانتے تھے لیکن مصلحتاً راز میں رکھتے تھے۔ اب زمانہ بدل گیا ہے۔ علم و اکتشافات کا دور دورہ ہے اور سائنس کا یہ عقیدہ کہ مادہ فنا نہیں ہوتا ختم ہو کر یہ نظریہ قائم ہو چکا ہے کہ مادہ ختم ہو کر انرجی (Energy) میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہیں سے عالم مابعد الطبیعات شروع ہوتا ہے۔ اگر سائنسی ترقی کی یہی رفتار رہی اور نوع انسانی لڑ لڑ کر تباہ نہ ہو گئی تو وہ دن دور نہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے ”کام کرنے والے“ بندوں کو ابھیر (ایٹر) پر دسترس عطا فرمادے گا۔ ایسا ہوا تو دنیا ہی بدل جائے گی۔ انسانی طاقت کا اندازہ ہی نہ رہے گا۔ خاص حالات میں مردوں کو زندہ کرنا، منٹوں میں ہزار ہا میل کا سفر طے کر لینا اور دوسرے ستاروں میں آنا جانا معمولی بات ہو جائے گی۔ اس وقت بھی اللہ کا پتہ تو نہ لگ سکے گا لیکن نبی تو توں کا بہت کچھ علم حاصل ہو جائے گا۔ اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ ان میں سے کچھ باتیں قلم بند کریں۔ ہم نے جا بجا قرآن کے حوالے بھی اسی لئے دیئے ہیں کہ صاحب فکر اور اہل حال حضرات اب ان زاویوں سے بھی آیات قرآنی پر غور کریں اور ہم سے زیادہ وضاحت کے ساتھ ان حقیقتوں کو دیکھ اور بیان کر سکیں جو اب تک

پردہ راز میں ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہم نہ تو ان باتوں کا کوئی عملی ثبوت دے سکتے ہیں نہ منطقی طور پر ثابت کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس کسی کو ”واقعی طلب“ ہو اسے راستہ بتادیں۔ رہی کامیابی تو یہ ہر شخص کی اپنی جہد، ظرف، استقلال اور درحقیقت اللہ کے فضل پر منحصر ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ ان بیانات سے اکثر حضرات کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ اہل کتاب اور کفار جو نیک عمل کرتے ہیں ان کی جزائے خیر ان کو ملے گی یا نہیں اگر نہیں ملے گی تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے اور اگر وہ بھی جتنوں میں جائیں گے تو پھر ان میں اور مسلمانوں میں فرق کیا ہوا۔ جواب یہ ہے کہ عالم مثال میں ہر پیغمبر کی امت کے لئے الگ الگ منطقے ہیں اور ان میں سے ہر ایک میں ناسوت سے لے کر کھونٹک پورے عوالم موجود ہیں جہاں اس امت کے تمام افراد اپنے اپنے اعمال کے مطابق ادنیٰ یا اعلیٰ مقامات میں رہیں گے، اور ہر امت کے کفار اپنے اعمال و اخلاق کے مطابق اپنی دوزخ کے کسی ادنیٰ یا اعلیٰ طبقہ میں جائیں گے، ناسوت سے آگے جتنوں کے عوالم میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ مسلمانوں کو دوسری امتوں پر یہ فضیلت ہے کہ اسلام چونکہ آخری مکمل اور بہترین دین ہے، اس لئے مسلمانوں کے لئے جو منطقہ ہے اس کی جتنیں بھی باقی سب منطقوں سے نعام و لطائف میں مکمل اور بہترین ہیں۔

چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے بیانات سے یہ خیال بھی پیدا ہوا ہوگا کہ اس طرح تو جو کچھ ہوتا ہے، تقدیر سے ہوتا ہے پھر آدمی تدبیر اور عمل کیوں کرے اور یہ کہ اس کو سزا کیوں دی جائے گی؟ یہ مسئلہ جبر و قدر سے متعلق ہے جو ہمیشہ سے ایک متنازعہ فیہ اور بحث طلب مسئلہ رہا ہے۔ اسلاف اور منتقدین نے اس پر ہزاروں صفحات تحریر کئے ہیں جن پر رجوع کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ اس لئے ہم صرف چند ایسی موٹی موٹی باتیں لکھتے ہیں جو عوام کی سمجھ میں بھی آجائیں۔

اس مسئلہ پر تحقیقی نظر ڈالیں تو تین سوال سامنے آتے ہیں۔

- ۱۔ جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو ہم عمل کیوں کریں؟
- ۲۔ جب مرنے کے بعد بخشش بھی اللہ ہی کی مرضی پر منحصر ہے تو ہم عبادت کیوں کریں؟
- ۳۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کافر ہی پیدا کرتا ہے اور کافر ہی مارتا ہے۔ جیسا کہ اس نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم

نے کثیر تعداد جنات اور انسانوں کی دوزخ کے لئے پیدا کی ہے تو اس کو دوزخ میں کیوں ڈالتا ہے، اس کا کیا تصور ہے؟

ان سوالات میں سے ہم ہر ایک کا الگ الگ جواب تحریر کرتے ہیں۔

پہلے سوال کا جواب

بلاشبہ قرآن میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے لیکن اسی قرآن میں ان سے کہیں زیادہ آیات ایسی بھی ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے کہ ”عمل کرو، عمل کرو، عمل صالح کرو“، ”کوشش کرو“، ”کوشش کرو“ کہ تمہارے لئے سوائے کوشش کے اور کچھ نہیں ہے۔ ان آیات کا ملاحظہ مفہوم بعض آدمی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو عمل ہم کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے کئی کہ گناہ بھی۔ مگر بات یوں نہیں بلکہ یہ ہے کہ تم عمل ضرور کرو کہ تمہارے لئے اس کے سوا چارہ کار نہیں لیکن اس بھول میں کبھی مبتلا نہ ہو کہ تمہارے اعمال کا نتیجہ بھی وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ نہیں بلکہ ان کا نتیجہ وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اعمال میں تو مختار ہو لیکن ان کے نتائج میں مجبور۔ مشاہدہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہزاروں آدمی کوئی خاص مقصد حاصل کرنے کے لئے پوری جدوجہد کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اگر انسان اپنے اعمال و افعال کے نتائج پر قادر ہوتا تو ہر انسان بادشاہ بننے کی کوشش کرتا اور آج ہر انسان اس دنیا میں بادشاہ ہوتا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اعمال و افعال کے نتائج صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ درحقیقت یہ خیال کہ انسان کے تمام برے بھلے کام خود اللہ کرتا ہے، اسی مسئلہ وحدت الوجود یا فلسفہ ویدانت کا پیدا کردہ ہے جس نے ہمارے نام نہاد صوفیوں اور ان کی بدولت ہمارے عوام کے دماغ میں یہ کافرانہ عقیدہ پیدا کر دیا ہے کہ ہر چیز خدا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض انسان خاص کیفیات میں کبھی کبھی ایسے خوارق بھی کر گزرتے ہیں جن پر وہ خود مطلع نہیں ہوتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ مگر ایسے انسان بہت ہی کم اور ایسی کیفیات شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتی ہیں۔ وہ معمولی قسم کے آدمی نہیں بلکہ بہت ہی بلند قسم کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل میں ہمیشہ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں تب میں اس کے کان، آنکھ، ہاتھ اور زبان بن جاتا ہوں۔ پھر وہ مجھ ہی سے (یعنی میرے ہی واسطے سے) سنتا، دیکھتا، بولتا اور پکڑتا ہے۔“ اس حدیث قدسی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مرتبہ ہر

انسان کو نہیں بلکہ صرف خاصان خدا کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اب مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ ایسے خاصان خدا بھی اس چودہ سو برس میں صرف گنتی ہی کے ہوئے ہوں گے۔ لہذا یہ خیال کہ ہر انسان سے جو فعل صادر ہوتا ہے وہ اللہ ہی کا فعل ہوتا ہے، ایک عام عقیدے کی حیثیت سے بالکل غلط اور سخت گمراہ کن ہے۔

اس بیان سے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اعمال و افعال کا نتیجہ کسی طرح بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہی حقیقت ہے اور اس حقیقت کو قرآن میں بہ انداز خاص ظاہر کر کے مسلمانوں پر احسانِ عظیم فرمایا ہے۔ کیونکہ اس تعلیم قرآنی کا نفسیاتی فائدہ یہ ہے کہ مسلمان کسی کام میں سخت محنت اور جدوجہد کرنے کے بعد بھی نا کامیاب ہو تو ہمت نہ ہارے، مایوس نہ ہو اور دل شکستہ ہو کر سست اعمالی میں مبتلا نہ ہونے پائے بلکہ یہ سمجھ کر خوش اور مطمئن ہو جائے کہ اگر اس کام کا وہی نتیجہ نکلتا جو میں چاہتا تھا تو وہ میرے لئے سخت مضر اور نقصان دہ ہوتا اور سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی تو کہا ہے کہ ”بعض باتوں کو تم اپنے لئے اچھا سمجھتے ہو حالانکہ اللہ ان کو تمہارے لئے اچھا نہیں سمجھتا“ اب اگر نفسیاتی نقطہ نظر سے اس تعلیم پر غور کیا جائے تو صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان کو سرگرم عمل رکھنے کے لئے اس سے بہتر طریقہ تعلیم ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر افسوس کہ جب سے ملت اسلامیہ یعنی پشتی میں مبتلا ہوئی ہے اس وقت سے ہم ہر ایسی تعلیم کے معنی لٹے سمجھنے لگے ہیں جو ہم کو ابھارنے اور سرگرم عمل رکھنے کے لئے دی گئی ہے۔ جیسا کہ قبل ازیں ”صبر“ اور ”توکل“ کے معانی کی تشریح میں بیان کیا جا چکا ہے۔

دوسرے سوال کا جواب

اس سوال کے متعلق قرآن میں تین قسم کی آیات ہیں۔ ایک وہ جن میں عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری وہ جن میں عبادت گزار بندوں سے بخشش کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تیسری وہ جن کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کو چاہیں گے بخشیں گے۔ چنانچہ آل عمران آیت ۱۲۹ میں صاف الفاظ میں فرمایا ہے بَغْفُرٍ لِّمَن يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَّشَاءُ ط کہ ”اللہ جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب کرے۔“ اب سست، کاہل اور عبادت کی معمولی تکالیف سے جی چرانے والوں نے پہلی دو قسم کی آیات کو نظر انداز کر دیا، تیسری قسم کی آیات کی آڑ لے کر لگے عبادت سے بچنے کے بہانے تلاش کرنے۔ مومن تو ایسا خیال بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ وسوسہ اگر کسی مسلمان کے دل میں آئے تو اسے اتنا تو سوچنا چاہیے کہ میں اگر ”واقعی عبادت“ کروں گا تو اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا بے انصاف نہیں کہ اپنا وعدہ پورا نہ فرمائے۔ ہاں اگر معترض کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو ہم بتاتے ہیں۔ سنو!

اللہ چونکہ انسان کا خالق ہے وہ اس کی فطرت اور طبیعت سے اتنا واقف ہے کہ خود انسان بھی واقف نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ بہت سے لوگ رسمی عبادت کرتے ہیں۔ جس میں خلوص کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سے ریاکار ہوتے ہیں اور اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ مثنیٰ پر ہیہزگار اور عبادت گزار مشہور ہو کر اہل دنیا سے طرح طرح کے فائدے اٹھائیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا گو وہ قیامت کے دن اپنی عبادت کو بطور حجت پیش بھی کریں۔ اس کے علاوہ ایک نفسیاتی نکتہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ سچ سچ خلوص سے عبادت کرنے والے ہیں وہ اس آیت کی موجودگی میں اپنی عبادت پر مغرور اور اللہ سے بے نیاز نہ ہو جائیں۔ خوب سمجھ لو کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں ایک مدت دراز تک عبادت کرنے کے بعد یہ خیال ضرور بیٹھ جاتا کہ ہم نے کافی عبادت کر لی ہے، اب تو اللہ بھی ہم کو دوزخ میں ڈالنے پر قادر نہیں۔ اس خیال کے جڑ پکڑتے ہی اللہ کا خوف رفتہ رفتہ ان کے دلوں سے نادانستہ طور پر نکل جاتا اور ان کی تمام سعادت اور لطافت روحانی آہستہ آہستہ مسخ ہو جاتی۔ ہماری اس تحریر کا یہ مطلب نہ لے لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات مصلحتاً کہہ دی ہے ورنہ وہ عابدوں کو دوزخ میں ڈالنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ۔ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ حقیقتاً اس بات پر قادر ہے کہ چاہے تو گنہگاروں کو بخش دے اور عبادت گزاروں کو دوزخ میں ڈال دے اور اس حقیقت کو ظاہر کر کے اس نے اپنے عبادت گزار بندوں پر احسان عظیم کیا ہے کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گمراہی سے محفوظ کر دیا۔

مندرجہ بالا بیان کی مزید وضاحت کے لئے ہم آپ کی توجہ دو غیر مسلم عقائد کی طرف منعطف کراتے ہیں۔ عیسائیت میں کفارہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو کر اپنی امت کا کفارہ ادا کر گئے۔ اب چاہے کوئی کتنے ہی گناہ کرے مرنے کے بعد وہ دوزخ میں نہیں جاسکتا۔ اس عقیدے کا نفسیاتی اثر اس کو ماننے والے پر کیا پڑ سکتا ہے۔ وہ گناہوں اور بد اعمالیوں پر جسارت کرے گا یا ان سے بچے گا اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اسی طرح ہندوؤں میں کرم یعنی اعمال کا عقیدہ ہے یعنی انسان کو اس کے ہر اچھے فعل کی جزا اور برے فعل کی سزا خود بخود ملے گی۔ خدا اس بات پر مطلق قادر نہیں کہ نیکیوں کو سزا دے اور گنہگاروں کو معاف کر دے۔ اس عقیدے کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان خدا پرست نہیں رہ سکتا۔ خدا سے تعلق تو اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب تک کہ اس میں خوف اور توقع دونوں ہی موجود ہیں لیکن متذکرہ صدر دونوں عقیدے نفسیاتی طور پر اللہ سے مکمل قطع تعلق کا موجب ہوتے ہیں۔ کیا اب بھی آپ اسلامی تعلیم کی خوبی پر شبہ کریں گے؟ یاد رکھیے آپ سے یہ

نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ غریب کیوں رہے؟ آپ نے علم کیوں حاصل نہیں کیا؟ آپ سے تو صرف یہ پوچھا جائے گا کہ جب آپ نے بخوشی اسلام قبول کر لیا تھا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے تو قرآن کے احکام پر عمل کیوں نہیں کیا؟ جن باتوں سے ہم نے منع کیا تھا وہ کیوں کیں اور جن کے کرنے کا ہم نے حکم دیا تھا وہ کیوں نہیں کیں؟

تیسرے سوال کا جواب

ایسے اعتراضات دل میں اس لئے پیدا ہوتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کے مقابلہ میں زیادہ سے زیادہ ایک بادشاہ کی مثال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ایک آدمی قصور وار نہیں تو بادشاہ کو کیا حق ہے کہ اسے سزا دے؟ معترض یہ کہہ نہیں سوچتا کہ بادشاہ تو خود مخلوق، مجبور اور فانی ہے، وہ خلقت میں دوسرے انسانوں کے برابر ہے، اسے واقعی حق نہیں کہ کسی بے قصور کو سزا دے لیکن اللہ تو خالق، قادر اور باقی ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ یہ وہی جانتا ہے کہ کیوں؟ لیکن بہر حال اپنی مرضی اور خواہش سے پیدا کیا اور جس طریقے اور ترکیب سے چاہا اور جس نچ پر چاہا اسی پر پیدا کیا، کسی سے مشورہ نہیں لیا۔ اسی لئے وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے۔ جہاں تک تجربہ اور مشاہدہ کا تعلق ہے اللہ نے مخلوق کو جوڑے جوڑے اور ایک دوسرے کی ضد پیدا کیا ہے۔ نرمادہ، گرمی سردی، سختی نرمی، خشکی تری، سفید سیاہ، خوشبو بدبو، تکلیف راحت، رنج و خوشی، صحت و بیماری، طاقت و کمزوری، نیکی بدی، برائی بھلائی، امیری غریبی الغرض جس پہلو سے نور کرو اور جس شے کو دیکھو اس کی ضد موجود ہے اور اصل تو یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی ضد کے بغیر مشخص و معلوم ہو ہی نہیں سکتی۔ جو مچھلی سمندر میں پیدا ہوئی ہو اس کو خشکی کی سختی اور دیگر کیفیات سے کبھی واسطہ نہ پڑا ہو اس کو پانی کی معرفت بھی حاصل نہیں ہو سکتی لیکن اگر اس کو خشکی پر ڈال دیا جائے تب وہ محسوس کرے گی کہ یہ کیفیات کچھ اور ہیں اور اس طرح اس کو پانی کا عرفان ہو جائے گا۔ پس اگر غریبی نہ ہوتی تو امیری کا وجود نہ ہوتا، بدی نہ ہوتی تو نیکی بھی نہ ہوتی، تکلیف و عذاب نہ ہوتا تو راحت و بخشش بھی نہ ہوتی، کفر نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا، دوزخ نہ ہوتی تو جنت بھی نہ ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہوتی جس کی ضد نہ ہوتی تو اس چیز کا وجود مشخص نہ ہوتا۔ اس لئے جس نچ پر اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس پر اعتراض کرنے کا حق صرف اسی کو ہے جو اس سے بہتر پیدا کر کے دکھا دے۔

ایک کہہ چاک پر کھلنے بنا رہا تھا۔ مٹی کی لگدی چاک پر رکھ کر اس نے آدمی بنایا۔ جب وہ مکمل ہونے

کے قریب آیا تو کہہ کر دل میں آیا کہ اسے بادشاہ بنائے تو اس نے اس کے سر پر تاج بنا دیا اور اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ اب دوسری لگدی چاک پر چڑھائی اور ایک آدمی اور بنایا۔ جب وہ مکمل ہونے کے قریب آیا تو کہہ کر اس کے ہاتھ میں کشکول بنا کر اس کو فقیر بنا دیا اور اتار کر بادشاہ کے برابر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کا دوست آیا۔ اس نے بادشاہ اور فقیر کے کھلونے دیکھ کر کہا کیوں بھی اس مٹی میں کیا خوبی تھی کہ تو نے اس کو بادشاہ بنایا اور اس مٹی کا کیا قصور تھا کہ اسے فقیر بنا دیا۔ کہہ کر اس نے کہا اچھا آپ کو اعتراض ہے تو لائیے میں بدل دیتا ہوں۔ چنانچہ دونوں کھلونوں کو توڑ کر جو پہلے بادشاہ تھا اس کو فقیر اور جو فقیر تھا اس کو بادشاہ بنا دیا اور پھر دونوں کو زمین پر رکھ دیا۔ اتنے میں ایک اور دوست آیا۔ اس نے بھی دونوں کھلونوں کو دیکھ کر وہی اعتراض کیا جو پہلے دوست نے کیا تھا۔ کہہ کر اس نے دونوں کھلونے توڑ کر پھر بدل دیئے۔ یعنی بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو پھر بادشاہ بنا دیا اور کھلونے پھر ایک طرف رکھ دیئے۔ ایک اور دوست آیا اور اس نے بھی وہی اعتراض کیا اور کہہ کر پھر کھلونے بدل دیئے اور دن بھر یونہی کرتا رہا۔ آخر بہت دیر بعد اس کی سمجھ میں آیا کہ اگر میں یونہی ہر ایک کی مرضی کے مطابق کرتا رہوں تو کچھ بھی کام نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ آئندہ اس نے عہد کیا کہ کسی کا بھی کہنا نہ مانے گا اور جو چاہے گا بنائے گا۔ یہ مثال بالکل ہی نامکمل ہے کیونکہ یہاں تو مٹی بھی کہہ کر کی بنائی ہوئی نہیں۔ اللہ نے تو مٹی بھی خود ہی بنائی ہے۔ پھر کہہ کر جان نہیں ڈال سکتا مگر اللہ نے تو جان، روح، نفس اور عقل و حواس بھی خود ہی پیدا کر کے انسانوں کو دیئے ہیں۔ پھر جب کہہ کر خدا کی بنائی ہوئی مٹی پر اتنا اختیار ہے کہ جس مٹی سے چاہے بادشاہ بنائے اور جس سے چاہے فقیر تو کیا خدا کو اتنا بھی اختیار نہیں۔ دیکھئے سورہ مومنون آیت اے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ** ”اگر اللہ لوگوں کی خواہش کے مطابق کام کرے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب درہم برہم ہو جائے۔“

اب رہے وہ جن اور آدمی جن کی بابت اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بنایا ہی دوزخ کے لئے ہے تو ان کو دوزخ میں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ وہ وہاں اسی طرح زندہ اور خوش رہیں گے جیسے آگ کا کیرا ”سمندر“ آگ میں رہتا ہے۔ ان کو اس لئے بنایا گیا ہے کہ جب مسلمان عذاب جھگتنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے تو دوزخ خالی نہ رہے۔ یاد رکھئے تکلیف بذاتہ کوئی چیز نہیں یہ تو نام ہے اس احساس کا جو کسی خاص حالت سے بہتر حالت کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ ان جہنمی دوزخیوں کو جنت کا علم ہی نہ ہوگا اس لئے انہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ لہذا آپ ان کا فکر نہ کریں اپنا فکر کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کو بھی تکلیف ہو تو یہ بات اللہ کے عدل کے

خلاف ہے۔ قرآن سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ دوزخ میں ہر ایک کو تکلیف نہ ہوگی۔ سورہ مریم آیت ۱۷ میں ہے کہ **وَأَنْ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا** ”تم میں سے ہر ایک کو دوزخ میں جانا ہے یہ تمہارے رب کا اٹل فیصلہ ہے۔“ اب بتائیے وہاں سے تو انبیاء اور اولیاء سب ہی گزریں گے تو کیا ان کو بھی تکلیف ہوگی؟ ہرگز نہیں۔

اب حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ انسان کو بالکل مجبور کہتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں اور جو بالکل مختار مانتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کہتے۔ تجربہ اور مشاہدہ تو یہ کہتا ہے کہ انسان جہاں بہت زیادہ مجبور ہے وہاں کسی قدر مختار بھی ہے اور اسی قدرے قلیل اختیار پر اس سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی۔ ورنہ اگر وہ سو فیصدی مجبور ہوتا تو قیامت کے دن اس سے باز پرس کا کوئی جواز نہ تھا۔ بچہ جس خاندان میں پیدا ہوتا اور جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اس کا ایک خاص اخلاقی، معاشرتی اور معاشی معیار ہوتا ہے اسی معیار کے مطابق اس بچے کا کردار بنتا ہے، اس میں وہ مجبور محض ہے۔ اس ماحول اور معیار خاندانی کی وجہ سے وہ جیسی کچھ تعلیم حاصل کرتا ہے، جیسے کچھ اخلاق اور ذہنیت اس میں پیدا ہوتی ہے اور جو کچھ ذریعہ معاش و اختیار کرتا ہے ان سب میں یقیناً وہ محض مجبور ہے لیکن عقل و تجربہ حاصل کر لینے کے بعد جب دو (۲) چیزیں اس کے سامنے آئیں جن میں سے ایک اچھی ہو دوسری بری، ایک مفید ہو دوسری مضر اور اس کو ان کی بھلائی برائی اور افادت و مضرت کا علم بھی ہو اور وہ ان دونوں میں سے ایک کو فی الوقت قبول کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو تو وہ مختار کامل ہے کہ دونوں میں سے جسے چاہے اختیار قبول کرے۔ اب اگر وہ مضر اور بری چیز کو قبول اور اختیار کرے تو یقیناً یہ اسی کا قصور ہے تقدیر کا قصور نہیں ہے۔ جس قدر بھی گناہ ہیں انسان کو ان کی مضر توں کا علم ہے۔ اگر وہ ایسے گناہ کر کے اپنی صحت یا روحانیت کو خراب کر لے، مفلس ہو جائے، جیل چلا جائے یا پھانسی پائے تو اس میں تقدیر کا کیا قصور ہے؟

یورپ کے اکثر مصنفین نے مسلمانوں کے زوال کی یہ وجہ بھی بیان کی ہے کہ وہ تقدیر کو مانتے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جن مسلمانوں نے قرون اولیٰ میں ترقی کی تھی وہ ہم سے کہیں زیادہ تقدیر کو مانتے تھے۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ وہ تقدیر کو عمل کے ساتھ مانتے تھے، ہم بے عملی کے ساتھ مانتے ہیں۔ وہ مٹھی بھر آدمی لے کر بڑے بڑے دشمنوں سے ٹکراتے تھے۔ سخت سے سخت تکالیف کو ہنستے ہوئے برداشت کرتے تھے۔ خوفناک مصائب کو مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہتے تھے۔ کیوں؟ محض اس لئے کہ وہ تقدیر کو مانتے تھے۔ ان کو قرآن کی اس آیت پر یقین محکم تھا کہ کوئی مصیبت نہیں آتی جو اللہ نے پہلے سے کتاب (تقدیر) میں نہ لکھ

دی ہو۔ (سورۃ الحدید آیت ۲۲) مگر ان کو اللہ کے اس قول پر بھی پورا ایمان تھا کہ ”ہر آدمی کی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آتا ہے تو ایک ساعت ادھر ہو سکتی ہے نہ ادھر“ وہ جانتے تھے کہ جو مصیبت آتی ہے آ کر رہے گی۔ مگر موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے کوئی مصیبت ہماری زندگی کو ختم نہ کر سکے گی۔ اس لئے وہ کہتے تھے کہ ہم عمل کیوں نہ کرتے رہیں جب کہ قرآن میں اس قدر تاکید سے عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مرتے دم تک عمل کرتے اور آگے بڑھتے رہتے تھے۔ برخلاف ان کے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا پھر ہم عمل کیوں کریں؟ ہم یہ نہیں سوچتے کہ عمل نہ کر کے ہم اللہ کی نافرمانی کے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں اور دن رات تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، تقدیر کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ لکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لئے ہیں اور لکھ کو اب مٹایا بدل نہیں سکتا۔ اللہ بقیۃً اس بات پر قادر ہے کہ نظام عالم کو ایک ڈھرے پر باقاعدہ چلانے کے لئے جو کچھ لکھ دیا ہے اس میں جب چاہے اور جو چاہے تبدیلی بھی کر دے۔ سورۃ زمر آیت ۳۹ میں ہے **يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُنۢبِئُ مَا وَعَدَ ۗ اُمُّ الْكِتٰبِ** کہ ”اللہ جو چاہتا ہے (لوح محفوظ میں سے) مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اصل کتاب تو اسی کے پاس ہے۔“

پانچویں بات

یہ ہے کہ ہمارے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عذاب ثواب مرتے ہی شروع ہو جاتا ہے حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ عذاب ثواب قیامت میں حساب کتاب ہونے کے بعد شروع ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں دونوں طرح کی آیتیں ہیں۔ ایسی جن سے عذاب ثواب کا ہونا بعد از قیامت ظاہر ہوتا ہے اور ایسی بھی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب ثواب مرتے ہی شروع ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے علمائے دین میں بھی دو گروہ ہیں لیکن بھاری اکثریت ہمیشہ انہی علماء کی رہی ہے جو مرتے ہی عالم برزخ میں عذاب و ثواب کے شروع ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ بظاہر ان دونوں قسم کی آیتوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں تضاد بیانی ہے لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن میں مطلق تضاد بیانی نہیں بلکہ جو کچھ کہا گیا ہے لفظ بہ لفظ درست ہے اور کسی تاویل یا لفظی کھینچ تان کی مطلق ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کی بے شمار قوموں میں سے ہر ایک قوم دوسری سے کسی نہ کسی قدر مختلف ہے، اسی طرح مرنے کے بعد ان کی روحوں میں بھی فرق ہوگا۔ ارواح

کے بعض گروہوں میں یہ فرق معمولی ہوگا لیکن بعض میں اتنا زیادہ جتنا کہ زمین و آسمان میں ہے۔ یہ گروہ اپنے احساسات اور علم میں اس قدر مختلف ہوں گے کہ قیامت کے دن بعض کو تو یہ بھی محسوس و معلوم نہ ہوگا کہ مرنے کے بعد اب تک کتنا وقت گزرا اور کیسے گزرا۔ بعض کو ان سے کچھ زیادہ احساس و علم ہوگا اور بعض کو بہت زیادہ۔ یوں کہنا چاہئے کہ بعض پر تو بے خبری یا خواب کی سی کیفیت طاری ہوگی۔ بعض کسی قدر ہوشیار ہوں گے اور بعض بیدار۔ چنانچہ قرآن سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت ۳۸ میں دو گروہوں کا ذکر ہے جن میں سے ایک دوسرے کی شکایت کو لے گا کہ یارب! ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، اس لئے ان کو دگنا عذاب دے تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ ”تم میں سے ہر ایک کو دگنا ہی عذاب ہو رہا ہے مگر تم جانتے نہیں۔“

اب اگر آپ غور کریں تو یہ کیفیت اس دنیا میں بھی پائی جاتی ہے کثیر تعداد انسان ایسی بے خبری اور بے حسی میں زندگی گزارتے ہیں کہ اگر سو برس بھی زندہ رہیں تو انہیں دنیا بلکہ خود اپنی حالت کا کوئی خاص علم اور احساس نہیں ہوتا کہ زندگی آرام میں گزری یا تکلیف میں۔ اسی طرح سینکڑوں تو میں ایسی ہیں جنہیں اپنی جہالت، مفلسی اور بے ماندگی کا ذرا احساس نہیں۔ غریبوں اور گدا گروں کی بستیوں میں جا کر دیکھو۔ پہننے کو پھٹے کپڑے اور جھیتڑے، رہنے کو ٹوٹی ہوئی جھونپڑیاں، کھانے کو سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے۔ مگر پھر بھی اپنی حالت میں لگن ہیں۔ ہنستے بھی ہیں، قہقہے بھی لگاتے ہیں، گاتے بجاتے بھی ہیں اور زندگی کا پورا لطف اٹھاتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ انہیں اپنی فلاکت اور مفلسی کا علم اور احساس نہیں ہے اگر ان کو اپنی حالت کا صحیح احساس ہو جائے تو خود کشی کر کے مرجائیں یا امراء کو قتل کر کے ان کی دولت اور محلات پر قبضہ کر لیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تکلیف و راحت بذات خود کوئی چیز نہیں صرف اس علم و احساس کا نام ہے جو مختلف حالات و کوائف کے تقابل سے حاصل ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ میں ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ”جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اس کو حکم دیا کھڑی ہو وہ کھڑی ہوگی، پھر کہا بیچھے ہٹ وہ بیچھے ہٹ گئی۔ پھر فرمایا بیٹھ وہ بیٹھ گئی۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے تجھ سے بہتر، افضل اور عمدہ کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ تیرے ہی سبب سے مواخذہ کرتا ہوں، تیرے ہی سبب سے پچھانا جاتا ہوں، تیرے ہی سبب سے غصہ کرتا ہوں، تیری ہی وجہ سے ثواب ہے اور تجھ پر ہی عذاب ہے۔“ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو مرنے کے بعد جو عذاب ثواب ہوگا وہ اس کو اپنی عقل و سمجھ کے مطابق ہوگا یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ ہر شخص عذاب ثواب کو اپنی سمجھ کے مطابق محسوس کرے گا۔ اگر آپ کو اس بارے میں کچھ شک ہے تو رسول اکرم ﷺ کی دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے

جو زیادہ واضح ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ”آدمی نمازی بھی ہوتا ہے، روزہ دار بھی، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج عمرہ بھی کرتا ہے لیکن قیامت کے روز عقل کے مطابق اس کو جزا سزا دی جائے گی۔“

متذکرہ صدر آیت کو ان حدیثوں کے ساتھ ملا کر سوچنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہر شخص کو جس طرح دنیا میں تکلیف و راحت کا احساس اپنے علم و عقل کے مطابق کم یا زیادہ ہوتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہوگا۔ مختصر یہ کہ بہت سی روحیں اس قدر بے حس اور بے خبر ہوں گی کہ جب میدان قیامت میں لائی جائیں گی تو کہیں گی ”ہم تو ابھی سوئے تھے“ یا یہ کہ ”ہم تو دنیا میں صرف ایک دن رہے تھے۔“ وغیرہ وغیرہ لیکن ایسی روحیں بھی ہوں گی جن کو دنیا کی زندگی اور موت سے قیامت تک کی زندگی کا علم و احساس نسبتاً بہت زیادہ ہوگا۔ انہی کو اللہ نے قرآن میں علم والا کہا ہے کہ ”علم والے جانتے ہیں کہ تم کتنے دن رہے۔“ سرکارِ دو عالم ﷺ کی ایک حدیث اور بھی ہے جس میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”قیامت میں حساب کتاب کے لحاظ سے تین گروہ ہوں گے ایک وہ جس کا حساب کتاب بالکل نہ ہوگا، دوسرا وہ جس کا آسان ہوگا اور تیسرا وہ جس کا بہت مشکل ہوگا۔“ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کی وجہ سے اپنے مقام محمود یا مقام معاد تک پہنچ چکے ہوں گے ان کے حساب کتاب کی ضرورت نہ ہوگی۔ جو لوگ قریب ہوں گے ان کا حساب کتاب آسان ہوگا لیکن جو لوگ دور ہوں گے ان کا حساب کتاب واقعی سخت اور مشکل ہوگا۔ یعنی جتنا عذاب اعمال کی رو سے ہونا چاہیے وہ دے کر ان کو ان کے مقام محمود تک پہنچایا جائے گا۔

اب معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کیا ہے؟ جیسا کہ لفظ قیامت سے ظاہر ہے، اس کے معنی ”قیام“ یا ٹھہر جانے کے ہیں۔ یعنی اس وقت کائنات کا ذرہ ذرہ متحرک ہے (جیسا کہ اب سائنسی اکتشافات سے ثابت ہو گیا ہے) لیکن قیامت کے دن یہ حرکت بند ہو جائے گی اور ہر شے اپنے خالق کے سامنے مؤذّب اور ساکت و صامت کھڑی ہو جائے گی جیسا کہ نماز میں قیام کے وقت ہوتا ہے۔ حرکت بند ہو جانے سے چیزوں کی جو شکل و صورت اب نظر آتی ہے معدوم ہو جائے گی اور جتنے پردے پڑے ہوئے ہیں، اٹھ جائیں گے اور ہر شخص کو اپنے علم و عقل کے مطابق معلوم ہو جائے گا کہ میرا مقام اور مرتبہ قرب اور عرفان باری تعالیٰ کے لحاظ سے کیا ہے۔ سورہ ہود رکوع ۹ آیت ۱۰ میں ہے کہ ”دوزخی دوزخ میں اور جنتی جنت میں رہیں گے جب تک یہ زمین و آسمان قائم ہیں۔“ پھر سورہ ابراہیم کی آیت ۴۸ میں ہے ”اس دن کہ بدلی جاوے یہ زمین اور زمین سے اور یہ آسمان اور آسمان سے۔“ ان آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوزخی قیامت کے دن تک دوزخ میں اور جنتی جنت

میں رہیں گے اور قیامت کے دن جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تو ان کو ان نئے بدلے ہوئے دوزخوں اور جنتوں میں جگہ دی جائے گی۔ قرآن میں یہ بھی ہے کہ قیامت میں لوگ اسی جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے (سورہ قیامتہ آیت ۳) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق نئی جنتیں اور دوزخ عطا ہوں گے اور پھر وہ انہی اجسام کے ساتھ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ بہر حال قیامت کا صحیح علم اللہ اور اللہ کے رسول ہی کو ہے۔ مگر سورہ ہود اور سورہ ابراہیم کی مندرجہ بالا آیات سے اتنا یقیناً ثابت ہوتا ہے کہ عذاب و ثواب مرتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔

اتنا بیان کرنے کے بعد اب ہم بتاتے ہیں کہ سلوک سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔

====☆☆☆☆====

سلوک کا حاصل

پہلا دور

- ۱۔ کسی کامل بزرگ سے بیعت ہونے یا تعلق قلبی پیدا کرنے اور پیچھے بتائے ہوئے دس قاعدوں پر اچھی طرح عمل کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز یہ حاصل ہوتی ہے کہ طبیعت میں ایک عجیب الطینان و اذقان اور خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔
- ۲۔ ذوقِ طلب بڑھنے لگتا ہے، نیکیوں کی طرف میلانِ طبع زیادہ ہو جاتا ہے، برائیوں سے بچنے کا ارادہ مستقل ہو جاتا ہے۔

۳۔ عبادت میں دل لگتا ہے، ذکر میں مزہ آنے لگتا ہے اور ایک سرخوشی سی طاری ہونے لگتی ہے۔

۴۔ کسی کسی وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جس سے بڑا کیف و سرور محسوس ہوتا ہے اور ہر حرکتِ قلب پر بلا ارادہ پاسِ انفاس جاری ہو جاتا ہے۔ اسی کو قلب کا جاری ہونا کہتے ہیں۔ اکثر سالکوں کو یہ نہیں ہوتا۔

۵۔ دل میں ایک ہلکا سا سوز یا حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ کیف و سرور بڑھتے بڑھتے نشہ، سرمستی، بے خودی اور سیبہ مستی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو صوفی شعراء نے اپنے کلام میں شراب کہا ہے اور بعد میں تصوف سے نابلد شاعروں نے محض تقلیداً اپنے اشعار میں اس کثرت سے باندھا ہے کہ عوام اس کو یہی دنیاوی شراب سمجھنے لگے جو حرام ہے۔ اس کیفیت کو جذب بھی کہتے ہیں۔ سالکوں کے لئے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور نعمت ہے۔ یہ چیز عبادت اور ذکر سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ مرشد کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ یہ سرورِ دو عالم ﷺ کا عطیہ اور امانت ہے اور اس لئے ملتی ہے کہ اس کے کیف و سرور میں دنیا کی تمام خرافات نہایت آسانی سے نفی ہو سکتی ہیں اور سالک اس کیف و سرمستی میں ہر قسم کی تکلیف کو بخوشی برداشت بلکہ نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ کیفیت غیر مسلم درویشوں مثلاً سادھوؤں اور راہبوں میں بھی پائی جاتی ہے لیکن اہل

حال اور صاحبِ نظر جانتے ہیں کہ ایک غیر مسلم کی گرمی اور ایک مومن کی حرارت قلبی یا جذب میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ وہ نقل ہوتی ہے یہ اصل، وہ پیتل ہوتا ہے یہ سونا۔ یہ جذب دراصل ایک مرکب ہے جس پر سوار ہو کر سالک راہِ سلوک کو بہت آسانی سے طے کر سکتا ہے لیکن افسوس کہ آج کل اسی کو سلوک اور بزرگی کا حاصل سمجھ لیا جاتا ہے۔ جس کے قلب میں یہ پیدا ہو جائے اگر اس کا مرشد یا استاد کامل نہ ہو تو وہ اس مرکب پر سوار ہو کر اگلی منازل طے کرنے کی بجائے خود اسی مرکب کی تواضع اور پرورش میں مصروف ہو جاتا ہے اور اسی میں مرجاتا ہے۔ بعض قلوب میں حرارت کی بجائے برف جیسی ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے لیکن سرور و کیف اس میں بھی وہی ہوتا ہے جو حرارت میں۔ جذب کے پیدا ہوتے ہی سالک کو تھوڑا بہت کشف بھی حاصل ہو جاتا ہے اور معمولی قسم کی کرامات بھی سرزد ہونے لگتی ہیں اور اس میں ایک ایسی متنطیسی کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کی طرف خواہ مخواہ رجوع ہونے اور اس کی ہر بات پر لبیک کہنے لگتے ہیں۔ ان رجوعات سے سالک کو بہت سخت نقصان پہنچ سکتا ہے اول تو اس کے دل میں غرور اور کبر پیدا ہو جاتا ہے جو روحانی بلندیوں تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دوسرے رجوع ہونے والوں میں عوام بھی ہوتے ہیں امراء بھی، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں اور لڑکے بھی اور یہ سب اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اس وقت اگر سر پر مرشدِ کامل کا ہاتھ نہ ہو تو سالک ایسی نازیبا اور قبیح حرکات کر بیٹھتا ہے کہ یہ دولت اس سے چھین لی جاتی ہے اور وہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ جذب کو مسمریزم یا پناہ نزم کی قوت نہ سمجھ لینا، یہ ان سے ہزار گنا زیادہ لطیف اور پراثر ہوتی ہے۔ جو مرشد اپنے مریدوں کو یہ طاقت ان کے اخلاق کی کافی اصلاح ہونے سے پہلے ہی دے دیتے ہیں وہ ان پر عنایت نہیں ظلم کرتے ہیں اور ان کی تباہی کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ طاقت اس وقت عطا کرنی چاہیے جب مرید میں کافی قوتِ برداشت پیدا ہو جائے اور وہ مجاہدہ اور تزکیہ اخلاق میں ایک معیاری مرتبہ حاصل کرے۔

جذب سے ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے وہ یہ کہ بعض سالکوں کا ظرف اس بارِ عظیم کا تحمل نہیں ہو سکتا اور وہ مسلوب الحواس اور مغلوب العقل ہو جاتے ہیں اور مجذوب کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں کی عاقبت تو یقیناً اچھی ہوگی کیونکہ راہِ خدا ہی میں ان کا یہ حال ہوتا ہے لیکن دنیا خراب ہو جاتی ہے جو شرعاً جائز نہیں۔ یہ لوگ نہ صاحبِ ارشاد ہوتے ہیں نہ قابلِ تقلید۔ جاہل عوام ان کو اولیاء اللہ سمجھ کر ہر وقت ان کے گرد جمع رہتے ہیں اور خدا کو بھول کر انہی سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں جو شرک ہے۔ اس لحاظ سے مجذوبیت قوم کے لئے ایک نقصان رساں چیز ہے۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر ایک مرشدِ کامل کا فرض ہے کہ وہ اپنے مریدوں اور طالبوں کے ظرف پر نگاہ

رکھے اور ان کے جذب کو ضروری حد سے آگے نہ بڑھنے دے ورنہ اس مرید کے بال بچوں کی خواری اور امت رسول اللہ ﷺ کی ترک خدا پرستی کا ذمہ دار ہوگا۔

اگر کسی سالک میں جذب کی کیفیت خطرناک طور پر زیادہ ہونے لگے تو اسے کم کرنے یا روکنے کی ترکیب یہ ہے کہ اس کو دنیاوی کاموں میں مصروف رکھا جائے۔ اس کے اذکار کم یا ضرورت پڑے تو عارضی طور پر بالکل بند کر دیئے جائیں۔ جذب کی زیادتی اگر اعلیٰ مدارج پر پہنچ کر ہو تو سالک کو تفکر کی مشق شروع کر ادینی چاہیے۔ جذب جب اعتدال پر ہوتا ہے تو اس کو بسط کہتے ہیں اور جب بالکل نہیں رہتا تو اس کو قبض۔ قبض کی کیفیت سالکوں کے لئے قیامت ہوتی ہے لیکن یہ ایک قدرتی بات ہے۔ ایسا کوئی سالک نہیں ہو سکتا جس کو قبض نہ ہوتا ہو۔ قبض کوئی بری چیز نہیں یہ طبع انسانی کا تقاضا ہے۔ کوئی سالک بلکہ انسان کبھی ایک کیفیت پر قائم نہیں رہتا۔ ہر کیفیت تدریجاً بڑھتی یا کم ہوتی رہتی ہے۔ کبھی ناقابل برداشت طور پر بڑھ جاتی ہے، کبھی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ہر قبض کے بعد جب بسط ہوتا ہے تو سالک اپنے آپ کو پہلے سے آگے پاتا ہے۔ رسالت مآب ﷺ پر بھی مختلف کیفیات طاری ہوتی تھیں۔ سورہ الضحیٰ ایسے ہی موقع پر ہی نازل ہوئی تھی اور اس میں جوارشا ہوا ہے کہ ”آپؐ کی ہر آخری یعنی آنے والی حالت گزری ہوئی حالت سے بہتر اور اچھی ہوگی“ اس کا یہی مطلب ہے کہ جب بھی آپؐ کی کیفیت بدلے گی آپ کو اپنے کو بسط کی پہلی حالت سے زیادہ بہتر حالت میں پائیں گے۔ اس لئے قبض سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے اور اس کو سلب نہ سمجھنا چاہیے۔ سلب تو گناہوں کی وجہ سے اور وہ بھی متواتر اور ادا کرتے رہنے سے ہوتا ہے۔ اللہ ہر سالک کو اس سے محفوظ رکھے۔

بہر حال قبض اگر طویل اور ناقابل برداشت ہو تو اس کو دور کرنے کی تدابیر یہ ہیں کہ سالک نماز، تلاوت اور خصوصاً تہجد کے نوافل میں زیادہ اہتمام کرے، روزے رکھے، ایسی صحبت میں بیٹھے جہاں اللہ اور رسول کا تذکرہ ہو، جنگل دریا، پہاڑوں اور مرغزاروں کی سیر کرے، سوز و گداز پیدا کرنے والی کتابیں پڑھے، اگر چشتیہ انداز کی طبیعت رکھتا ہے تو سماع کی محفلوں میں شریک ہو۔

۶۔ جو لوگ نقشہ بند یہ طریقہ سے ذکر وغیرہ کرتے ہیں ان کے لطائف مثلاً قلب، روح، سر، خفی، انحاء وغیرہ جاری ہو جاتے ہیں۔ یعنی ذکر کرنے لگتے ہیں یا روشن ہو جاتے ہیں یعنی سالک کو ان کا نور نظر آنے لگتا ہے۔ مثلاً زرد، سرخ، سفید، سبز اور سیاہ وغیرہ۔ یہ نور کسی شاغل کو محض جگنو کی طرح نظر آتا ہے، کسی کو چراغ کی طرح اور کسی کو اتنا کہ سارا کرہ منور ہو جاتا ہے اور کسی کو اتنا کہ آسمان وزمین اس میں غائب ہو جاتے ہیں اور کسی کو

مطلق نظر نہیں آتا۔ ان لطائف کا ذکر تصوف کی کتابوں میں مل سکتا ہے اس لئے ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔

۷۔ سچے خواب نظر آنے لگتے ہیں، کشف القبور ہو جاتا ہے اور بیداری میں روحوں نظر آنے لگتی ہیں۔ یہ بھی اگرچہ ایک نعمت ہے لیکن بہت بڑی آزمائش بھی ہے جذب کی طرح کشف القبور اور رویت ارواح میں بھی کئی بڑے خطرے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ تماشا بہت دلچسپ ہوتا ہے اور اسے چھوڑ کر آگے بڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ دوسرے یہ کہ اکثر سالکوں کے دل میں اس کی وجہ سے کبر و غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اکثر سالک رویت ارواح ہی کو انتہائے بزرگی اور منہبائے سلوک سمجھ لیتے ہیں۔ ان تینوں باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تمام اشغال و اواراد سے دستکش ہو جاتے ہیں جو تکمیل سلوک کے لئے ضروری ہیں۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ تو سلوک کی الف ب ت ہے۔ ابھی تو دائرۃ ولایت میں پہلا قدم بھی نہیں رکھا گیا۔ ہم خود کئی ایسے طالبوں کو جانتے ہیں جو اس مقام پر ایسے پھنسے کہ پھر آگے نہ بڑھ سکے اور اپنے اصلی مقصد یعنی حصول معرفت و رویت باری تعالیٰ سے محروم رہ گئے۔ اس لئے طالبانِ راہِ حق کے فائدہ کی غرض سے عرض کیا جاتا ہے کہ اگر یہ مشاہدات پیش آئیں تو انہیں پر پٹہ کے برابر بھی وقعت نہ دو، ہو سکے تو بالکل لٹی کر دو، نہ ہو سکے تو نظر انداز کر کے برابر آگے بڑھتے رہو اور اس وقت تک قدم ہمت کو مست نہ ہونے دو جب تک کہ عدم سے پار نہ ہو جاؤ کہ اصل حقائق کا پتہ عدم سے آگے ہی لگتا ہے۔

جو لوگ مشاہدہ ارواح کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج کل یورپ اور امریکہ میں میسوں سپر چوکل (Spiritual) سوسائٹیاں ایسی ہیں جہاں مردہ انسانوں کی روحوں کو بلایا جاتا ہے اور مجسم کر کے ان کے رشتہ داروں وغیرہ سے ملایا جاتا ہے۔ ان روحوں کے فوٹو لئے جاتے ہیں۔ کئی روحوں دنیا والوں کے لئے پیغامات اور مضامین قلم بند کراتی ہیں۔ ایک روحانی میگزین میں ہم نے ایک ایسے ڈاکٹر کا حال پڑھا جو مر چکا تھا لیکن اس کی روح نے مجسم ہو کر ایک بیمار کا آپریشن کیا جو تندرست ہو گیا۔ ناممکن ہے کہ ایسے بیانات جو علی الاعلان اخباروں اور ماہناموں میں شائع ہوتے ہیں از سر تا پایا غلط اور جھوٹ ہوں۔ ہمیں یورپ سے آنے والے کئی اعلیٰ درجہ کے تعلیم یافتہ اور ثقہ دوستوں نے بھی بتایا کہ یہ روحانی جلسے انہوں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں۔ ہم نے خود اوائل عقنوان میں ایک ایسا آدمی دیکھا جو گھر بیٹھے بیٹھے دور دراز مقامات سے ہر وہ چیز جو آپ چاہیں اور جس کی آپ قیمت ادا کر دیں منگا دیتا تھا۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ یہ لانے والا جن ہے یا ہمزاد تو اس نے بتایا کہ یہ ایک روح ہے جو عرصہ سے میرے ساتھ رہتی ہے اور مرتے دم

تک رہے گی۔ اس واقعہ سے پہلے ہم ان باتوں کو غلط اور جھوٹ سمجھتے تھے لیکن پچھم خود دیکھنے کے بعد ہمارے خیالات میں بڑا انقلاب آیا اور ہم نے بھی اس عمل کو حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ کا فضل شامل حال تھا کہ اس نے ہم کو اس خرافات سے محفوظ رکھا (کیونکہ باوجود صحیح ہونے کے یہ باتیں واقعی خرافات ہیں) اور اپنے رستہ پر ڈال دیا۔

ہاں تو ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ یورپ و امریکہ میں جو لوگ یہ تماشے دکھاتے ہیں اور میڈیم کہلاتے ہیں بالکل معمولی آدمی ہوتے ہیں، ولی نہیں ہوتے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روجوں کا نظر آنا یا روجوں کو بلانے کی طاقت کا پیدا ہونا جانا معرفت و رویت باری تعالیٰ کی کوشش کے مقابلہ میں پر کاہ جتنی بھی وقعت نہیں رکھتا اور سلوک و حکمت میں اس کا کوئی خاص درجہ نہیں ہے۔ ہاں انبیاء، اولیاء وغیرہ کی روجوں کی زیارت باعث سعادت و برکت ہوتی ہے یا کسی بزرگ کی روح سے فیض پہنچے (دنیاوی فوائد مراد نہیں ہیں) یا علم حاصل ہو تو یہ کام کی بات ہے لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔

۸۔ کشف و کرامات کی طاقت آجاتی ہے۔ اس دور میں اگرچہ کشف و کرامات بہت ہی معمولی قسم کی ہوتی ہیں لیکن مبتدی ان کو بھی بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں اور بڑی بزرگی سمجھتے ہیں۔ یہ اگرچہ بڑی مبارک نعمت ہے لیکن اللہ کا فضل نہ ہوتا یہ چیز بھی بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اکثر سالکوں کو اس سے غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ غرور نادانستہ طور پر اس طرح دل میں سما جاتا ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا اور رفتہ رفتہ سالک کی ترقی بند ہو جاتی ہے۔ آج کل اسی کو اعلیٰ درجے کی بزرگی سمجھا جاتا ہے اور اس سے آگے بڑھنے کا خیال تک نہیں آتا۔ اس دور میں کشف یہ ہوتا ہے کہ ماضی یا مستقبل کی کچھ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں لیکن یہ بات تو غیر اولیاء کو بھی بے انتہا حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً نجومی، رمال، جفار اور ہاتھ دیکھنے والوں کو، اس لئے اس پر غرور و فخر بریکار ہے۔ یہ چیز حکمت کا حاصل یا مقصود نہیں ہے بلکہ غور کیا جائے تو راستہ کی رکاوٹ ہے۔ مسلمان سالک ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، راستہ چلتے خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ مگر غیر مسلم بے انتہا ریاضت اور جدوجہد سے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوگ کا حاصل یہی چیزیں ہیں۔ کرامت کو معیار ولایت قرار دے لینے سے تین خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ولی اور یوگی میں تمیز نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ کہ طالب کو ان پر غرور پیدا ہو جانے سے ترقی بند ہو جاتی ہے۔ تیسرے یہ کہ عوام خدا کو بھول کر کرامت دکھانے والوں کی پرستش میں لگ جاتے ہیں اور یہ خرابی سب سے بڑی اور مسلمانوں کے زوال کی ایک بہت

بڑی وجہ بھی ہے۔

اب ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب طاقت اور غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے تو پھر حضور ﷺ سے معجزے کیوں سرزد ہوئے اور حضور ﷺ کی پیشین گوئیاں کیوں پوری ہوئیں اور یہی باتیں اولیاء اللہ سے کیوں ظہور میں آئیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کرامت اور کشف بے شبہ ولایت کا جزو لاینفک ہے لیکن ہر شخص جو خوارق عادات دکھائے یا اگلی پچھلی باتیں بتا دے ولی نہیں ہوتا۔ مختصر یہ کہ ”ہر ولی سے خوارق عادات ظہور میں آتی ہیں لیکن ہر وہ شخص جس سے خوارق عادات ظہور میں آئیں ولی نہیں ہوتا۔“ اب اصل اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ غیب کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو بھی نہیں لیکن کبھی کبھی کسی بات کا علم اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی کوئی خرق عادت بھی کسی سے صادر کر دیتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں اور تبلیغ حق میں مدد ملے۔ کرامت اولیاء اللہ سے اراداً صادر نہیں ہوتی بلکہ ایک بے خودی کی حالت میں سرزد ہو جاتی ہے کہ ان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔

اب رہا رسول اللہ ﷺ کے عالم الغیب ہونے کا مسئلہ تو اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ ایک گروہ تو حضور ﷺ کو عالم الغیب مانتا ہے اور دوسرا بالکل انکار کرتا ہے۔ پہلا گروہ کہتا ہے کہ جب حضور ﷺ کی ساری پیشین گوئیاں پوری ہوئیں تو تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ حضور ﷺ عالم الغیب نہیں تھے۔ دوسرا گروہ جواب دیتا ہے کہ جب خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ”اے محمد ﷺ! فرما دیجئے کہ نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ میں عالم الغیب ہوں نہ میں فرشتہ ہوں، (سورۃ الانعام: ۵۰) تو ہم حضور کو کس طرح عالم الغیب مان سکتے ہیں؟ اب بظاہر دونوں فریق حق پر معلوم ہوتے ہیں تو پھر امر واقعہ کیا ہے؟ امر واقعہ یہ ہے کہ دونوں فریق محض عاداتاً صرف (بحث برائے بحث) میں مبتلا ہیں ورنہ بات بہت معمولی ہے۔ وہ اس طرح کہ جہاں تک ساری کائنات کے علم الغیب کا تعلق ہے تو وہ صرف اللہ ہی کو ہے۔ یعنی اللہ ہر وقت اس پوری کائنات کے ہر ذرہ کا علم رکھتا ہے۔ مثلاً وہ یہاں تک جانتا ہے کہ فلاں سیارے میں اس وقت فلاں کیڑے کو جو سمندر کی تہہ میں یا کسی درخت کے تنے میں موجود ہے رزق کی ضرورت ہے لیکن رسول اللہ ﷺ کو صرف وہ بات معلوم ہو جاتی تھی جو اللہ حضور ﷺ کو بتانا چاہتے تھے یا جو حضور ﷺ خود معلوم کرنا چاہتے تھے اور اس کو معلوم کرنے کے لئے اللہ کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ قرآن سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ فَلَا يَظْهَرُ عَلٰی غَيْبِہِ

أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ ۚ يَعْنِي اللَّهُ غَيْبٌ كَمَا حَالَ كَسَىٰ كَوَيْبٌ نَبَاتًا مَلَكٌ كَسَىٰ بَرَكَزِيدٌ رَسُولٌ كَوَيْبٌ (سورہ جن: آیت ۲۶-۲۷) بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے لئے غیب کوئی چیز ہی نہیں کیونکہ وہ تو ہر شے کا ہر وقت علم رکھتا ہے۔ غیب تو بندوں کے لئے ہے۔

اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نجوم و رمل وغیرہ کیا چیز ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ وہ علوم ہیں جو کسی زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی کار براری کے لئے اپنے برگزیدہ بندوں کو تعلیم فرمائے تھے لیکن اب چونکہ یہ بھی دوسری تعلیمات کی طرح پوری صحت کے ساتھ باقی نہیں رہے اس لئے ان کو ماننا اور ان پر یقین کرنا منع ہے۔ اب یہ محض برائے تفقہ ہیں کوئی بات صحیح بھی ہو جاتی ہے کوئی غلط۔

یاد رکھیے کہ رسول اکرم ﷺ سے معجزے کبھی کسی مسلمان نے طلب نہیں کئے، صرف کفار نے طلب کئے تھے۔ مسلمان تو حضور ﷺ سے صرف ایمان اور اخلاق کی تعلیم حاصل کرتے اور زندگی کے مسائل حل کراتے تھے۔ اسی طرح اولیاء اللہ سے کرامت بھی کوئی ارادت مند کبھی طلب نہیں کرتا۔ معجزے اور کرامت، ہمیشہ کفار کو مسلمان بنانے کے لئے صادر ہوتی تھیں کیونکہ کفار انہی کو معیار بزرگی سمجھتے تھے۔ مگر آج مسلمان بھی کرامت اور خوارق عادات کو معیار بزرگی جانتے ہیں اور ہر خرق عادت دکھانے والے کو بزرگ سمجھ کر گمراہ ہو رہے ہیں۔

۹۔ نویں چیز جو حاصل ہوتی ہے تزکیہ اخلاق ہے اور حکمت میں فی الحقیقت یہی ایک چیز ہے جو سب سے زیادہ ضروری اور کام کی ہے۔ اگر سالک میں صحیح اخلاق حسنہ پیدا نہ ہوں تو جذب، کشف و کرامت اور مشاہدہ ارواح سب کچھ بجائے فائدے کے انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے نقصان دہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ افسوس کہ تزکیہ اخلاق جس قدر ضروری ہے اسی قدر آج کل اس سے بے اعتنائی برتی جاتی ہے۔ چونکہ اس کے بغیر اجتماعی اور قومی ترقی ناممکن ہے اس لئے ہم اس کا مفضل بیان آگے کریں گے۔ یہاں صرف یہ سن لو کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ ۝ یعنی مجھ کو بھیجا ہی گیا ہے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لئے اور پھر سوچو کہ آپ لوگوں نے اخلاق حسنہ کی کہاں تک تکمیل کی ہے، اگر نہیں کی ہے تو قوم کے زوال پر آنسو بہانا عبث ہے۔

۱۰۔ دسویں شے وصول ہے۔ جب سالک اوپر بتائے ہوئے قواعد پر مکمل عمل کر لیتا ہے اور اس کے یہ اعمال مقبول ہو جاتے ہیں تو اس کو کوئی ایسی صاف و صریح نشانی دکھائی جاتی ہے جس سے اس کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مساعی کو شرف قبولیت عطا فرما دیا ہے اور مجھ کو اپنے اولیاء کے حلقہ میں شامل کر لیا ہے۔

یہ نشانی عام طور پر روحانی مشاہدہ یعنی نیم خوابی کی حالت میں دکھائی جاتی ہے جو کبھی تو بالکل صاف ہوتی ہے اور کبھی تشبیہ یا استعارے کے طور پر مثلاً کسی کو صاف الفاظ میں بتا دیا جاتا ہے کہ آج سے تم ہمارے اولیاء کے حلقے میں داخل کر لئے گئے۔ کسی کو نظر آتا ہے کہ اس کی تاجپوشی ہوئی ہے، کوئی دیکھتا ہے کہ وہ امام بنا دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب دوسرے دور کا حال سنئے۔

دوسرا دور

۱۔ تمام اذکار و مجاہدات اور اعمال میں انہماک اور سعی زیادہ ہو جاتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ کیف حاصل ہوتا ہے۔

۲۔ عبادت میں حضوری حاصل ہونے لگتی ہے۔ یعنی پہلے تو سالک یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور مجھ کو دیکھ رہا ہے پھر کچھ مدت بعد یوں محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یعنی پہلے ایمان کامل کا ادنیٰ اور پھر اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا ہے۔

۳۔ جذب اور اس کے تاثرات پہلے سے بہت بڑھ جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ان پر قابو بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ ظاہر نہیں ہونے پاتے۔

۴۔ صفاتی تجلیات نظر آتی ہیں۔ یہ انوار ہوتے ہیں جو لطائف کے انوار سے مختلف ہوتے ہیں۔

۵۔ عالم مثال کی سیر ہونے لگتی ہے۔ یعنی شعاع روحانی ناسوت، ملکوت وغیرہ کے جس طبقہ تک لطیف ہوتی جاتی ہے اس طبقے کا نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ مشاہدہ کسی کو کم کسی کو زیادہ ہوتا ہے اور بعض سالکوں کو بالکل نہیں ہوتا۔ ان میں سے بعض تو اللہ کی یاد اور محبت میں اس درجہ مستغرق ہوتے ہیں کہ کسی اور چیز کے دیکھنے کی فرصت اور استعداد ہی باقی نہیں رہتی اور بعض کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ خود پردہ ڈال دیتا ہے ورنہ وہ ان دلفریب نظاروں کی سیر ہی میں بھٹس کر رہ جائیں سلوک پورا نہ کر سکیں۔ ایسے سالک بہت ماپوس ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ترقی نہیں کر رہے مگر وہ نہیں جانتے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسے سالکوں کو جب مایوسی ہونے لگے تو صرف یہ دیکھنا چاہئے کہ قلب میں سوز محبت اور اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے اور اخلاق کی اصلاح ہو رہی ہے یا نہیں؟

۶۔ اعلیٰ قسم کے کشف و کرامت کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے لیکن اس کا ظہور کم ہو جاتا ہے یا پردے میں ہوتا ہے۔ یعنی اکثر اہل دنیا کو یہ معلوم بھی نہیں ہونے پاتا کہ فلاں کام اس بزرگ کی ہمت یا دُعا سے ہوا ہے اور یہ

بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ بڑا آدمی وہ ہے جو نیکی کر کے اسے ظاہر کرتا پھرے یا وہ جو معلوم ہی نہ ہونے دے کہ یہ نیکی اس نے کی ہے۔ اعلیٰ درجے کا کشف یہ ہے کہ لوح محفوظ کا لکھا نظر آسکتا ہے اور اعلیٰ درجے کی کرامات یہ ہیں کہ مادے پر تصرف حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر سالک کو جس قدر طاقتیں اور اختیار زیادہ ملتا ہے اسی قدر وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا اور تسلیم و رضا میں زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے یعنی خود کچھ نہیں کرتا جو اللہ کرے اسی میں خوش رہتا ہے۔

۷۔ کیفیات فنا اور بقا طاری ہونے لگتی ہیں۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ عرصہ دراز تک نفی ماسوی اللہ کی مشق کرتے کرتے دن رات میں وقتاً فوقتاً ایک ایسی بے خودی طاری ہوتی ہے جس میں اس کو اپنے ماحول کا بہت ہی دھندلا سا احساس رہ جاتا ہے اور ذہن میں اللہ ہی کا خیال باقی ہوتا ہے۔ یہ بے خودی رفتہ رفتہ اس قدر بڑھتی ہے کہ ماحول بلکہ خود اپنے جسم کا احساس بھی باقی نہیں رہتا۔ گروہ اتنا ضرور سمجھتا ہے کہ جو کچھ مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ اللہ ہی اللہ ہے۔ یعنی اسے اگرچہ اپنے جسم کا احساس نہیں ہوتا لیکن اپنی ہستی یا ذات کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کر کئی کیفیتیں اور بھی طاری ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ماحول اور اس کی اشیاء کی طرف خیال رجوع ہو جاتا ہے اور اپنی ہستی کا احساس کچھ کم ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ بعض اوقات تو یہ دیکھتا ہے کہ تمام اشیاء تسبیح اور سجدے میں مصروف ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ماحول اور اشیاء کا احساس بالکل نفی ہو کر صرف اللہ کی موجودگی کا احساس باقی رہ جاتا ہے لیکن اپنی ہستی کا کچھ نہ کچھ خیال بھی موجود رہتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ اپنے آپ کو گل کا ایک جزو محسوس کرتا ہے۔ تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ہستی اور اپنی ہستی دونوں کے احساسات مدغم ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں۔ چوتھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اپنی ہستی کا احساس مکمل غائب ہو جاتا ہے اور اللہ کا احساس بھی باقی نہیں رہتا یعنی نہ احساس کرنے والا رہتا ہے نہ محسوسات۔ یہ کیفیت مکمل فنا کی کیفیت ہے۔ پہلی کیفیات ناقص ہیں۔ فنا کی یہ کیفیت پختہ ہونے کے بعد اگر سالک کوشش میں لگا رہے اور یہیں قیام نہ کرے تو وہ اپنی ذات کا پھر احساس کرنے لگتا ہے اور رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو الگ الگ اور تمام اشیاء کی اور اپنی ہستی کو الگ محسوس کرتا ہے یا دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اب اس کو یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق، اللہ خالق باقی اور قادر ہے اور سب مخلوق فانی اور مجبور۔ یہ بقاء کی کیفیت ہے اور یہی وہ کیفیت یا حقیقت ہے جس کی بابت حضرت مجدد الف ثانیؑ نے اپنے مکتوبات میں وحدت الوجود کا

بطلان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ خود ان پر کشف ہوئی۔ اگر ان میں سے کوئی کیفیت مستقل ہو جائے تو یہی حال کہلاتی ہے۔ مگر یاد رکھئے کہ کوائف ہوں یا حال ہر وقت طاری نہیں رہتے۔ کیفیت کے تاثرات دیرپا نہیں ہوتے۔ حال سے البتہ جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ سالک کے کردار کا جزو بن جاتا ہے اور جب ہوش میں ہوتی بھی باقی رہتا ہے اور اس کے افعال و اقوال سے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔

۸۔ وحدت الوجود کی کیفیت بیان کر دینا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کتاب میں ہم نے جا بجا اس کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کے زوال کی بہت بڑی وجہ بتایا ہے۔ سینے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ اَلَيْسَ بِصَعْدِ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ يَرْفَعُهُ..... (فاطر: ۱۰) یعنی ”اللہ کی طرف چڑھتے ہیں کلمات پاکیزہ اور نیک عمل۔ بلند کرتا ہے عمل کرنے والے کو“ گویا یہ ایک قانون ہے کہ پاکیزہ باتیں اور پر کی طرف صعود کرتی ہیں اور نیک عمل عامل کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ سائنس نے آج یہ پتہ لگایا ہے کہ جو آواز ایک مرتبہ پیدا ہوگی وہ وہ فنا نہیں ہوتی۔ قرآن میں یہ بات چودہ سو برس پہلے بتادی گئی تھی۔ اعمال کا پتہ ابھی تک سائنس نے نہیں لگایا کہ وہ کس طرح باقی رہتے ہیں۔ کسی دن یہ بھی ہو جائے گا لیکن قرآن میں بہت پہلے سے بتایا جا چکا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات اسی مضمون کی ہیں مثلاً کہ ”قیامت میں تمہارے اعمال مجسم تم کو دکھائے جائیں گے“ یا یہ کہ ”جو کوئی مشقال برابر بھی بھلائی یا برائی کرے گا تو وہ اس کو دیکھے گا“۔ بہر حال یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ ہمارا مقصد اس آیت کے بیان کرنے سے یہ تھا کہ سالک جس قدر اپنے افکار و اواراد اور عبادات و اعمال میں ترقی کرتا جاتا ہے اسی قدر اس قانون الہی کے مطابق اس کی روح (شعاع) درجہ بدرجہ اور طبقہ بہ طبقہ لطیف، مجلی، حساس اور بیدار ہوتی جاتی ہے اور جن طبقات تک یہ لطیف اور بیدار ہوتی ہے ان کی کیفیات لطیفہ کا احساس اور ماحول کا علم و عرفان بھی اس شعاع کے ذریعہ سالک کو ہوتا رہتا ہے گویا ہری آنکھوں سے کچھ نظر نہ بھی آئے۔ جب یہ شعاع باہوت کے آخر تک مجلی ہو جاتی ہے اور وہ حصہ بیدار ہونا شروع ہوتا ہے جو عالم حو میں واقع ہے تو عجب عجب کوائف پیش آتے ہیں۔ اس عالم میں چونکہ صور و اشکال کا وجود بالکل نہیں ہوتا اور صفاتی و ذاتی تجلیات ملی جلی ہیں اس لیے جب ان کا علم و عرفان سالک کے دماغ پر پرتو لگن ہوتا ہے تو اس پر عجیب عجیب کیفیات طاری ہوتی ہیں اور عجب کلمات اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کوئی اَنَا الْحَقِّ پکاراٹھا اور کوئی سُبْحَانِي مَا عَظَّمْتُمْ شَانِي کہہ بیٹھا۔ اسی مقام پر حضرت ابن عربیؒ نے وحدت الوجود کا نعرہ لگایا۔ ہوا یہ کہ ابن عربیؒ کی روح خلقی استعداد کی وجہ سے

ذاتی تجلیات سے بہت زیادہ متاثر ہوئی اور چونکہ یہاں صُور و اشکال کا وجود نہ تھا وہ ان تجلیات کو ذات یعنی سراب کو حقیقت سمجھ بیٹھے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ”عالم ہی خدا ہے یہ (عالم) غلطی ہے جس میں وحدت نے اپنے آپ کو نمودار کیا ہے۔ ان تجلیات میں وحدت کلیدتہ گم ہو گئی ہے لیکن ان کے ماورائی وحدت کا کوئی وجود نہیں۔ ان الفاظ میں حضرت ابن عربی نے اللہ یا اس کی وحدت کا انکار مطلق نہیں کیا بلکہ صرف یہ ظاہر کیا ہے کہ اشیاء کا سنات کے ماوراء اللہ کا کہیں وجود نہیں ہے۔ یہ ان کے عرفان کی غلطی ہے۔ اللہ وہاں بھی ہے جہاں عالم مادی، عالم مثال اور عالم امر سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ”اس عالم کے بعد عدم ہے اور سالک کو عدم میں اللہ کی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہاں سوائے رنج و تعب کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔“ یہ بات بھی انہوں نے صرف اپنے ذاتی تجربہ کی بناء پر لکھی ہے حالانکہ لطائف کے اصلی عوامل تو شروع ہی عدم سے ہوتے ہیں جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں۔ یہ بات انہوں نے اس لئے فرمائی ہے کہ جب وہ ”ہو“ کو طے کرنے کے بعد عدم میں داخل ہوئے تو وہاں انہیں کچھ بھی محسوس نہ ہوا یا یوں کہئے کہ ان کو عدم کی تجلیات منفی کا عرفان نہ ہو سکا تو انہوں نے ہمت ہار دی اور اپنا سفر ختم کر دیا۔ اگر وہ عدم کی صعوبات پر صبر کرتے اور اس کو طے کر کے بساط کے عوالم میں پہنچ جاتے تو اس غلطی میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس قسم کی بہت سی باتیں انہوں نے فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم میں تحریر فرمائی ہیں لیکن ان باتوں سے ان پر کفر کا الزام عائد نہیں ہوتا بلکہ اس کو محض عرفانی غلط فہمی کہا جاسکتا ہے۔

حضرت ابن عربیؒ سے پہلے بھی ایسے کلمات کئی بزرگوں کے منہ سے بہ حالت سکر نکلے لیکن بعد میں انہوں نے ان کی تسلی بخش تشریح کر دی اس لئے زیادہ چرچا نہ ہوا لیکن ابن عربیؒ نے جس بات کو حق جانا تھا، ایک ضخیم کتاب میں اپنی پوری علمی طاقت و لیاقت سے تحریر کر دیا۔ زیادہ غلطی ان صوفیاء کی ہے جو حضرت ابن عربیؒ کے بعد پیدا ہوئے۔ ان میں سے صرف چند ایسے تھے جن پر حضرت ابن عربیؒ کے مماثل کوائف طاری ہوئے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے حضرت ابن عربیؒ کے قول کی تائید کر دی لیکن زیادہ صوفی ایسے گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں جن پر نہ تو کبھی یہ کوائف طاری ہوئے نہ وہ ان مقامات تک پہنچے بلکہ صرف حضرت ابن عربیؒ اور ان کے مؤیدین و مصدقین کے تتبع میں ہمہ اوست کے قائل ہیں اور ان حضرات کے بے شمار مرید اور معتقد جن میں بہت سے تو بالکل ہی بے علم ہوتے ہیں اپنے پیشواؤں کی اندھی تقلید میں یہ سمجھتے ہیں کہ ”ہر چیز خدا ہے“ نعوذ باللہ۔ تعجب تو یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کی طرف کیوں نہیں لوٹتے جو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ بادشاہی

صرف اللہ ہی کے لئے ہے، صرف وہی اس تمام کائنات کا خالق اور اس کی ہر شے پر لحاظ سے قادر ہے۔
قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ“ صاف فرمادیتے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔“ (سورہ الرعد: ۱۳)

عوام میں اس عقیدے کی اشاعت کا ایک اور بڑا سبب اکبر بادشاہ کی بے دینی اور اس کے ایجاد کردہ مذہب دین الہی کی تبلیغ بھی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اکبر نے یہ مذہب سیاسی مصلحتوں سے اس لئے جاری کیا تھا کہ اس کی غیر مسلم رعایا جو تعداد میں مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھی اس سے خوش اور راضی رہے۔ دین الہی کے سب سے بڑے داعی دربار اکبری کے ارکان خصوصاً ابوالفضل اور فیضی جیسے جید عالم تھے جو منطقی اور فلسفہ میں دور دور تک اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ ان کی سحر نگاری کے کئی نتیجے نکلے۔ ایک یہ کہ اکبر نے خوش ہو کر ان کو اعزاز و مراتب کے آسمان پر پہنچا دیا۔ دوسرے یہ کہ غیر مسلم خوش ہو گئے کہ مسلمانوں میں بھی روحانیت کا آخری عقیدہ وہی ہے جو ہمارے مذہب میں ہے اور ان پر جو توحید اسلامی کی فضیلت کا رعب طاری تھا جاتا رہا۔ تیسرے یہ کہ خود مسلمان بھی یہی سمجھنے لگے کہ توحید صرف ہمارے ہی ہاں نہیں دوسرے مذاہب میں بھی ہے اور ان کے ذہن میں اپنی فضیلت کا جو احساس تھا ختم ہو گیا۔ چوتھے یہ کہ اکثر مسلمان علماء اور عوام بھی بادشاہ اور امراء کی خوشنودی کے لئے ”ہمہ اوست“ کا دم بھرنے لگے۔ یہاں تک کہ دو چار نشلیں گزرنے پر ”اسلامی تصوف“ میں اس عقیدے کو وہی درجہ حاصل ہو گیا جو مذہب ”اسلام“ میں کبھی ”توحید“ کو حاصل تھا اور آج جس تصوف زدہ کو دیکھو یہی کہتا ہے کہ کفر و اسلام میں فرق ہی کچھ نہیں۔

الغرض جس قدر نقصان مسلمانوں کو وحدت الوجود کے عقیدے سے پہنچا ہے اور کسی چیز سے نہیں پہنچا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام عقائد کی بنیاد توحید ہے اور یہ عقیدہ براہ راست توحید کے عقیدہ پر ضرب لگاتا ہے۔ مزہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہر ذرے کو خدا مانتے ہیں وہ موجد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عوام کو یہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں لیکن جو آدمی اس قسم کے صوفیوں کی صحبت میں رہا ہو وہ جانتا ہے کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ چنانچہ تصوف کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ چند بزرگوں نے کہا کہ ہم نے آج تک کوئی موجد کامل نہیں دیکھا۔ فیصلہ ہوا کہ چلو کسی موجد کامل کو تلاش کریں۔ چنانچہ چار بزرگ ایسے موجد کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور دنیا کا گوشہ گوشہ جھان مارا۔ برسوں کی تلاش کے بعد جب مایوس ہو کر واپس لوٹ رہے تھے تو انہوں نے ایک بیابان میں ایک شخص کو دیکھا کہ مادر زاد ننگا ایک جگہ بیٹھا ہے اور اس کے پاس اسباب

دنیوی میں سے کوئی شے موجود نہیں ہے۔ کشف سے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ موحد کامل ہے۔ چنانچہ سب اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور موڈ ب کھڑے ہو گئے۔ فقیر نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور پوچھا کیا چاہتے ہو۔ ایک بزرگ نے جواباً کہا کہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ توحید کامل کیا ہے؟ فقیر نے کہا کہ ایک بیالہ لاؤ۔ چنانچہ بیالہ پیش کیا گیا۔ فقیر نے اس بیالہ میں پیشاب کیا اور اس کو پی گیا اور کہا ”یہ ہے توحید کامل“ استغفر اللہ۔ یہ حرکت تو کافر مطلق بھی نہیں کرتے لیکن ہمہ اوست والے ان باتوں پر ایمان کامل رکھتے ہیں۔ کسی کتاب میں یہ واقعہ بھی ہم نے پڑھا کہ ایک دفعہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھ کر گھر واپس جا رہے تھے۔ جب مسجد کی پشت پر پہنچے تو دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک ”مجنوب“ بالکل ننگا بیٹھا ہے۔ اتفاقاً مولانا کی نظر اس پر پڑ گئی تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا ”استغفر اللہ“ مجنوب نے چیخ کر کہا ”مولوی یہ تو تیرے اللہ کا الف ہے اس سے کیوں چڑتا ہے۔“ توبہ توبہ (نقل کفر کفر نہ باشد)۔ اسی طرح ہزار ہا قصے مشہور اور کتابوں میں درج ہیں اور ہمارے نام نہاد صوفی ان کو پڑھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور قصہ ہم نے کسی کتاب غالباً حضرت عبدالعزیز دباغؒ کی ابریز تیریز میں پڑھا کہ دو (۲) ولی اللہ آپس میں بہت دوست تھے۔ اتفاق سے ایک کو سفر درپیش ہوا۔ فکر ہوا کہ بیوی اکیلی ہے اس کا گراں کون ہو۔ اپنے ولی دوست کی طرف خیال کیا کہ اس سے بہتر دیکھ بھال کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بیوی کو اس کے سپرد کر کے سفر پر روانہ ہوئے۔ کئی سال بعد جب واپس آئے تو دیکھا کہ بیوی کی گود میں ایک بچہ ہے۔ پوچھا یہ کہاں سے آیا۔ جواب ملا کہ آپ کے اسی دوست کا ہے جس کے سپرد آپ مجھ کو کر گئے تھے۔ بہت رنجیدہ ہوئے۔ دوست کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ کیا خیانت تم نے کی۔ جواب ملا کہ میں نے کیا برا کیا۔ تو بھی خدا میں بھی خدا وہ عورت بھی خدا۔ خاوند غریب چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ کیونکہ وہ خود بھی ہمہ اوست کا قائل تھا۔ الغرض ایسے ہزار ہا قصے مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ نظم میں تو ہزاروں شعرا درو اور فارسی کے، اس مضمون پر ملیں گے۔ صرف انہیں شعراء کے نہیں جو تصوف سے نا بلند محض ہیں اور صرف کتابوں میں پڑھ کر یہ مضمون نئے نئے انداز سے باندھتے ہیں بلکہ ان شعراء کے بھی جو خود بڑے صوفی مشہور تھے۔ ایسے شعر نقل کئے جائیں تو کئی دفتر درکار ہیں۔ اس لئے نمونہ دو تین شعر اور مصرعہ لکھے جاتے ہیں۔ ایک صاحب فرماتے ہیں۔

ہیں ایک ہی شے گبر و مسلمان دونوں
ایک ہی خوانِ کرم پر ہیں مہماں دونوں

ایک مشہور شعر ہے جس پر صوفیاء کو بہت حال آتا ہے۔

خود کوزہ و خود کوزہ گر و خود گل کوزہ
خود بر سر آں کوزہ خریدار بر آمد

غالب صاحب فرماتے ہیں۔

قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن
ہم کو منظور تنگ ظرفی منصور نہیں

ایک شعر کا صرف ایک ہی مصرعہ یاد ہے ع

ہر جا ترا جلوہ ہے کعبہ ہو کہ بت خانہ

ایک بہت مشہور صوفی شاعر صاحب فرماتے ہیں۔ ع

خدا خدا نہ سہی رام رام کر لیں گے

وغیرہ وغیرہ۔ ایسے اشعار کا جو کچھ اثر جہلاء پر پڑتا ہے اس کا اندازہ ان کے اعمال اور عقائد ہی سے لگایا جا سکتا ہے۔

باخبر اولیاء کرام نے یہ بات سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے کہ وحدت الوجود حقیقت نہیں بلکہ صرف ایک کیفیت ہے، آئی اور فانی۔ اس لئے جن لوگوں پر یہ کیفیت طاری نہ ہو بلکہ وہ صرف کتابوں میں اس کا حال پڑھیں تو ان کو لازم ہے کہ اس پر یقین نہ کریں اور تعینات کی پوری نگہداشت رکھیں اور فرق مراتب کو کبھی نظر انداز نہ ہونے دیں ورنہ دل میں کفر بیٹھ جائے گا۔ جب تک یہ کیفیت طاری نہ ہو اور اس کے بعد سالک آگے کا راستہ طر کے حقیقت معلوم نہ کرے اصل بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اس لئے جو لوگ سلوک کی **الف ب ت** بھی نہیں جانتے وہ کس طرح سمجھ سکتے ہی کہ وحدت الوجود کا جو بیان حضرت محی الدین عربیؒ یا دیگر اکابر اولیاء نے کیا ہے اس سے ان کی مراد کیا ہے۔ حضرت ابن عربیؒ اتنے بلند مرتبہ بزرگ تھے کہ ان کے بعد عرصہ دراز تک کسی کی ہمت ہی نہ پڑی کہ وحدت الوجود کے خلاف کچھ کھل کر کہتا یا لکھتا۔ یہ سعادت صرف ہمارے پیشوا جناب شیخ احمد مجدد الف ثانی کے نصیب میں تھی کہ آپ نے بہت پر زور طریقے سے اس عقیدے کی تکذیب کی جس کا اثر یہ ہوا کہ کفر والحاد کا جو غبار اکبری تر کتا زکی وجہ سے دنیائے اسلام پر چھا گیا تھا بہت کچھ چھٹ گیا لیکن افسوس کہ بعد میں کسی نے اس زور شور سے مجذد صاحب کی تائید نہیں کی۔ چنانچہ آج پھر وہی

عقائد مسلمانوں کے دین و ایمان کو تاخت و تاراج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے کہ صحیح اور خالص توحید کو مانے۔

قوم کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ آج قرآن کے مقابلہ میں شعراء کے کلام اور صوفیاء کے اقوال کو بطور سند پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے وحی کے مقابلہ میں اولیاء کا کلام بھی رد کیا جاسکتا ہے، شعرا کا تو ذکر ہی کیا ہے؟ موٹی عقل کی بات ہے کہ اگر کفر و اسلام میں فرق ہی کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ کو قرآن نازل کرنے اور حضور پاک محمد مصطفیٰ ﷺ کو مبعوث فرمانے کی ضرورت کیا تھی؟

ہم اوپر لکھے چکے ہیں اور ایک مرتبہ پھر لکھتے ہیں کہ وحدت الوجود کی کیفیت مقام مہم میں طاری ہوتی ہے جو بہت ہی بلند مقام ہے۔ یہاں صور و اشکال یعنی تعینات غائب ہو جاتے ہیں اور ناقابل بیان لطف و سرور حاصل ہوتا ہے، اس لئے بہت سے سالک یہاں سے آگے بڑھ کر اگلے طبقہ یعنی عدم میں جانے اور وہاں کی صعوبات میں مبتلا ہونے کو پسند نہیں کرتے یا کوئی راہبر میسر نہیں آتا، اس لئے وہ یہیں قیام کر لیتے ہیں اور اس کیفیت کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اگر کوئی سالک ”ہو“ کے کوائف اور لڈانڈ کی نفی کر کے عدم میں داخل ہو جائے اور مجاہدہ جاری رکھے تو عدم کے خاتمہ پر جب وہ نفس بسیط کے عالم میں داخل ہوگا اس کو اپنی روح اُس شعاع یعنی پرچھائیں یا ظن کی شکل میں نظر آئے گی جس کا ذکر ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ یہاں سالک یہ سمجھنے لگے گا کہ وہ ذات کا سایہ یا ظن ہے لیکن اگر وہ سلوک جاری رکھے اور اس کی روح مجرد اپنا عرفان کامل حاصل کر لے تو اس پر یہ حقیقت روشن ہو جائے گی کہ وہ اور باقی سب کچھ عبد محض اور مخلوق ہے۔ حضرت محمدؐ دالف ثانیؑ پر بھی یہی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ نے پہلے کچھ عرصہ تک انسان کو اللہ کا ظن خیال کیا لیکن جب آخری نقطے تک سلوک طے کر لیا تو پھر آپ علی الاعلان یہی فرماتے تھے کہ انسان اور باقی تمام مخلوقات عبد محض ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ شاید اہل علم حضرات کی سمجھ میں اب کچھ حقیقت آگئی ہو کہ وحدت الوجود کیا ہے۔ ہم اس سے زیادہ وضاحت سے لکھنے اور بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔

۹۔ تجلیات ذاتی

ان کی ابتداء لہوت سے ہوتی ہے۔ یہ انوار نہیں بلکہ معنوی تجلیات ہیں۔ ان کے درود سے سالک کو ان تمام باتوں کا عرفان ہونے لگتا ہے جو عقل سے کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آسکتیں۔

۱۰۔ تزکیہ اخلاق

اب سالک کا اخلاق اس قدر مزہم ہو جاتا ہے کہ بال برابر نقائص بھی اس کو محسوس ہونے اور ناگوار گزرنے لگتے ہیں اور وہ ان کی اصلاح کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے لئے خدمتِ خلق کے سوا کوئی کام باقی نہیں رہتا۔ یہ ولایت کبریٰ اور کمال انسانیت کی ابتدا ہے۔

تیسرا دور

دوسرے دور میں سالک جو کچھ دیکھتا اور حاصل کرتا ہے اس دور میں اس کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے۔ ان بزرگوں کو عارف کہتے ہیں۔ ان سے کرامتیں بہت کم یا پردے میں صادر ہوتی ہیں۔ یہ لوگ ارشاد و اصلاح میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ یہ کمال انسانیت کا عروج ہے۔ اہل تصوف کا جو ایک مشہور مقولہ ہے کہ ذکر سے جنت اور فکر سے اللہ ملتا ہے اس کے معنی اسی دور کے آخر میں سمجھ میں آتے ہیں۔

چوتھا دور

جو کچھ تیسرے دور میں حاصل ہوا۔ اس دور میں اس کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ یہ بزرگ محققین کہلاتے ہیں۔ یہ سوائے خدمتِ خلق یعنی ارشاد و اصلاح کے اور کچھ نہیں کرتے۔ یہ تھا سلوک و حکمت کا بیان جو الحمد للہ ختم ہو گیا۔ اب ہم عبادات کا بیان کریں گے لیکن اس سے قبل یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں سلوک اور معرفت و حکمت کی افادیت کے متعلق خود ہمارا جو خیال ہے وہ بھی ظاہر کر دیا جائے۔

اس میں شک نہیں کہ ”حکمت“ اشرف اور افضل ترین علم ہے۔ اس سے حقیقت الاشیاء معلوم ہو جاتی ہے، بڑے بڑے اسرار ظاہر ہوتے ہیں، عقل سلیم اور فراست کاملہ پیدا ہوتی ہے، روحیں نظر آنے لگتی ہیں، رسول اکرم ﷺ اور دوسرے انبیائے عظام کی زیارت میسر آتی ہے، عالم مثال کی سیر اور انوار و تجلیات کا نظارہ ہوتا ہے، کشف و کرامات کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے، مادہ پر تصرف حاصل ہو جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود حضرت احدیت کی معرفت اور حضوری سے انسان مشرف ہوتا ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ سب کچھ مل جانے کے باوجود بھی اگر کوئی عارف دین و دنیا میں امت محمدیہ کی اجتماعی ترقی اور کامیابی کے لئے کچھ نہ کرے تو وہ اپنی ذات کے لئے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ملت اسلامیہ کے لئے بیکار ہے۔ ملت کو آج ایسے بزرگوں کی ہرگز ضرورت نہیں جو تعویذ گنڈوں اور دم درود سے کچھ مریضوں کو تندرست کر دیں یا چند غریب ان کی دُعا

سے امیر کبیر بن جائیں یا کچھ لوگ مقدمے جیت جائیں یا چند بے اولادوں کے اولاد پیدا ہو جائے یا کچھ کفار و مشرکین مسلمان ہو کر ملت کی تعداد میں بیکار لوگوں کا اضافہ کریں۔ آج کل تو ضرورت ایسے اولیاء کی ہے جو فاسق و فاجر مسلمانوں کو سچا مسلمان اور سچے مسلمانوں کو پکا مومن اور موحد بنا سکیں۔ جو اپنی تعلیم و توجہ سے مسلمانوں میں ایسی فراست و بصیرت پیدا کر سکیں کہ وہ اپنے تمام تفرقے اور اختلافات مٹا کر ایک جان اور ایک قالب کی طرح مربوط و متحد ہو جائیں۔ حق و باطل میں تمیز کر سکیں، سستی و کاہلی چھوڑ کر کام کرنا اور کام کرتے رہنا سیکھیں۔ اللہ اور رسول کی سچی محبت کا جنون ان کے لئے سرمایہ دانش ہو۔ وہ بقائے ملت کے لئے جان و مال قربان کرنا اپنی زندگی کا مقصد جائیں اور ہر طرف سے اپنا منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف کر لیں۔

اب عبادات کا بیان سنئیے۔

====☆☆☆☆====

عبادات

اسلامی عبادتیں بھی عقائد کی طرح دوسرے مذاہب کی عبادتوں سے کہیں بہتر اور افضل ہیں۔ دوسرے مذاہب کی عبادتیں محض تسکین روحانی اور نجات اخروی کے واسطے ہیں لیکن اسلامی عبادتیں تسکین و نجات کے علاوہ دنیاوی اعمال و افعال پر بھی براہ راست اور زبردست نفسیاتی اثر ڈالتی ہیں اور ہماری دنیوی زندگی کو سدھارنے اور ہمارے اندر ایک عالیشان کردار پیدا کرنے کا موجب ہوتی ہیں۔ جو لوگ عبادت کے قائل نہیں وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ اللہ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ ان کو بتاؤ کہ ہم کب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی، وہ تو دونوں عالموں کی ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اس کو اس بات کی بھی پروا نہیں کہ سارا جہان اسے پوجنے لگے یا اس سے منکر ہو جائے۔ عبادت کے معنی ہیں اللہ کی تابعداری، بندگی یا فرمانبرداری اور یہی اصل دین ہے۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم میں جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کا کرنا اور جن کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو نہ کرنا بھی عبادت ہے لیکن عرفاً جن باتوں کو عبادت کہا جاتا ہے وہ چھ (۶) ہیں۔

- ۱۔ طہارت
- ۲۔ نماز
- ۳۔ روزہ
- ۴۔ حج
- ۵۔ زکوٰۃ
- ۶۔ جہاد

ہم انہی چھ (۶) باتوں کا ذکر اس جگہ کریں گے لیکن یہ ذکر ان عبادات کے اسرار و رموز یعنی فوائد اور

تاثرات نفسیاتی پر مشتمل ہوگا، شرعی نقطہ نظر سے ان کے اصول و ارکان اور قواعد و آداب پر نہیں کیونکہ یہ باتیں تو متقدّمین کی کتابوں میں مفصل بتائی جا چکی ہیں۔ ہم تو صرف یہ بتائیں گے کہ ان عبادات سے ہماری روزمرہ کی زندگی پر کیا تعمیری یا اصلاحی اثر پڑتا ہے۔

طہارت: طہارت اسلام میں اس قدر اہم اور ضروری ہے کہ نماز جیسی اہم ترین عبادت بھی بغیر طہارت کے ادا نہیں کی جاسکتی۔ طہارت کے معنی ہیں پاکیزگی، ستھرائی اور صفائی۔ اللہ بھی صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں فرماتا ہے: **وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِيْنَ** (توبہ: ۱۰۸) ”اور اللہ پاک صاف لوگوں سے محبت رکھتا ہے“ اسلامی طہارت میں یہ باتیں شامل ہیں۔ بدن اور لباس پاک صاف اور ستھرا ہو، اس پر کوئی ناپاکی اور گندگی لگی ہوئی نہ ہو۔ غسل جنابت فرض ہے جب تک کہ نہ لیا جائے نماز نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ویسے بھی روزنہانا اور خصوصاً جمعہ کے دن بہ نیت نماز غسل کرنا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں میں روزانہ نہانے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی جو قابل افسوس ہے حالانکہ دوسرے مذاہب کے لوگ اب عام طور پر روزمرہ ہی غسل کرتے ہیں۔ یورپ کے عیسائیوں میں اسلام سے پہلے نہانا تو کیا منہ دھونا بھی برا سمجھا جاتا تھا لیکن جب یورپ نے ہوش سنبھالا اور اسلامی ممالک خصوصاً اسپین کے مسلمانوں کو روزانہ نہاتے دھوتے دیکھا اور اس نہانے کے طریقوں خصوصاً گرم و سرد حماموں کا نظارہ کیا تو انہوں نے بھی روزانہ نہانا شروع کر دیا لیکن ہماری پستی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں یہ دستور کم ہوتے ہوتے بالکل ناپید ہو گیا۔ غسل سے صحت پر جو اچھا اثر پڑتا ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ اس سے بدن میں چستی اور مہتری آتی ہے اور سستی جو تمام بے عملیوں کی جڑ ہے دور ہوتی ہے، طبیعت تازہ اور بفتاش رہتی ہے۔ الغرض حفظانِ صحت کے اصولوں میں یہ سب سے پہلی چیز ہے جو ضروری ہے۔ جہاں پانی کم ہو وہاں البتہ روزانہ غسل پر اتنا زور نہیں دیا جاسکتا۔ پانچ وقت نماز کے لئے وضو کرنے سے بھی بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

غسل اور وضو سے جسم صاف ستھرا اور میل کچیل سے پاک رہتا ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ مسواک کرنا، بالوں میں کنگھا کرنا اور تیل ڈالنا، سرمہ لگانا وغیرہ جو سب ہمارے رسول ﷺ کی سنتیں ہیں صحت کے قیام کے لئے بے انتہا مفید ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ صحت کے لئے کپڑوں کی پاکیزگی بھی بہت ضروری ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز پاک اور صاف کپڑے پہن کر پڑھنی چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ** ”اے آدمیو! ہر نماز کے وقت زینت کر لیا کرو“ (الاعراف: ۳۱) ظاہر ہے کہ

یہاں لفظ زینت سے صرف معمولی لباس ہرگز مراد نہیں بلکہ ایسا لباس مراد ہے جو واقعی خوبصورت اور بدن کی زینت و آرائش کا باعث ہو۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جب تم کسی دنیاوی تقریب میں شامل ہوتے ہو یا کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہو تو بہترین لباس پہن کر جاتے ہو پھر کوئی وجہ نہیں کہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہو تو بہترین زیبائش اور آرائش کے ساتھ نہ جاؤ۔

یہ ہماری کس قدر بد نصیبی ہے کہ مسجدوں میں زیادہ تر غریب اور مفلس ہی جاتے ہیں۔ امراء بہت سے تو نماز ہی نہیں پڑھتے اور جو پڑھتے ہیں وہ اپنے گھروں ہی میں ادا کر لیتے ہیں۔ غریب لوگ جو مسجدوں میں نظر آتے ہیں اکثر اس قدر میلے اور گندے ہوتے ہیں کہ بدبو آتی ہے۔ غیر مسلموں نے ان غریبوں کو ان گندے کپڑوں میں دیکھ کر نماز اور خود اسلام کے متعلق یہ غلط خیال قائم کر لیا ہے کہ اسلام صفائی اور پاکیزگی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اس لئے جو لوگ صاف اور ستھرا لباس پہن کر مسجدوں میں نہیں جاتے وہ اسلام کی تدلیل اور بدنامی کے مجرم ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے اور خوب سچ سچا مسجدوں میں جانا چاہیے تاکہ دوسری قوموں کی نظر میں اسلام کی وقعت اور مسلمانوں کی عظمت کا سکہ بیٹھے۔ یہ بھی تبلیغ اسلام کی ایک عملی صورت ہے۔

صاف ستھرے کپڑے نہ پہننے کے لئے غربت کا عذر بالکل غلط ہے۔ غربت صفائی کے راستہ میں ہرگز حائل نہیں ہو سکتی۔ سستی اور کاہلی البتہ انسانوں کو میلا اور غلیظ رکھتی ہے۔ اصل وجہ ہمارے بھائیوں کے میلا اور گندارہنے کی یہی سستی اور کاہلی ہے ورنہ کون شخص ہے جو گھر میں یا تالاب و دریا وغیرہ پر اپنے کپڑے اپنے ہاتھ سے نہیں دھو سکتا اور صاف ستھرا نہیں رہ سکتا۔

طہارت و پاکیزگی کے فوائد اس قدر واضح اور ظاہر ہیں کہ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ کون نہیں جانتا کہ:-

۱۔ نہانا دھونا اور پاک صاف رہنا اصول صحت کے لحاظ سے تندرستی کے لئے ناگزیر ہے۔

۲۔ اس سے دل خوش، طبیعت بفتاش اور انسان چست و چالاک رہتا ہے۔

۳۔ دماغ حاضر رہتا ہے اور کام خوب ہوتا ہے۔

۴۔ طبیعت میں امنگ اور اچھ پیدا ہوتی ہے اور زیادہ کام کرنے کو دل چاہتا ہے۔

۵۔ خلاصہ یہ کہ طہارت و پاکیزگی انسان کو عملی آدمی بنانے میں بڑی مدد دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کو عبادت میں شامل کیا ہے۔

نماز ہماری سب سے زیادہ اہم اور لازمی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں معنی تاکید نماز کی فرمائی ہے اور کسی عبادت کی نہیں فرمائی۔ نماز کے فوائد بے شمار ہیں لیکن ہم صرف چند بڑے بڑے فوائد کے بیان پر اکتفا کریں گے۔ یہ فوائد دو گونہ ہیں۔ یعنی نماز نہ صرف ہمارے روحانی ارتقاء کا باعث ہوتی ہے بلکہ دنیاوی زندگی کو سدھارنے اور کامیاب بنانے میں بھی انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے بے انتہا مدد دیتی ہے۔

۱۔ نماز صحیح انسانی کردار پیدا کرتی ہے

عقائد کے بیان میں ہم بتا چکے ہیں کہ اسلام کا بنیادی اصول اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے اور یہ ایمان اگر ہمارے بچپن (۲۵) فیصد آدمیوں میں بھی کامل درجے کا ہو تو ہماری قوم ہرگز پستی کی حالت میں نہیں رہ سکتی۔ ایمان کی شناخت بھی ہم نے بتائی تھی اور وہ یہ کہ مومن نہ تو اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتا ہے نہ کوئی توقع رکھتا ہے لیکن آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ایسا آدمی جو نہ تو کسی سے ڈرتا ہو نہ کسی سے کوئی توقع رکھتا ہو، دوسرے آدمیوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہ سکتا۔ معاشرہ میں ہر ایک انسان دوسرے انسان سے کوئی نہ کوئی توقع اور کسی نہ کسی قسم کا خوف ضرور رکھتا ہے۔ بغیر اس کے معاشرہ کا نظام ہی قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لئے جو شخص بالکل نڈر بے باک اور بے غرض ہو وہ سوسائٹی میں بالکل ایک جانور یا درندے کی طرح ہوگا اور کسی سے تعاون نہ کر سکے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی قوم میں سارے ہی آدمی ایسے ہوں تو وہ قوم کبھی ایک جماعت میں منظم اور مربوط نہ ہو سکے گی۔ اس دشواری کا علاج اللہ تعالیٰ نے نماز سے کیا ہے۔ نماز کیا ہے؟ ہمدن، عجز و انکساری اور خشوع و خضوع، غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، چوپایوں کی طرح رکوع میں بھٹکانا اور کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین پر ماتھا اور ناک رگڑنا ہمدن، عجز و انکساری نہیں تو اور کیا ہے۔ اس طرح مومن کے کردار میں بے خوفی اور بے تعلقی کی وجہ سے جو خشونت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے وہ پانچ وقت کی نماز میں اس عجز و انکسار کی عملی مشق کرنے سے مائل بہ اعتدال ہو جاتی ہے اور ایک ایسا معتدل کردار پیدا ہوتا ہے جو انسان کا عمل ہی کا ہو سکتا ہے۔ جماعت کی نماز سے اس کے کردار کی تعمیر میں اور بھی زیادہ مدد ملتی ہے۔ جب تمام آدمی اپنے ہی جیسے ایک آدمی کے پیچھے بلا امتیاز کمتری و برتری صف بستہ ہو کر ایک ہی طرح کی حرکتیں دن میں پانچ مرتبہ کرتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے کے ساتھ موافقت و موافقت کے جذبات پیدا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔

یوں سمجھنا چاہیے کہ توحید گویا ایک زہر ہے اور نماز ایک ایسا بادرہ جو اس کی تمام خرابیوں کو دور کر کے مدد کر دیتا ہے اور کون نہیں جانتا کہ جب زہر مدد ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ یا یوں کہنے کے بہت سے شیر صفت انسان ایک جگہ اکٹھے ہو کر عجز و انکسار اور محبت و پیار کی تربیت حاصل کرتے ہیں اور ان میں وہ کردار پیدا ہو جاتا ہے جو اَشِدُّ آءُ عَلٰی الْكٰفِرٰٓرُ حَمَآءٌ بَيْنَهُمْ..... ۵ (نوح-۲۹) ”(حضور کے ساتھی) کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحمدل“ کی تفسیر جسم ہوتا ہے۔ ایسے افراد کے کردار کی قوت اور چمک کا اندازہ آج کل کے بڑے سے بڑے ماہر نفسیات بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ان کی جماعت کے کردار کا تو ذکر ہی کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ایک طرف تو کسی کی غلامی قبول نہیں کر سکتے دوسری طرف کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔

۲۔ نماز ڈسپلن پیدا کرتی ہے

جو ایک اعلیٰ جماعت کی مکمل تنظیم و ارتباط کے لئے ناگزیر ہے۔ نماز باجماعت میں وقت اور حرکات و سکنات کی پابندی اور امام یا لیڈر کے اشاروں کی متابعت اشد ضروری ہے، یہ نہ ہو تو نماز فاسد یا ساقط ہو جاتی ہے۔ ڈسپلن کیا ہے؟ ضابطہ اور قواعد کی پوری پابندی اور لیڈر یا کمانڈر کے حکم کی بے چون و چرا تعمیل۔ کیا نماز میں پانچ وقت انہی باتوں کی عملی مشق نہیں کرائی جاتی یا یہ باتیں نماز کی نسبت کسی اور طریقے سے زیادہ اچھی طرح حاصل ہو سکتی ہے یا دنیا کا کوئی مذہب ایسی بڑا عمل و حکمت عبادت کی مثال پیش کر سکتا ہے؟

۳۔ نماز تنظیم کا ذریعہ ہے

اسلام نے نماز کی ترکیب ایسی مکمل اور پُر از حکمت رکھی ہے جس کی مثال نہیں۔ پہلے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی تنظیم و تربیت محلہ کی مسجدوں میں ہوتی ہے۔ پھر تمام شہروں کے مسلمانوں کی مساجد جامع میں، پھر شہر و مضافات کے مسلمانوں کی عید گاہوں میں اور آخر کار تمام دنیا کے مسلمانوں کی بیت اللہ میں۔ یہ ایک ایسا مکمل نظام اور بنی بنائی تنظیم ہے جس سے فائدہ اٹھانا کچھ مشکل نہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ اس طرح مذہبی تقدس و خلوص کے ساتھ جمع ہوتے ہیں ان کے دل محبت و اخوت اور باہمی تعاون عمل کے جذبات سے کبھی عاری نہیں ہو سکتے۔ تو کیا ان اجتماعات میں قومی مذلت و پستی کی وجوہات پر غور و خوض کر کے آئندہ ترقی کا کوئی منصوبہ بنا لینا اور اس پر عمل درآمد کر گزرنے کوئی محال یا مشکل کام ہے؟ یہ کام صرف ہمارے مذہبی اور

سیاسی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان کا ذاتی اقتدار اور مرتبہ اور بھی زیادہ بلند ہو جائے گا۔ محنت اور خلوص البتہ درکار ہے۔

۴۔ نماز قوتِ عمل پیدا کرتی ہے۔ کس طرح؟

صبح کو جب نرم گرم پچھونوں میں بیٹھی بیٹھی نیند تھپک تھپک کر سنانے کی کوشش کرتی ہے، خدائے ذوالجلال کے دربار میں حاضری کا خیال مسلمان کو بستر سے اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے اور وہ ضروریات سے فارغ ہو کر غسل یا وضو کر کے مسجد میں چلا جاتا ہے اور نماز میں اپنے خالق و مالک کی حمد و ثناء کرتا ہے، جس نے رات آرام سے گزاری اور جیتا جاگتا کھڑا کیا یا ظہر کے وقت جب صبح سے کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور سوائے کھانا کھانے یا آرام کرنے کے اور کسی بات کو دل نہیں چاہتا تو وہ اپنی قوت ارادی سے بھوک اور تکان کے تمام احساسات کو مغلوب کر کے نماز پڑھتا ہے۔ عصر و مغرب کے وقت جب کہ تمام دن کی محنت و مشقت سے بدن چور چور اور طبیعت راحت و آرام کی طالب ہوتی ہے وہ سستی اور کالی کولات مار کر مسجد جاتا اور خالق ارض و سما کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے وقت جب کہ ہاتھ پاؤں کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ قوت ارادی سے سوتے ہوئے حواس کو جگاتا اور نماز ادا کر کے اس رحمن و رحیم کا شکر بجالاتا ہے جس نے دن میں اس کو کام کرنے کی قوت عطا کی اور طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ اس شیخ وقتہ عمل سے قوت ارادی طاقتور ہوتی اور عمل کی طاقت ترقی کرتی چلی جاتی ہے، چستی پیدا ہوتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے اور صحت اچھی رہتی ہے۔ رات کو عام طور پر کھانا خوب کھایا جاتا ہے اور اکثر آدمی کھانا کھاتے ہی لیٹ جاتے ہیں۔ چلنے پھرنے کا کوئی کام نہیں کرتے جس سے سوء ہضم اور دائمی قبض پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ کچھ بھی نہ کریں مسجد تک جا کر صرف سترہ رکعت عشاء کی نماز پڑھ لیں تو یہ تکالیف پیدا نہیں ہو سکتیں۔

۵۔ نماز کا دو ہر افاکدہ

جو آدمی دولت کی زیادتی یا دوسری وجوہات سے بیکار رہوں اور صبح سے شام تک سوائے کھانے پینے اور پڑے رہنے کے اور کوئی شغل نہ ہو تو نماز ان کے لئے عین عمل بن جاتی ہے اور پڑے رہنے سے جو سئل اور سستی پیدا ہوتی ہے اس کو دور کر دیتی ہے۔ برخلاف اس کے جن آدمیوں کو بے انتہا کام ہو اور سر اٹھانے کی فرصت بھی نہ ملے، ان کے لئے دوران کار میں نماز پڑھنا عین آرام و راحت اور سکون کا باعث ہوتا ہے۔ یاد رکھیے حقیقی

سکون و آرام اسی وقت ملتا ہے جب دماغ تفکرات سے بالکل پاک ہو اور یہ بات نماز میں بدرجہ اولیٰ حاصل ہوتی ہے۔

۶۔ نماز سے سکون و اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے

جب تفکرات دنیا انسان کو حد سے زیادہ پریشان کر دیں، چاروں طرف مایوسی اور بیچارگی کا عالم ہو اور کوئی یار و مددگار نظر نہ آئے تو نماز ہی سے انسان کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ اکثر انسان ایسے حالات میں خودکشی تک کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن نماز ان کے خیالات کو بدل دیتی اور پائے ثبات کو ڈمگانے سے روک لیتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝ (الرعد: ۲۸) ”یاد رہے کہ مؤمنین کو اطمینان قلب اللہ کی یاد ہی سے میسر آتا ہے“ اور یہ بھی کہا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۝ (بقرہ: ۱۵۳) ”جب تم پر کوئی مصیبت پڑے تو صبر اور نماز سے مدلو“

۷۔ نماز برائیوں سے بچاتی اور اخلاق کو سدھارتی ہے

چنانچہ قرآن میں ہے۔ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذٰلِكَ اللّٰهُ اَكْبَرُ ۝ (العنکبوت: ۲۵) ”بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔“ لیکن افسوس کہ مشاہدہ اور تجربہ آج کل اس کے خلاف ہے۔ اکثر مغرب زدہ اصحاب اس مشاہدہ اور تجربہ کی بناء پر اس آیت کی صداقت ہی کا انکار کرتے ہیں اور نہ صرف نماز کے فوائد بلکہ خود نماز ہی سے منکر ہیں۔ اب بتائیے ہم انہیں کیسے سمجھائیں۔ کلام ربانی تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ باوجود نمازی ہونے کے دنیا بھر کے جھوٹے، چور اور دغا باز ہوتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، چور بازاری کرتے ہیں، غیبت کرتے اور چغلیاں کھاتے ہیں، دوسروں کے اعمال کی جستجو میں رہتے ہیں، وعدہ کر کے کبھی پورا نہیں کرتے، مسلمانوں میں انفرادی اور اجتماعی تفرقہ ڈلاتے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر اپنا اٹو سیدھا کرتے رہتے ہیں ان کی نماز نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ یا تو ریاکاری سے محض دنیا دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں یا پھر ان کی نماز فقط رسمی ہوتی ہے جس میں نہ خلوص ہوتا ہے نہ خشوع و خضوع اور نہ یاد باری تعالیٰ۔ یہی ہیں وہ نمازی جن کی نمازیں قیامت کے دن ان کے منہ پر مار دی جائیں گی اور کسی کام نہ آئیں گی۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کون سی نماز ہے جو برائیوں سے بچاتی اور اخلاق سدھارتی ہے؟

سینے۔ بات یہ ہے کہ نماز نہ تو شعائر اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے نہ سب سے آخری نہ یہ بذاتہ مقصود ہے۔ شعائر اسلام میں سب سے پہلی چیز ایمان محکم اور سب سے آخری چیز ہے اخلاق کامل اور نماز جیسا کہ اوپر بیان کی ہوئی آیت سے ثابت ہوتا ہے ذریعہ ہے اس اخلاق کے حصول کا۔ ایمان پہلی چیز اس لئے ہے کہ اگر آدمی ایمان ہی نہ لائے تو نہ اس پر نماز فرض ہونہ اور نہ ارکان مذہب میں سے کوئی اور رکن۔ اخلاق آخری چیز اس واسطے ہے کہ اگر ساری عمر نماز پڑھنے کے باوجود انسان کی برائیاں دور نہ ہوں اور وہ ایک نیک شہری نہ بن سکے تو یہ نماز معیار قرآنی کے مطابق بیکار ہے حتیٰ کہ اس کی بخشش کا سبب بھی نہ ہو سکے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز کی نقل اتارتے یا نماز کا مذاق اڑاتے یا بیگار ٹالتے ہیں۔ اس لئے نماز جس سے اخلاق سدھرتا ہے وہ ہے جس کی بابت رسول کریم نے فرمایا ہے۔ لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحَضُورِ الْقَلْبِ یا پھر جیسے اللہ نے بتایا ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ (طہ: ۱۴) یعنی وہ نماز جس میں اللہ کی حضوری حاصل ہو یا اللہ کی یاد دل میں بسی ہوئی ہو۔ ایسی نماز کوئی پڑھے تو دیکھیں کیونکہ اس کے اخلاق نہیں سدھرتے۔ ایسی نماز کا طریقہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جو بیس گھنٹے اللہ کو یاد رکھو تب ایسی نماز قائم ہو سکتی ہے۔ نفسیات کا سیدھا سا مسئلہ ہے کہ دن بھر جو خیالات دماغ میں بے رہتے ہیں ارتکاز خیال کے وقت رد عمل کی وجہ سے وہی دماغ میں بار بار آتے ہیں۔ پس اگر دماغ میں ۲۴ گھنٹے اللہ ہی کا خیال جاگزیں رہے گا تو نماز میں بھی اللہ ہی یاد آئے گا۔

۸۔ نماز احساسِ فرائض پیدا کرتی اور اس کو قائم رکھتی ہے

نماز فرض ہے اور اس کی ادائیگی پر اس قدر زور دیا گیا ہے کہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ تم بستر مرگ پر ہی کیوں نہ ہو اور ہاتھ پاؤں جواب دے چکے ہوں لیکن ہوش باقی ہو اور نماز کا وقت آجائے تو اشاروں ہی سے پڑھ لینے کا حکم ہے۔ اس سختی اور تشدد سے مقصود یہی احساس پیدا کرنا ہے کہ دنیاوی امور میں بھی جو چیز تم پر فرض ہے اس کو مرتے مرتے بھی ادا کرنا ہے۔ کیا کوئی مذہب اس قسم کی عبادت پیش کر سکتا ہے؟

۹۔ نماز روحانیت پیدا کرتی ہے

نماز اگر نماز کی طرح پڑھی جائے یعنی اس میں اللہ کی یاد ہو تو اس سے رفتہ رفتہ حضوری قلب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی کیفیت بڑھتے بڑھتے اس احساس میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ اللہ موجود ہے اور مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہی ایمان ہے جیسا کہ پیچھے بتایا جا چکا ہے۔

۱۰۔ نماز ہی ولی کامل بناتی ہے

یعنی جب ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو یہی نماز رفتہ رفتہ انسان کو مرتبہ احسان تک پہنچا دیتی ہے جو ولایت ہے۔ اس کا بیان پیچھے آچکا ہے۔

یہ ہیں نماز کے فوائد اور نفسیاتی اثرات۔ اب ہم دُعا کا کچھ بیان کرنا چاہتے تھے لیکن ایک بات یاد آگئی وہ بیان کرتے ہیں پھر دُعا کا بیان کریں گے۔ وہ یہ کہ ساتویں فقرے میں جو ہم نے لکھا ہے کہ نماز اخلاق کو سدھارتی اور برائیوں سے بچاتی ہے اس کے متعلق قرآن میں پوری آیت یوں ہے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ط..... ۝ (عنکبوت: ۴۵) ”بے شک نماز فحش اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد تو سب سے بڑی (عبادت) ہے۔“ تو اس آخری کلمے کو آڑ بنا کر بہت سے مغرب زدہ اور نماز کے چوریوں کہتے ہیں کہ جب اللہ کو یاد کر لینا ہی سب سے بڑی عبادت ہے تو اتنا کافی ہے کہ چلتے پھرتے اس کو یاد کر لیا جائے نماز کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس اللہ نے یہ فرمایا ہے اسی نے یہ بھی کہا ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ (طہ: ۱۴) یعنی ”قائم کرو نماز کو میری یاد کے لئے۔“ مطلب یہ ہے کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھنا اور اس کے پورے فوائد سے متنعم ہونا چاہتے ہو تو نماز میں اللہ کو یاد رکھو کیونکہ یاد رکھنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے اور چونکہ آیت میں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ بعد میں آیا ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ نماز بے شک برائیوں اور فواحش سے بچاتی ہے مگر یہ بات اسی حالت میں بدرجہ اتم حاصل ہو سکتی ہے جب کہ تم نماز میں اللہ کو یاد رکھو۔ اس کے علاوہ ہم ایسے لوگوں سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ کا فرمانا بجا کہ اللہ کی یاد سب سے بڑی عبادت ہے لیکن قرآن میں اور جو سینکڑوں جگہ نماز کا حکم دیا گیا ہے تو کیا آپ قرآن کی بعض باتوں کو تو مانیں گے اور بعض سے انکار کر دیں گے؟

دُعا

اگرچہ نماز خود ثناء ہے اور دُعا بھی لیکن نماز کے بعد اپنے اغراض و مقاصد کی دُعا مانگنا بھی بہت ہی اہم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نماز میں جو حضوری اور قرب خُداوندی حاصل ہوتی ہے اس کیف میں اگر دُعا مانگی جائے تو اکثر قبول ہوتی ہے۔ صد افسوس کہ بہت سے مسلمان دُعا کے بھی منکر ہیں اور اس کے لیے وہ عجیب عجیب دلیلیں دیتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے کہ ایک چیز کے لئے ایک ہی وقت میں دس یا سو آدمی دُعا کرتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے

کہ وہ چیز سب کو مل جائے، وہ تو ایک ہی کو ملے گی۔ سبحان اللہ کیا منطقی ہے۔ اس دلیل سے اتنا ہی تو ثابت ہوتا ہے کہ اس بارے میں صرف ایک ہی آدمی کی دعا قبول ہوگی باقی کی نہیں ہوگی۔ یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ دعا ہی نہ مانگو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ٹھیکہ لے رکھا ہے یا وہ مجبور ہے کہ آپ جو دعا مانگیں وہ ضرور ہی قبول کرے ورنہ آپ اس سے ناراض ہو جائیں گے اور دعا مانگنا چھوڑ دیں گے۔ کیا دھونس ہے! بات یہ ہے کہ اگر ایک ہی چیز کے لئے بہت سے آدمی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ جو عظیم ہے صرف اس شخص کی دعا قبول فرمائے گا جو اس چیز کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو اور نعوذ باللہ اللہ مجبور ہو کر آپ کی ہر دعا قبول کر لے تو پھر آپ ایسے ایسے ناپاک مقاصد بھی دعائیں مانگ کر حاصل کر لیں گے جن سے خود آپ کو بھی نقصان پہنچے گا اور نظام عالم بھی تباہ ہو جائے گا۔ ہر شخص بغیر عمل کے رزق اور روپیہ پیسہ حاصل کر لے گا اور عمل مفقود ہو جائے گا یعنی تمدن کا نام و نشان بھی نہ رہے گا۔ دراصل دعا کی سب سے بڑی ضرورت اور اہمیت یہ ہے کہ دعا سے ایک تو انسان کو اللہ کے آگے اپنی عاجزی اور محتاجی کا احساس اور یقین رہتا ہے، دوسرے دعا مانگتے وقت وہ اللہ کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے اور ایک ایسا روحانی کیف اور یقین حاصل کرتا ہے جس کا بیان ممکن نہیں۔ اب رہے وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اگر وہ مومن بندے ہیں تو ان کو یقین کر لینا چاہئے کہ جس چیز کو اللہ ہمارے لئے مفید نہیں سمجھتا اس کے لئے ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ سمجھ کر ان کو خدا کا شکر بجالانا چاہئے کہ اس نے ہمیں ایک مضر شے سے محفوظ رکھا۔

روزہ

۱۔ اسلام کی تمام عبادتوں میں صرف روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اللہ کی ایک صفت کی نقل کرتا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ جل مجدہ خورد و نوش سے پاک ہے اسی طرح روزہ دار بھی رمضان کے دنوں میں صبح سے شام تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ گو یا وہ اللہ کی ایک سنت پر کچھ دیر کے لئے عمل کرتا ہے۔ اگر روزہ دار اس تکلیف کو ملحوظ رکھے تو اللہ تعالیٰ دن بھر اس کو یاد رہے گا اور اللہ کو یاد رکھنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس سے روزہ کو چار چاند لگ جائیں گے۔

۲۔ پاکیزگی اور طہارت روزے میں لازمی ہے۔ روزے میں نہ صرف جسمانی بلکہ قلبی پاکیزگی بھی بہت ضروری ہے۔ مہینہ بھر قلب کو پاکیزہ اور گندے خیالات سے بچائے رکھنے سے اس قدر روحانی لطافت اور طاقت پیدا ہوتی ہے جو برسوں میں بھی نہیں ہو سکتی۔

۳۔ صبر و تحمل اور قوت برداشت پیدا کرنے کی بڑی مشق ہوتی ہے جو اعلیٰ انسانی کردار پیدا کرنے کے لئے سب سے ضروری ہے۔ مگر افسوس کہ ہمارا مشاہدہ اس کے خلاف ہے روزے میں مسلمانوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور اس کے گھناؤنے مظاہر ہر گھر میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ ایسے روزہ سے کیا فائدہ، روزے میں تو غصہ بالکل مرجانا چاہئے۔ مگر یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ روزے میں اللہ یاد ہو۔

۴۔ بھوک پیاس کو روکنے یعنی باوجود بھوک پیاس کے کچھ نہ کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشوں کو نگی کرنے سے قوت ارادی بہت بڑھ جاتی ہے اور یہ چیز بھی اعلیٰ انسانی کردار پیدا کرنے کے لئے بہت ضروری ہے۔

۵۔ نماز کی طرح روزہ بھی ادائیگی فرض کا احساس پیدا کرتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ خواہ کتنی ہی تکلیف اور مشقت آن پڑے فرض کو پورا کر کے دم لو۔

۶۔ غریبوں کی پیاس اور فاقہ زدگی کا احساس اور ان کی مدد اور خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو تنظیم و ارتباط ملت کے لئے بہت ضروری ہے۔

۷۔ گرد و پیش کے تمام مسلمانوں کو روزے سے دیکھ کر نادانستہ طور پر یکجہتی اور اجتماعیت کی روح ترقی کرتی ہے۔

۸۔ دن بھر بھوک پیاس سے رہتے ہوئے جب انسان اپنے روزمرہ کے کام انجام دیتا رہتا ہے، مثلاً کوئی دفتر میں کام کرتا ہے، کوئی کارخانے میں، کوئی ہل چلاتا ہے، کوئی پتھر توڑتا ہے تو اس سے مشکلات میں رہتے ہوئے بھی عمل کرنے کی بے پناہ قوت پیدا ہوتی ہے۔

۹۔ رمضان کے بعد عید کے دن جب سب مسلمان نماز کے لئے جمع ہو کر خوشی مناتے اور بے تکلفی سے کھاتے پیتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپس کی محبت و اخوت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اللہ کی نعمتوں کی صحیح قدر بھی ذہن نشین ہوتی ہے۔

۱۰۔ ماہ رمضان کا مجاہدہ یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم زندگی میں اللہ کی نعمتیں یعنی دنیاوی راحت و آسائش حاصل کرنا چاہتے ہو تو کچھ عرصہ بھوک پیاس کی تکلیف اٹھاؤ، نفسانی خواہشوں پر قابو حاصل کرو، اخوت و محبت سے رہو، صبر یعنی برداشت کی قوت پیدا کرو اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے برابر عمل کرتے چلے جاؤ، آخر میں تم دیکھو گے کہ تمہارا ہر روز روزہ عید ہے اور ہر شب شب برات۔

اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں نمازیوں کی نسبت روزہ دار بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے اوباش اور عیاش بلکہ چور اور ڈاکو تک رمضان کے مہینے میں پکے روزہ دار بلکہ پرہیزگار بن جاتے ہیں لیکن ادھر

رمضان ختم ہوا ادھر سب برائیاں اسی طرح موجود۔ یہ کیا بات ہے؟ کیوں ان لوگوں کے اخلاق کی اصلاح نہیں ہوتی؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ دراصل ان مسلمانوں کو اللہ پر ایمان کامل نہیں۔ یعنی عقائد کی بنیاد کمزور ہے تو باقی عمارت کس طرح مضبوط ہو سکتی ہے۔ روزے کے دوران بلکہ تمام رمضان میں شاید ہی صبح طور پر کسی کو احساس ہوتا ہو کہ اللہ موجود ہے اور ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بجائے صبر و تحمل اور قوت برداشت کے عام طور پر روزہ داروں میں گھبراہٹ، چڑچڑاپن اور غصہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رمضان میں سینکڑوں مرتبہ یہ فقرہ سننے میں آتا ہے کہ ”اس سے نہ بولنا اس کو روزہ لگ رہا ہے“ یا اس پر اس وقت روزہ سوار ہے، وغیرہ وغیرہ۔

مسلمانو! خدا کے لئے اتنا تو سوچو کہ عبادت بھی کرتے ہو، تکلیف بھی اٹھاتے ہو لیکن وہ مقصد حاصل نہیں کرتے جس کے لئے یہ سب کچھ فرض کیا گیا ہے۔ خدا را ذرا کوشش کرو اپنی عبادتوں کو صحیح طور پر انجام دونا کہ انفرادی اور اجتماعاً دونوں طرح دین اور دنیا میں سرخرو اور کامران ہو جاؤ۔

حج

اسلامی عبادات میں حج بھی ایک بے مثال اور مفید ترین عبادت ہے۔ حج صرف اس کا نام نہیں کہ مکہ معظمہ پہنچے، طواف کیا اور دوسرے مناسک حج ادا کر کے جیسے کورے گئے تھے ویسے ہی واپس چلے آئے اور سمجھ لیا کہ ہمارے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے اور جنت کا پروانہ مل گیا بلکہ حج سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔

۱۔ حج میں سفر کرنا پڑتا ہے اور سفر سے حوصلہ، عقل اور تجربہ بڑھتا ہے، جھجک دور ہوتی ہے اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔

۲۔ سفر میں جو صعوبتیں اور تکالیف پیش آتی ہیں ان کو ایک فریضہ مذہبی کی ادائیگی کے خیال سے بخوش برداشت کرنا پڑتا ہے جس سے تکلیفیں اٹھانے کی عادت پیدا ہوتی ہے اور قوت برداشت بڑھتی ہے۔

۳۔ چونکہ اکثر اوقات آدمی اکیلا ہی جاتا ہے اور ہر کام کے لئے خود اپنے ہی اوپر بھروسہ کرنا پڑتا ہے اس سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے جو اعلیٰ کردار انسانی پیدا کرنے کے لئے بہت ضروری صفت ہے۔

۴۔ سستی اور کاہلی رفع ہوتی ہے اور قوت عمل پیدا ہوتی ہے۔

۵۔ انسان جب حج کو جانے کا ارادہ کرتا ہے تو حضور رسالت مآب ﷺ کے روضہ پر حاضری کی تمنا بھی ضرور

ہوتی ہے اس لئے وہ تمام گناہوں سے توبہ کر لیتا اور پاک صاف دل لے کر جاتا ہے۔ ان میں اکثر ایسے ہوتے ہیں جو عمر بھر اس توبہ پر قائم رہتے ہیں اور نیک مرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔

۶۔ چونکہ دوران سفر دل نیکی اور محبت کے جذبات سے معمور ہوتا ہے، ہر آدمی دوسرے ہمراہیوں کی مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمدردی اور خدمت کا جذبہ ترقی پاتا ہے۔

۷۔ حج نیکی اور بدی کی کسوٹی ہے۔ جو لوگ محض دکھاوے کے لئے حج کرتے ہیں یا اپنی بدیوں کو حج نامہ کے مقدس پردے میں چھپانا چاہتے ہیں وہ واپس آ کر پہلے سے بھی زیادہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ برخلاف اس کے جو لوگ سچ حج نیک ہوتے ہیں واپس آنے کے بعد سب پر ان کی نیکیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔

۸۔ حاجی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں پرانے اماکن مقدسہ اور تاریخی مقامات کو دیکھتا اور قبور بزرگ پیرائے حیرہ کی زیارت کرتا ہے، اس کی وجہ سے ابتدائی تاریخ اسلام کی واقفیت پیدا ہوتی ہے اور دل میں ترقی و ایمان کا جذبہ اور جوش پیدا ہوتا ہے اور اگر دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو تو وہ جوش و جذبہ مستقل ہو جاتا ہے۔

۹۔ حاجی حضور سرکارِ دو عالم ﷺ کے روضہ اقدس پر بھی حاضر ہوتا ہے اور آپ کی سچی محبت اور نورانی روحانی سے مالا مال ہو کر واپس آتا ہے۔ اس نعمت کا مقابلہ اور کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی۔

۱۰۔ کعبۃ اللہ تمام ملتِ اسلامیہ کا مرکز ہے۔ شمال جنوب، مشرق مغرب ہر طرف کے مسلمان اہل فلسفہ منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس لئے کعبہ کی جو عظمت و بزرگی مسلمانوں کے دلوں میں ہے اسے ایسا بیان کی ضرورت نہیں۔ وہ امیر ہوں یا غریب، نیک اور پارسا ہوں یا گنہگار اور فاسق و فاجر، کعبہ کی حفاظت اور عبادت کے لئے بلا تامل اپنا جان و مال اور آل اولاد قربان کر سکتے ہیں۔ اسی کعبہ کے طواف کو ہر سال ہزار ہا مسلمان اطراف عالم سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے مذہبی اور سیاسی رہنما تھوڑے سے خلوص اور دل سے کام کریں تو یہاں ایک ایسا مرکز قائم ہو سکتا ہے جس سے تمام دنیا کے مسلمانوں میں ارتباط و تعلق پیدا کر کے ان کی عالمگیر تنظیم کی جاسکتی ہے۔ یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ایک دن ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ دیکھنا صرف ہے کہ یہ سعادت کس کی قسمت میں لکھی ہے۔

زکوٰۃ

اور عبادت کی طرح زکوٰۃ بھی ایسی مفید عبادت ہے جس کی مثال دنیا کا اور کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔

زکوٰۃ میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اجتماعی فوائد انفرادی فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔

۱- زکوٰۃ دینے والوں میں ہمدردی، ایثار اور خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو قومی بقا کے لئے ناگزیر ہے۔
 ۲- اگر ہمارے امراء زکوٰۃ نکالتے اور اس کے ساتھ ہی خیرات بھی کرتے رہیں جس کا قرآن میں جا بجا حکم دیا گیا ہے تو ہماری قوم میں روپیہ کی تقسیم اس طرح ہو سکتی ہے کہ نہ تو کوئی اتنا مالدار بن سکتا جتنے کہ یورپ، امریکہ اور ہندوستان کے سرمایہ دار، نہ اس قدر غریب رہ سکتا ہے کہ کھانے کو روٹی، پہننے کو کپڑا اور سر چھپانے کو جھونپڑا تک نہ ہو۔ اسلام نے دولت کی تقسیم کا جو یہ طریقہ رکھا ہے صد فیصد عملی ہے۔ کیونکہ میں دولت کی تقسیم کا جو قاعدہ ہے اگرچہ بظاہر بڑا دل پسند ہے لیکن عملی و فطرتی ہرگز نہیں۔ یہ طریقہ کچھ عرصہ تک طاقت کے زور سے قائم رکھا جاسکتا ہے اور کون نہیں جانتا کہ جو قانون اور قاعدے صرف ڈنڈے کے بل بوتے پر نافذ کیئے اور جاری رکھے جاتے ہیں ان کی بنیاد ریت پر ہوتی ہے۔ برخلاف ازیں جو قانون اور قاعدے عوام کی رضا اور خوشی پر قائم کیئے جاتے ہیں، ہمیشہ دیر پا ہوتے ہیں۔ عوام میں سے فطرتاً اور طبعاً کوئی بھی برضا و رغبت اس بات کو نہیں مان سکتا کہ دن رات محنت اور خون پسینہ ایک کر کے جو کچھ کمائے گورنمنٹ کے حوالے کر دے جس سے بڑے بڑے افسر تو مزے اڑائیں اور وہ معمولی روٹی کپڑے پر گزارہ کرتا رہے۔

۳- ہمارے ہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ انفرادی ہے۔ جو شخص زکوٰۃ نکالتا ہے وہ اپنی مرضی سے جس کو مستحق سمجھتا ہے دے دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بات بھی بہت اچھی ہے لیکن اگر ہر اسلامی ملک میں ایک بیت المال بنایا جائے اور تمام ملک کی زکوٰۃ کا روپیہ اس میں جمع کر کے انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی ضرورتوں پر خرچ کیا جائے تو چند ہی سال میں قوم نہ صرف اقتصادی بلکہ اخلاقی اور سیاسی اعتبار سے بھی ترقی کے چرخ چہارم پہنچ سکتی ہے۔

۴- انفرادی فوائد یہ ہیں کہ مستحق غریبوں اور محتاجوں کو فرداً فرداً اتنی مدد دی جاسکتی ہے کہ انہیں بھیک نہ مانگنا پڑے۔ یہی نہیں بلکہ ان کو ایسی مدد بھی دی جاسکتی ہے جس سے وہ اپنے گزارے کا کوئی مستقل ذریعہ قائم کر لیں اور آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے افلاس اور در یوزہ گری سے مامون و محفوظ ہو جائیں۔

۵- سڑک پر پڑے ہوئے اندھوں، لنگڑے لوہے محتاجوں اور ابا بچوں کے لئے محتاج خانے قائم کئے جاسکتے ہیں۔ اس سے دو گنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان ابا بچوں کی زندگی آرام سے گزرے گی۔ دوسرے یہ کہ بیرونی مہذب ممالک کے باشندے بازاروں اور شاہراہوں پر ان محتاجوں اور ابا بچوں کے لشکر کو دیکھ کر ہمارے متعلق جو حقارت آمیز خیال قائم کر لیتے ہیں نہ کر سکیں گے اور ہمارے قومی وقار کو ٹھیس نہ لگے گی۔ تیسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہمارے آوارہ اور کابل نوجوانوں کے دل میں ان گدا گروں کو دیکھ کر جو بے محنت و مشقت رزق پیدا

کرنے کا خیال پیدا ہو سکتا ہے نہ ہو سکے گا۔

۶- یتیم خانے قائم کئے جاسکیں گے اور قوم کے ہزاروں قابل دماغ بچے جو بے یار و مددگار ہونے کی وجہ سے غربت و ذلت کی زندگی بسر کرتے کرتے برباد ہو جاتے ہیں تباہی سے بچ جائیں گے اور قوم کے اچھے شہری ثابت ہوں گے۔

۷- ہونہار طلباء کو جو غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم رہتے ہیں وظیفے دے کر اعلیٰ تعلیم دلانی جاسکے گی۔

۸- قرضہ کے فکر سے انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور اسکی قوت عمل دماغی کوفت کی وجہ سے مفلوج ہو جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ کا روپیہ چونکہ قرض نہیں دیا جاسکتا امداد ادا یا جائے گا اس لئے لینے والوں کے سر پر کوئی بوجھ نہ رہے گا اور وہ بے فکری سے کام کر سکیں گے۔

۹- قوم میں غربت کے فقدان سے جو عام امنگ اور ایچ ترقی کے لئے پیدا ہوتی ہے وہ بڑی آسانی سے عوام میں پیدا ہو جائے گی۔

۱۰- بیت المال کے روپیہ سے ایسے مجاہدین کے اہل و عیال کی کفالت ہو سکے گی جو میدان جنگ میں شہید ہوں یا قوم کے لئے کوئی دوسرا خطرناک کام کرتے ہوئے مرجائیں یا مارے جائیں۔ مسلمانوں میں اسلامی عزت و وقار کے لئے خطرناک کام کرنے اور میدان جہاد میں جان قربان کر دینے والوں کی ہرگز کمی نہیں۔ کون سا مسلمان ہے جو رسول کریم ﷺ سے محبت نہیں کرتا اور حضور ﷺ کی اُمت یا حضور ﷺ کی تعلیم کو تباہی سے بچانے کے لئے جان قربان نہیں کر سکتا لیکن یہ خیال کہ ہمارے بعد بال بچے کیا کریں گے ایسی رکاوٹ ہے جو بڑے سے بڑے بہادروں کے پاؤں میں زنجیر ڈال دیتی ہے اس لئے جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد ہمارے پسماندگان کو کوئی تکلیف نہ ہوگی تو یقیناً کسی مسلمان کو بھی شہادت جیسی نعمت حاصل کرنے میں تامل باقی نہ رہے گا۔

اکثر علمائے دین کی رائے ہے کہ زکوٰۃ کا روپیہ حکومت کے نظم و نسق اور ترقیات کی دوسری مدوں پر خرچ نہیں کیا جاسکتا صرف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کے لئے ہی دیا جاسکتا ہے۔ ان بزرگوں کی توجہ ہم اپنے مندرجہ بالا نکات کی طرف خاص طور پر مبذول کراتے ہیں کہ یہ تمام مددات ایسی ہیں جن میں صرف غریبوں اور محتاجوں ہی پر روپیہ خرچ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب انفرادی طور پر بے قاعدہ اور بے ڈھنگے طور سے خرچ ہوتا ہے، بیت المال کے ذریعہ باقاعدہ اور زیادہ مفید طور پر خرچ ہو سکے گا۔

جہاد بھی اسلام کی ایک عظیم النظیر عبادت ہے۔ اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ دوسری تمام عبادتوں سے مسلمانوں میں جو اخلاقی خوبیاں اور قوتیں پیدا ہوتی ہیں اور جو کردار بناتا ہے جہاد ان سب کی کسوٹی اور امتحان ہے۔ اگر دوسری عبادتیں انفرادی اور اجتماعی تعمیر کے لیے ہیں تو جہاد اس تعمیر کو قائم اور باقی رکھنے کے لئے ہے اور عبادتیں اگر زندہ رہ کر کی جاتی ہیں تو یہ جان دے کر ادا ہوتی ہے۔ جب تک جہاد کی روح زندہ رہی مسلمانوں کے تمام مخالف لرزہ بر اندام رہے۔ جب یہ روح مر گئی تو مگر بھی مر گئی۔ یہ روح کیوں مری؟ ایمان کی کمزوری، عبادت سے تغافل، قرآن سے بے اعتنائی اور چارون کی زندگی کے عشق سے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ مذہب اور تعلیم قرآنی کی طرف سے بے پروائی اور حالات جہان سے بے خبری کے سبب بیروان اسلام اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے جو صدیوں تک یورپ اور بالخصوص انگریز کی طرف سے مسلمانوں میں مذہب اسلام اور خصوصاً جہاد کے خلاف بڑے زور و شور سے ہوتا رہا۔ اس پروپیگنڈے کا نقطہ ماسکہ یہ تھا کہ مسلمان غیر مسلموں کو بنوک شمشیر اسلام لانے پر مجبور کرتے ہیں اور جو کوئی انکار کرتا ہے اسے نہ تیغ کر دیتے ہیں اسی کا نام جہاد ہے اور یہ بات پر لے درجہ کی وحشت و بربریت اور ننگ انسانیت ہے۔ لطف یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈہ وہ یورپ اور انگریز کر رہا ہے جو خود دو سو برس تک مذہب کے نام پر مسلمانوں سے صلیبی لڑائیاں لڑتا رہا۔ اس پروپیگنڈے کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ تمام دنیائے عیسائیت کو مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں اکٹھا کر دیا جائے لیکن بعد کی صدیوں میں جب مسلمانوں میں مذہب کی طرف سے بہت زیادہ بے پروائی پیدا ہو گئی تو وہ خود اس سے متاثر ہونے لگے اور الزام کا جواب دینے کی بجائے خود جہاد کی افادیت کی طرف سے ہی شک میں پڑ گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ بہت سے لوگوں نے تو جہاد کے جواز یا فی الوقت ضروری ہونے ہی سے انکار کر دیا۔

اب مسلمانوں کو اگر یہ حیثیت مسلمان زندہ رہنا ہے تو اس روح جہاد کو پھر زندہ کرنا چاہئے لیکن ساتھ ہی یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے اور بیرونی دنیا کو بھی سمجھا دینا چاہئے کہ جہاد غیر مسلم ممالک پر قبضہ جانے، لوٹ مار سے روپیہ اور مال غنیمت یا دوسرے دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لئے ہرگز نہیں کیا جاتا۔ قرآنی اور اسلامی تعلیم کے مطابق جو مسلمان اس نیت سے جنگ کرتے ہیں ان کو ہرگز جہاد کا ثواب اور جہاد یا شہید کا مرتبہ نہیں ملتا۔ جہاد

کسی حیثیت سے بھی جارحانہ اقدام نہیں بلکہ اس کی حیثیتاً خالصتاً مدافعتی ہے۔ سرور کائنات ﷺ کے زمانہ میں جس قدر غزوات یا سریات ہوئے سب کی نوعیت مدافعتی تھی۔ قصہ مختصر جہاد صرف دفاعی جنگ ہے جو صرف اس وقت لڑی جاتی ہے جب کسی اسلامی ملک پر کوئی غیر مسلم طاقت حملہ کر دے یا اپنے ملک میں ایسی تباہیاں کرے جس سے مسلمانوں یعنی اسلام کو خطرہ ہو۔ بہت سے مسلمان یہاں تک کہہ گزرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک بھی مسلمان باقی نہ رہے اسلام تب بھی فنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو مسلمان کر دے گا۔ ایسے فقرے یہ لوگ درحقیقت بری نیت سے نہیں کہتے بلکہ مقصود اسلام کی حقانیت جتنا ہوتا ہے لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ کون سی چیز ان کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہے جو اس قسم کے الفاظ ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ یہ چیز ہے ایمان کی کمزوری، اپنے اوپر انتہائی بے اعتمادی بے عملی، سستی، کابلی اور دنیائے فانی کے مال و منال اور اہل و عیال کی محبت۔ مومن کبھی ایسا خیال بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو اسلام کی عزت کو بچانا اپنا فرض اور سعادت سمجھتا ہے اور جب ضرورت ہوتی ہے اس یقین کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتا ہے کہ اللہ کی نصرت اور فتح ہمارے ساتھ ہے اور ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ جب تک مومن اس سطح زمین پر باقی تھے دنیا نے ہزاروں مرتبہ ان کے اس عقیدے پر ممبر تصدیق ثبت کی ہے۔

اب رہا غیر مسلموں کا اعتراض تو اس کا ایک جواب تو اوپر دیا جا چکا ہے کہ جہاد ہرگز ہرگز جارحانہ نہیں بلکہ مدافعتی جنگ کو کہتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تم خود کیوں دو سو برس تک مذہب کے نام پر مسلمانوں سے صلیبی لڑائیاں لڑتے رہے ہو۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر مذہب کے نام یا مذہب کے تحفظ کے لئے جنگ کرنا شیوہ بربریت ہے تو آج بے دین کیہ وزم کے خلاف ”دیندار“ ملکوں کا اتحاد کیوں کرایا جا رہا ہے۔ الحمد للہ کہ عبادت کا بیان ختم ہوا۔ اب معاملات اور اخلاق و آداب کا بیان سنئے۔

معاملات اور اخلاق و آداب

انسان صبح سے شام اور شام سے صبح تک کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ اس کے یہ تمام افعال تین حصوں میں تقسیم کئے جاسکتے ہیں۔

- ۱۔ وہ فعل جن میں اس کا واسطہ صرف خدا سے ہوتا ہے۔ یہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں۔
- ۲۔ وہ فعل جو صرف اس کی اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں ان کو حقوق ذاتی یا حقوق نفسی کہتے ہیں۔
- ۳۔ وہ فعل جو اس کی ذات اور مخلوق کے کسی دوسرے فرد یا افراد سے متعلق ہوتے ہیں۔ ان کو معاملات کہا جاتا ہے۔ ان حقوق کو انسان جس طریقے اور نئےج سے ادا کرتا ہے اس کا نام اخلاق ہے۔ مثلاً اگر کوئی آدمی اپنے کسی حق کو نرمی، خوش اسلوبی اور بخوشی خاطر ادا کر دے تو یہ اخلاق حسنہ یا خوش خلقی کہلائے گا اور اس آدمی کو خوش خلق کہیں گے لیکن اگر کوئی آدمی اپنے حقوق ادا تو کرے لیکن سختی و درشتی، بدسلوکی، کراہت یا لیت و لعل سے ادا کرے تو اس طریقہ کو بد اخلاقی اور ایسے آدمی کو بد اخلاق کہا جائے گا۔

ہر قوم اور مذہب میں ان حقوق سے گناہ کو بجالانے کا ایک دستور ہوتا ہے۔ جس قوم کی اکثریت اپنے دستور پر جس قدر ہم آہنگی، یکسانیت اور سرگرمی سے عمل کرتی ہے اسی قدر وہ قوم آرام و آسائش اور راحت و عزت سے زندگی گزار سکتی ہے۔ ہر قوم کی طاقت و قوت اس دستور کی ساخت پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ یعنی جس قدر یہ دستور کسی قوم کے مقتضیات ذہنی و جسمانی کے مطابق ہوتا ہے اسی قدر وہ قوم طاقتور اور خوش حال ہوتی ہے۔ ملت اسلامیہ کا دستور قرآن ہے جو الہامی کتاب ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت و طبیعت اور مقتضیات کو جس قدر انسان کا بنانے والا سمجھ سکتا ہے خود انسان بھی ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ اس لئے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ دستور دنیا کا سب سے مکمل اور بے نقص دستور ہے۔ خصوصاً اس لئے کہ یہ دنیا کا آخری اور مکمل ترین دستور ہے۔ جو لوگ اس دستور کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اگر وہ اس پر پوری طرح عمل کریں تو ناممکن ہے کہ انفراداً یا اجتماعاً کسی لحاظ سے بھی گھٹائے میں رہیں۔ ہمارے زوال کی بجلی اور بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اس دستور پر پوری ہم آہنگی اور سرگرمی سے عمل نہیں کرتے۔ اس دستور میں حقوق اللہ، حقوق نفسی اور حقوق العباد سب بتا دیئے گئے

ہیں۔ اگر ہمارے تمام فرقے ان اصولوں پر سختی سے کار بند ہو جائیں اور فروعات یا اپنے خود ساختہ غلط اصولوں کے لئے ایک دوسرے کا سر نہ پھوڑیں اور دنیا کے قلیل نفع کی خاطر دین اور قوم کو دشمنوں کے ہاتھ نہ بیچیں، جیسا کہ ہو رہا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں وہی طاقت و عظمت پھر حاصل نہ ہو جائے جو قرآن اول میں حاصل تھی۔ اب ہم متذکرہ صدر حقوق سے گناہ کا بیان کرتے ہیں۔

حقوق اللہ

اگر تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم کو اس بات پر یقین محکم ہونا چاہئے کہ تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی تم کو رزق دیتا ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے تمہاری بہتری اور بہبودی کے لئے کرتا ہے، وہی تم کو مارے گا اور تمہاری موت کے بعد وہ مختار ہے کہ تمہیں سزا دے یا بخش دے۔ اگر تم کو یہ یقین محکم حاصل ہے تو تم پر فرض ہے کہ اللہ کی محبت، اطاعت، شکر اور خوف و رجا کے جذبات سے ہر وقت اپنے دل کو معمور رکھو، نعمتوں اور راحتوں کے لئے اس کا شکر بجالاؤ اور مصائب و تکالیف کے وقت اسی کی طرف رجوع کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یعنی وہ تمام احکام بجالاؤ جو قرآن میں موجود ہیں۔ چونکہ اس کا بیان پہلے مفصل دیا جا چکا ہے اس لئے اب حقوق نفسی بیان کئے جاتے ہیں۔

حقوق نفسی

اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حکم دیا ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اس کی حفاظت کرو اور سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا ہے ”اے ایمان والو تم پر اپنی جان کی فکر لازم ہے۔“ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔
وَلَسْنَا نَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ“ یعنی تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے نفس کی بقا اور درستی کی کوشش کرنی چاہئے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی اس کے بعد ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آدمی کا نفس ہی ہلاک ہو جائے یعنی آدمی مر جائے تو وہ نہ حقوق اللہ ادا کر سکتا ہے نہ حقوق العباد۔ اسی طرح یہ بھی ظاہر ہے کہ آدمی جتنا بیمار، کمزور، کم عقل، کم علم اور نا تجربہ کار ہوگا اتنا ہی اللہ اور مخلوق کے متعلق اپنے فرائض اچھی طرح انجام دینے میں قاصر رہے گا۔ اس لئے انسان کو چاہئے کہ اس کی اپنی ذات کے متعلق جو حقوق و فرائض اس پر عائد ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو پوری طرح انجام دے وہ فرائض یہ ہیں۔

۱۔ صحت، ۲۔ علم و تجربہ، ۳۔ عزت نفسی، ۴۔ خود اعتمادی، ۵۔ عمل۔

اب ہر ایک کا بیان الگ الگ کیا جاتا ہے۔

1- صحت

قیام صحت کے لئے یہ باتیں ضروری ہیں۔

۱- طہارت۔ جسم کی، لباس کی اور خیالات کی۔ جسم اور لباس کی طہارت کا بیان پیچھے کیا جا چکا ہے۔ خیالات کی پاکیزگی ایمان کامل، صحیح فہم کی نماز اور اللہ کے خوف سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا بیان بھی کیا جا چکا ہے۔

۲- غذا۔ غذا ایسی کھانی چاہئے جو زود ہضم اور زیادہ خون پیدا کرنے والی ہو۔ کھانا اس وقت کھانا چاہئے جب خوب بھوک لگے اور دونوں کے اشتہا باقی رہ جائے تو ہاتھ روک لینا چاہئے۔ غذا آہستہ آہستہ اور خوب چبا کر کھائی جائے۔ کھاتے وقت طبیعت خوب خوش اور بٹاش ہونی چاہئے۔ تفکر اور غصہ کی حالت میں کھایا ہوا کھانا اچھی طرح جزو بدن نہیں بنتا۔ گوشت جہاں تک ہو کم کھایا جائے کیونکہ اس سے غصہ اور بہیمیت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گوشت کو جائز قرار دیا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دونوں وقت بغیر گوشت کے لقمہ ہی نہ ٹوٹے۔ گوشت دماغ میں گرمی پیدا کرتا ہے حالانکہ دنیا میں کامیابی کے حصول کے لئے ٹھنڈے مزاج کی اشد ضرورت ہے۔

۳- لباس۔ سادہ پائیدار اور کم قیمت پہننا چاہئے۔ قیمتی اور بھڑکیلے لباس سے غرور و نخوت پیدا ہوتی ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ لباس پاک صاف ستھرا اور وضع قطع کے لحاظ سے دیدہ زیب اور حدود شرعی کے اندر قومی فیشن کے مطابق ہو۔ لباس گرمی، سردی وغیرہ کے لحاظ سے موسم کے مطابق آرام دہ ہونا چاہئے۔ زیادہ قیمتی لباس سے زندگی کے اخراجات بھی بہت بڑھ جاتے ہیں۔

۴- مکان۔ مکان پکا ہو یا کچا، محل ہو یا جھونپڑی آئینہ کی طرح صاف ستھرا ہونا چاہئے۔ گندے مکان کا اثر کمینوں کے مزاج اور ذہن پر ہمیشہ برا ہوتا ہے۔

۵- پابندی اوقات۔ اس کا صحت پر بہت ہی اچھا اثر ہوتا ہے کیونکہ زندگی کا قاعدہ گزرتی ہے۔ دن رات کے چوبیس گھنٹوں کو اس طرح بانٹا جائے کہ کام، عبادات اور تفریحات سب کے لئے مناسب وقت مل جائے۔ قیام صحت اور پابندی اوقات کے لئے سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ رات کو

انسان جلد از جلد سو جائے اور صبح سورج نکلنے سے کم از کم ایک گھنٹہ قبل ضرور ہی اٹھ بیٹھے۔ رات کو زیادہ دیر تک جاگنا، زیادہ پڑھنا اور زیادہ دیر تک کھیلنا صحت کے لئے ستم قاتل سے کم نہیں۔ صبح سویرے اٹھنے کے فوائد کون نہیں جانتا۔

۶- غسل۔ غسل روزانہ کرنا چاہئے۔ پانی موسم کے لحاظ سے اپنی مرضی کے مطابق گرم یا سرد ہونا چاہئے۔

۷- عبادت۔ صحت کے قیام کے لئے عبادت بھی بہت ضروری ہے۔ اس سے دماغ کو سکون اور دل کو طاقت اور راحت حاصل ہوتی ہے اور تفکرات کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔

۸- ورزش اور کھیل گود۔ یہ بھی بہت ضروری اور اہم ہیں خواہ دیسی ہوں یا مغربی قسم کے۔ ورزش کا بہترین وقت قبل از طلوع آفتاب اور کھیلوں کا بہترین وقت عصر اور مغرب کے درمیان ہے۔ جو لوگ ورزش نہ کر سکیں ان کو صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو مغرب کے بعد یا ذرا پہلے اس قدر چہل قدمی کرنی چاہئے کہ کسی قدر تکان ہو جائے۔

۹- کام۔ کام اتنا کیا جائے کہ تکان ہو جائے۔ دماغی اور تحریری کام کرنے والوں کو کھانا کھانے کے کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ بعد کام شروع کرنا چاہئے۔ ایسے لوگوں کو صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا ہلکا اور کسی قدر کم کھانا چاہئے۔ کام میں لگ رہنے سے صرف صحت ہی اچھی نہیں رہتی بلکہ رنج و غم اور تفکرات بھی پاس نہیں پھٹکنے پاتے۔

۱۰- تفریح۔ کام ختم کرنے اور رات کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر تفریح کرنا بھی ضروری ہے۔ بہترین تفریح یہ ہے کہ دوستوں یا اپنے بال بچوں میں بیٹھ کر خوب ہنسی، دل لگی اور مذاق کی باتیں کی جائیں۔ خوب ہنسنا اور ہنساؤ۔ جب کھانا تحلیل ہو جائے تو عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاؤ۔ یہ ہیں وہ باتیں جو صحت کے لئے ضروری ہیں لیکن ایک مسلمان کے لئے صرف صحت کا تحفظ ہی کافی نہیں بلکہ ہر مسلمان کو اتنی جسمانی طاقت بھی پیدا کرنی چاہئے کہ وہ بیک وقت کم از کم دو کافر دشمنوں کا مقابلہ کر سکے۔ اسلام کی عزت اور اپنے ناموس کی حفاظت کے لئے یہ چیز آج کل بہت ہی ضروری ہے۔

2- علم و تجربہ

زندگی آرام و عزت سے گزارنے کے لئے علم و تجربہ حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے اس سے عقل

مرتبہ حاصل کر کے رہوں گا۔ پھر اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لئے ایک دستور العمل بنانا چاہئے پھر خوب کوشش کرنی چاہئے کہ وہ نصب العین حاصل ہو جائے۔ نصب العین اپنے ذرائع کی ممکن حدود کے مطابق ہونا چاہئے ایسا نصب العین ہرگز مقرر نہ کرنا چاہئے جس کا حصول ممکن ہی نہ ہو۔ ہاں جب ایک نصب العین حاصل ہو جائے تو البتہ دوسرا اور پہلے سے اعلیٰ نصب العین متعین کر کے اس کے حصول کی کوشش شروع کی جاسکتی ہے۔ یہاں تک کہ عمر تمام ہو جائے۔ مطلب یہ کہ خالی اور بیکار پڑے رہنا کسی طرح بھی شریف انسان کے شایان شان نہیں۔ جانور بھی بیکار نہیں رہتے۔ اپنی اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب حقوق العباد کا بیان سنئے۔

====☆☆☆☆====

بڑھتی ہے، کسب معاش میں سہولت ہوتی ہے اور دنیا میں عزت ملتی ہے۔ علم ایسا حاصل کرنا چاہئے جس سے دین اور دنیا دونوں کی سمجھ پیدا ہو اور قوم کی انفرادی اور اجتماعی ترقی میں مدد ملے۔ تجربہ حاصل کرنے کے لئے مختلف قسم کی صحبتوں میں بیٹھنا اور لوگوں کے افعال و اقوال اور حرکات و سکنات کا بغور مطالعہ کرنا چاہئے۔ سفر سے تجربہ حاصل کرنے میں بے انتہا مدد ملتی ہے ممکن ہو تو ہر سال میں ایک مرتبہ ضرور ہی کہیں کا لمبا سفر کیا جائے ورنہ مہینے میں ایک مرتبہ دو ایک دن کے لئے تفریحاً آس پاس کے شہروں، جنگلوں اور دیہات میں جانے کا تو کوئی ضرور ہی بندوبست کرنا چاہئے۔ اچھے مصنفوں کی کتابیں علم و تجربہ دونوں کو بڑھانے میں قابل قدر مدد دیتی ہیں۔

3- عزت نفسی

شرافت اور نیکی پر قائم رہنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان خود اپنی نظر میں عزت والا ہو۔ جو شخص خود اپنی نظر میں ذلیل ہوگا دوسروں کی نظر میں ہرگز معزز نہیں ہو سکتا۔ اگر دھوکہ یا غلطی سے کچھ لوگ اس کی عزت کریں بھی تو آخر میں قلعی کھل جائے گی۔ اپنی نظر میں انسان کی عزت اسی حالت میں قائم رہ سکتی ہے جب وہ نیک ہو۔ عزت نفسی قائم رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تنہائی میں بھی انسان کے خیالات پاکیزہ رہیں اور کسی برے کام کا خیال بھی آئے تو وہ شرمندہ ہو جائے لیکن یہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کو حاضر و ناظر محسوس کرتا ہو اور یہ بات جیسا کہ بیان ہو چکا ہے ایمان کامل ہی سے پیدا ہوتی ہے۔

4- خود اعتمادی

دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لئے بڑی شرط یہ ہے کہ انسان کو خود اپنے اوپر اعتماد ہو۔ اعتماد اس بات پر کہ میں اس کام کو واقعی پوری قابلیت سے انجام دے سکتا ہوں۔ اعتماد اس بات پر کہ میں ایسی کوئی حرکت نتیجہ اور ناشائستہ نہیں کر سکتا جس سے اللہ کی حکم عدولی ہوتی ہو۔ اعتماد اس بات پر کہ میں شریف ہوں مسلمان ہوں، اور مومن ہوں۔

5- عمل

دنیا اور دین میں کامیابی کے لئے عمل بھی ضروری چیز ہے۔ عمل کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ انسان کتنا ہی عقلمند ہو عالم اور فاضل ہو جب تک عمل نہ کرے گا پتھر کی طرح اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ اس لئے علم و تجربہ حاصل کرنے کے بعد اپنا ایک نصب العین مقرر کر لینا چاہئے کہ میں زندگی میں فلاں شے یا فلاں

حقوق العباد

تمام حیوانات کی فطرتی صفت ہے کہ اپنے اپنے ہم جنسوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ انسان میں بھی یہ صفت ہے اور بدرجہ اتم ہے۔ حیوانات میں چونکہ عقل نہیں اور ان کی ضروریات زندگی مختصر ہیں اس لئے وہ ابتدائے آفرینش سے جس حالت میں تھے اسی میں آج بھی ہیں لیکن انسان کا حال ان سے مختلف ہے۔ وہ اسی پر بس نہیں کرتا کہ پیٹ بھرنے کو کوئی چیز میسر آ جائے اور گرمی سردی وغیرہ سے بچنے کو ماٹن موجود ہو۔ بلکہ اسے اور بھی کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً لباس کی، درندوں اور دشمنوں سے حفاظت کے لئے ہتھیاروں کی اور اس بات کی کہ جہاں قدرتی طور پر غذا موجود نہ ہو یا موسم کی سختیوں سے بچنے کے لئے مساکن میسر نہ آسکیں وہاں اپنی عقل خداداد سے کام لے کر یہ چیزیں خود پیدا کرے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں ایک صفت ایسی عجیب و غریب ہے جو جز اور بنیاد ہے ساری تمدنی ترقی کی۔ وہ صفت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کو بھی بے حد محسوس کرتا اور اس کو دور کر کے زیادہ سے زیادہ آرام حاصل کرنے کی کوشش میں دن رات مصروف عمل رہتا ہے مثلاً ابتداء میں انسان صرف پیدل سفر کرتا اور اپنا بوجھ خود اٹھا کر لے جاتا تھا اس تکلیف سے بچنے کے لئے اس نے جانور سدھائے اور استعمال کئے لیکن جب اس میں بھی تکلیف محسوس ہوئی تو گاڑی بنائی۔ اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو ریل ایجاد کی اور پانی کے جہاز بنائے۔ کچھ دن تو بہت خوش رہا لیکن جلد ہی ان سے بھی اکتا گیا تو موٹر اور آخراک ہوائی جہاز بنا ڈالا لیکن مطمئن اس پر بھی نہیں ہے۔ اب چاہتا ہے کہ ایسی سواریاں ایجاد کرے جو ان ہوائی جہازوں سے بھی زیادہ سریع السیر اور آرام دہ ہوں اور جو صرف اس زمین ہی پر نہیں بلکہ آسمان میں چاند اور ستاروں تک چشم زدوں میں پہنچا سکیں۔ بالفرض یہ بھی ہو گیا تو پھر یہی حضرت انسان یوں فرمائیں گے کہ میاں ان جہازوں میں بیٹھ کر جانے کی گنجھٹ میں کون پڑے۔ کوئی ایسی ترکیب ہونی چاہیے کہ گھر میں چار پائی پر لیٹے لیٹے جہاں جی چاہا پہنچ گئے۔ چنانچہ یہ نظر یہ اس وقت بھی دماغوں میں موجود ہے اور کوشش ہو رہی ہے کہ وائی بریشن (Vibration) کے ذریعہ ٹھوس مادے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوئی ترکیب معلوم ہو جائے اور انسان ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اس طرح دور دراز مقامات پر پہنچ جائے جیسے ٹیلی ویژن کے نظارے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ یہ صرف نقل و حمل کے شعبہ کا ذکر ہے۔ دوسرے شعبوں میں جو کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ بھی کچھ کم عجیب نہیں ہے۔ طرح طرح کی مصنوعی غذائیں، لباس

مکانات اور ہتھیار بنانے کے لئے زمانہ حجر یہ سے اب تک جو کچھ ہوا ہے پیش نظر ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کے دھندلے دھندلے سائے ابھی سے نظر آ رہے ہیں۔

الغرض یہ ہے وہ صفت جس کی وجہ سے تمام علوم وجود میں آئے۔ سائنسی اکتشافات اور ایجادات ہوئیں اور تمدن ترقی کرتے کرتے وہاں آ پہنچا جہاں آج ہے۔ ظاہر ہے کہ آرام و آسائش کے یہ اسباب و ذرائع ایک اکیلا آدمی کسی طرح بھی مہیا نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے ضروری ہوا کہ بہت سی جماعتیں ایک جگہ مل کر اکٹھی رہیں اور سب ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اس طرح بستیوں کی بنیاد پڑی۔ اب چونکہ ہر بستی میں رہنے والی جماعتوں کے کام اور پیشے مختلف لیکن ضروریات زندگی مشترک تھے اس لئے آپس کے میل جول اور لین دین کے بغیر افراد گراہ ہی ممکن نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ طبائع ایک دوسرے سے مختلف تھیں یعنی کوئی سست اور کاہل تھا تو کوئی چست و چالاک، ایک بیوقوف تھا تو دوسرا عقلمند، ایک ایماندار اور دیندار تھا تو دوسرا بے ایمان اور خائن، ایک صلح کل تھا تو دوسرا فسادی اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ مل جل کر رہنے کے کچھ ایسے طریقے مقرر کئے جائیں کہ ہر شخص اطمینان و آرام کی زندگی بسر کر سکے اور اپنی محنت کا پورا فائدہ اٹھا سکے۔ اس بات کو انسان کا خالق پہلے ہی جانتا تھا اور جانتا کیا تھا اس پر فرض تھا کہ جب اس نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا تو اس کو اس زمین پر رہنے کے ایسے طریقے بھی بتائے جو اس کی بقا کے ضامن ہوں اور جن پر عمل کر کے وہ دن رات ترقی کرتا چلا جائے۔ چنانچہ اس خالق نے ابتداء ہی سے ہر ملک و قوم میں منتخب اشخاص کو الہام اور وحی کے ذریعہ یہ طریقے تعلیم کئے اور جب ایک ہی انسان کا پیغام ساری دنیا میں پہنچنے کے ذرائع پیدا ہو گئے تو اس نے ایک مکمل اور آخری دستور حضور سرور کائنات ﷺ پر نازل فرما کر تمام اہل دنیا تک پہنچا دیا۔ جن برگزیدہ انسانوں پر الہامات ہوئے یا کتا ہیں نازل کی گئیں وہ نبی یا مرسلین کہلائے اور جو تعلیم اس طرح دی گئی اسی کا نام ”مذہب“ مشہور ہوا۔ اس تعلیم الہی میں تفصیلات کبھی نہیں دی گئیں، صرف اصول بتائے گئے تھے تاکہ تفصیلات انسان خود معلوم کر لے اور اس کی ذہنی ترقی رک نہ جائے۔ چنانچہ انہی اصولوں پر انسان کی مختلف قوموں نے اپنی اپنی خصوصیات اور ضروریات کے مطابق تفصیلات بعد میں خود وضع کر لیں جو لیجسلیٹیو (Legislature) یا انسانوں کا بنایا ہوا قانون کہلائیں۔ اب جو قوم ان مذہبی یا انسانی قوانین پر جس قدر زیادہ ہم آہنگی اور سرگرمی سے عمل کرتی ہے اتنی ہی زیادہ طاقتور اور خوشحال ہو جاتی ہے اور جس قوم میں یہ ہم آہنگی اور سرگرمی عمل باقی نہیں رہتی وہ کمزور یا فنا ہو جاتی ہے خواہ اس کے قوانین دوسری قوموں سے زیادہ افضل

واعلیٰ ہی کیوں نہ ہوں۔

ہمارا دستور زندگی قرآن ہے اور اس میں ان تمام معاملات کا بیان ہے۔ جن کے لئے انسان کا واسطہ ایک دوسرے سے پڑتا ہے۔ قرآن حکیم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان معاملات کی تکمیل کے لئے ہم کو ایک دوسرے سے کیا کیا سلوک کس کس طرح کرنا چاہئے۔ اسی کو معاملات اور اخلاق و آداب کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے اخلاق و آداب پر اب تک سینکڑوں قابل قدر کتابیں لکھی ہیں اور آج کل بھی لکھ رہے ہیں لیکن چونکہ یہ کتابیں اس نظریہ پر مبنی ہوتی ہیں کہ دنیا فانی، ذلیل، کلتیا، مردود اور مردار لاش ہے اور طالب دنیا ذلیل، کتا، حرام خور اور خدا جانے کیا کیا ہے۔ اس لئے آج کل جب کہ مسلمانوں کے پاس دنیا یعنی دنیاوی نعمتیں اور طاقتیں پہلے ہی بہ منزلہ صفر کے ہیں اس قسم کی کتابوں سے بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس زمانہ کے بزرگوں کو ایسا ہی لکھنا چاہئے تھا۔ کیونکہ اُس وقت نعمتِ دنیوی کی بہتات سے دین اور ملتِ خطرے میں تھی لیکن آج جب کہ نعمت ہائے دنیوی کے فقدان سے دین و ملت کو خطرہ لاحق ہے ایسی کتابیں پڑھنا اور شائع کرنا جہاں تک دنیاوی طاقت کے حصول کا تعلق ہے بہت ہی خطرناک ہے۔

اب ہم معاملات و اخلاق کا بیان شروع کرتے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی پوری اہمیت کن الفاظ میں ظاہر کریں۔ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ایمان عقائد اور عبادات سب کی غرض و غایت یہ اور صرف یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں راحت و آرام کی زندگی حاصل ہو اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان معاملات میں صادق اور اخلاق میں کامل نہ ہو جائے۔ بالفرض کوئی آدمی۔ پانچ وقت نہیں بلکہ دس وقت نماز پڑھے، مہینہ بھر نہیں سال بھر روزے رکھے، ہر سال حج کرے اور زکوٰۃ دے لیکن دوسرے لوگوں کے متعلق اپنے فرائض ادا نہ کرے مثلاً بیوی بچوں کو نان نفقہ سے تنگ رکھے لوگوں کا مال دھوکے سے ہضم کر جائے، غیبت کرے، جھوٹ بولے، چوری کرے، رشوت لے، فرائض منصبی دیانت داری سے ادا نہ کرے، کم تولے، کم ناپے، لوگوں کو لڑائے اور قوم میں تفرقہ ڈلاوے، شد جو، مغرور اور مغلوب الغضب ہو۔ دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھے اور ان سے سیدھے منہ بات کرنا اپنی توہین جانے تو آپ کا خیال ہے وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا اور ان بد اعمالیوں کی سزا نہ پائے گا یا دنیا میں اس کو سچی عزت و وقعت اور آرام و سکون کی زندگی میسر آ جائے گی۔ ایسا آدمی مال و دولت کے انبار بھی جمع کر لے تو حقیقی عزت اور قلبی راحت و سکون تو اسے یقیناً اس دنیا میں بھی میسر نہیں آ سکتا۔ اس لئے یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ معاملات و اخلاق کی جو حمد و اللہ نے مقرر کر دی ہیں اور

جو طریقے کار براری کے بتادیئے ہیں ان پر پوری سرگرمی اور تن دہی سے عمل کرنا بھی بالکل اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ وغیرہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم قرآن کی بعض باتوں پر تو عمل کرو اور بعض پر نہ کرو۔ آگے بڑھنے سے پہلے دو باتیں بتادینا بہت ہی ضروری ہیں کیونکہ یہی دو باتیں کنجی ہیں تمام کامیابی کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ معاملات کی کار براری میں جو حقوق دوسرے لوگوں کے تم پر عائد ہوتے ہیں ان کو بغیر لیت و لعل اور بلا تعوق و تا مل جلد از جلد خوشی خوشی ادا کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے جو حقوق دوسروں کے ذمہ ہیں ان کو ہر حالت میں حاصل کر کے رہو۔ کبھی ڈھیل نہ دو خصوصاً جب کہ ان کا اثر تمہارے اہل و عیال، عزیز و اقربا اور قومی مفاد پر پڑتا ہو۔ اس پچھلی بات پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر اس اصول پر عمل کیا جائے تو پھر سخاوت اور ایثار کس کو کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ ایثار آپ اپنے ذاتی حقوق کی قربانی سے کر سکتے ہیں اور بے شبہ یہ بہت بڑی نیکی ہے لیکن اپنے متعلقین یا قوم کے حقوق پر دستبرد کر کے دوسروں کی مدد کرنا ہرگز ایثار نہیں بلکہ گناہ ہے۔ ہاں آپ حقداروں کی مرضی اور رضامندی سے ایسا کر سکتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس زمانہ میں قوم کی زبوں حالی سے ہزار ہا آدمی ایسے ہیں جو اہل ہونے کے باوجود کوئی کام نہیں کرتے صرف لوگوں کی سخاوت اور ایثار پر گزرا رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ سخاوت یا ایثار کرنا قوم کو بے عملی کی دعوت دینا ہے اس لئے ایثار صرف اپنے ذاتی حقوق کی قربانی سے کیا جائے اور وہ بھی صرف ان کے لئے جو اہل ہوں۔ نا اہلوں کے لئے ایثار کرنا سخت نقصان دہ ہے یہ دو باتیں بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینے کے بعد اب آگے چلیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ باہمی معاملات اور اخلاق کی ابتداء گھر سے ہوتی ہے یا یوں کہتے کہ گھر ہی تمدن کی سب سے چھوٹی اور بنیادی یونٹ ہے اس لئے جتنی یہ یونٹ اچھی، مضبوط، مکمل اور نقائص سے پاک ہوگی۔ اتنا ہی قومی تمدن اعلیٰ و ارفع اور دنیا میں طاقت و عزت و عظمت اور ترقی کا باعث ہوگا۔ اس لئے ہم گھر ہی سے اپنے بیان کی ابتدا کرتے ہیں۔

گھر

یہاں ”گھر“ سے مراد خاوند، بیوی اور ان کے بچے ہیں خواہ وہ کسی محل میں رہتے ہوں یا جھونپڑی میں، دراصل گھر بنتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے ایسے عقد سے جس میں وہ اپنے مذہبی یا قومی دستور کے مطابق یہ عہد کریں کہ ہم میاں بیوی کی طرح اکٹھے رہیں گے۔ اس معاہدے کے معرض وجود میں آتے ہی دونوں پر کچھ

حقوق و فرائض عائد ہو جاتے ہیں۔ اب جس قدر وہ دونوں ان حقوق و فرائض کو بوجہ احسن خوبی اور تندہی سے انجام دیں گے اسی قدر راحت و سکون سے رہیں گے اور یہ گھر جنت بن جائے گا، برخلاف ازیں جس قدر وہ ان حقوق و فرائض کی طرف سے روگردانی اور بے پروائی کریں گے اتنی ہی زندگی مصیبت اور تکلیف سے کٹے گی اور یہی گھر ان کے لئے جہنم ہو جائے گا۔ ان میں کچھ حقوق و فرائض میاں بیوی دونوں پر مشترکہ حیثیت سے عائد ہوتے ہیں اس لئے ہم پہلے انہی کا بیان کریں گے۔

۱۔ دونوں کا سب سے پہلا اور سب سے اہم مشترکہ فرض یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے ہی دن سے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے مزاج اور عادتوں میں مناسب تغیر و تبدل کر کے ہم مزاج اور ہم خیال بن جائیں۔ یہ کام کتنا ہی مشکل نظر آئے آئندہ زندگی کو خوشگوار اور کامیاب بنانے کے لئے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا اشد ضروری اور لازم ہے۔ اس کام کو آسانی سے سرانجام دینے کے لئے ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی فرگنداشتوں کو بالکل نظر انداز کر دینا اور بڑے بڑے اختلافات کو محبت اور پیار سے ایک دوسرے کو بتا دینا چاہیے۔ بتانے وقت طبیعت میں غصہ اور انداز بیان میں درشتی اور شکایت کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ اُلٹا اثر پڑے گا اور بنتا ہوا کام بگڑ جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے دن دونوں آپس میں سمجھوتہ کر لیں کہ جس کو بھی دوسرے کی کوئی بات ناگوار ہوگی صاف صاف بتا دے گا دل میں نہ رکھے گا۔ کیونکہ اس سے غلط فہمیاں پیدا ہو کر رانی کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ اگر دو چار ماہ یہ عمل کیا جائے اور انتہائی صبر اور قوت برداشت سے کام لیا جائے تو زیادہ عرصہ نہ گزرے گا کہ گربستی کی گاڑی زندگی کی شاہراہ پر فرالے بھرنے لگے گی اور باقی عمر جو ممکن ہے پچاس ساٹھ برس سے بھی زیادہ ہو بہت آرام و آسائش اور لطف و راحت سے بسر ہوگی۔ کس قدر احمق ہیں وہ لوگ جو شادی کے بعد ذرا ذرا سی شکایتوں اور بدگمانیوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو تلخ اور اپنے جنت کدہ کو جہنم بنا لیتے ہیں اور پھر الزام قسمت اور خدا کو دیتے ہیں۔

۲۔ جس مکان میں رہتے ہیں اس کو صاف ستھرا رکھنا اور اس کی مرمت لپائی پونائی اور سفیدی وغیرہ کراتے رہنا میاں بیوی دونوں کا مشترکہ فرض ہے خواہ یہ صفائی وغیرہ نوکروں کے ذریعہ کرائی جائے یا خود کرنی پڑے۔ عام طور پر مرد اس کو اپنے فرائض میں سے نہیں سمجھتے لیکن یہ ان کی غلطی ہے میاں بیوی دونوں برابر حیثیت سے اس کے مکین ہیں اور اس لحاظ سے خاوند پر بھی اس مکان کا اتنا ہی حق ہے جتنا بیوی پر۔

۳۔ جو اولاد پیدا ہو اس کی پرورش، تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری میاں بیوی دونوں ہی پر عائد ہوتی ہے۔ دونوں کو آپس میں پوری دلچسپی لینی اور اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اس میں کوئی کسر اٹھانہ رکھنی چاہیے۔

۴۔ مکان میں خاوند یا بیوی کے جو رشتہ دار رہتے ہوں ان کی خاطر و خدمت دونوں کا مشترکہ فرض ہے۔ یہ ہرگز جائز نہیں کہ اگر وہ لوگ خاوند کے رشتہ دار ہیں تو بیوی کو برا لگے اور اگر بیوی کے رشتہ دار ہیں تو خاوند کو ناگوار ہو۔

۵۔ مکان میں جو لوگ بطور مہمان آئیں ان کی خاطر تو واضح بھی دونوں ہی پر برابر فرض ہے۔ مہمان چاہے خاوند کے ہوں یا بیوی کے دونوں کو ان کی مدارات برابر کرنی چاہیے۔ اس کے برخلاف کرنا شرافت کے خلاف ہے۔

۶۔ میاں اور بیوی کے درمیان کوئی راز اور کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس رشتہ میں بھی تکلف باقی رہا تو پھر بے تکلفی کا لفظ ہی بے معنی ہے۔

اب ہم میاں بیوی دونوں کے الگ الگ حقوق و فرائض کا بیان کریں گے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ کچھ ذکر اس معاہدے اور اس کے متعلقات کا کر دیا جائے جس سے ”ایک گھر“ وجود میں آتا ہے۔ شریعت اسلامی میں اس معاہدے کو نکاح کہتے ہیں۔

نکاح

جب سے انسان پیدا ہوا اور اللہ نے اس کو زمین پر رہنے سہنے کے طریقے وحی الہام یا عقل کے ذریعہ تعلیم فرمائے۔ نکاح کا دستور اسی دن سے کسی نہ کسی صورت میں آج تک موجود رہا ہے۔ یہ اللہ کا حکم اور ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے۔ غرض و غایت نکاح کی یہ ہے کہ بچے جس مرد کے ہوں صرف وہی ان کی پرورش کا ذمہ دار قرار دیا جائے اور وہ مرنے نہ پائیں۔ اگر نکاح کا طریقہ نہ ہوتا تو بڑی قبائلیں پیش آتیں۔ مثلاً اس حالت میں جو بچے پیدا ہوتے ان کی ولدیت کا تعین ناممکن ہوتا اور کوئی مرد ان کی کفالت نہ کرتا اس طرح ان کی پرورش کا سارا بوجھ صرف ماں کو اٹھانا پڑتا لیکن عورت چونکہ فطرتاً نحیف الجسہ ہوتی ہے اور بچہ جننے کے بعد کافی عرصہ تک خود اپنی معاش کے لئے بھی محنت شاقہ نہیں کر سکتی اس لئے وہ بچوں کی ہرگز پرورش نہ کر سکتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ اکثر بچے عالم شیر خواری ہی میں مر جاتے اور نوع انسان تعداد میں ترقی نہ کر سکتی۔ نکاح سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک مرد اور عورت، زن و شوہر کی طرح ساتھ رہتے ہیں اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں مرد ان کی

ماں کو رزق بہم پہنچاتا ہے اور وہ بچوں کو دودھ پلا کر پالتی اور پرورش کرتی ہے۔

دوسری قباحت یہ ہوتی کہ مرنے والے مردوں کی وراثت متعین نہ ہو سکتی۔ ابتداء میں انسانوں کا ذریعہ معاش صرف شکار اور کھیتی باڑی تھا۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ زمین بوتا اور اسی کی پیداوار پر گزارہ کرتا۔ اگر نکاح کا طریقہ نہ ہوتا تو مرنے والے کی زمین کے لئے جھگڑا اور خون ریزی ہوتی۔ ہر شخص کوشش کرتا کہ یہ بنی بنائی زمین اسے مل جائے۔ اس طرح بڑا فساد برپا ہوتا بہت سے آدمی مارے جاتے اور بہت سی زرعی زمینیں برباد ہو جاتیں۔ تیسری قباحت یہ ہوتی کہ گھر کی بنیاد پڑتی نہ خاندان کی اور لوگوں میں ہرگز وہ محبت و موانست اور ”اپنائیت“ نہ ہوتی جو ارتقاء تمدن کے لئے ضروری ہے۔ نہ کوئی کسی کا باپ ہوتا نہ بیٹا، نہ بھائی ہوتا نہ بہن ہوتی، نہ چچا ماموں نہ دیگر رشتہ دار ہوتے، ایک افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہوتا۔ آج جب کہ معاشرہ ترقی کے موجودہ درجہ پر پہنچ چکا ہے، کمیونسٹ خیال کے لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کی ضرورت نہیں۔ سوسائٹی اور حکومت پرورش گاہوں میں بچوں کی پرورش کا خاطر خواہ انتظام کر سکتی ہے اور ساری قوم کے افراد ایک خاندان کے افراد کی طرح پیارا اور محبت سے رہ سکتے ہیں لیکن یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ تجربہ بتا رہا ہے کہ یہ خیال غلط ہے۔ اگر آج نکاح کا طریقہ ختم کر کے مردوزن کو جنسی تعلقات کی آزادی دے دی جائے تو ایک صدی گزرنے سے پہلے تمدن کی عظیم الشان عمارت منہدم اور پارہ پارہ ہو جائے گی۔

اسلام میں نکاح محض ایک معاہدہ ہے۔ اس کی بنیاد ہرگز محبت اور معاشرت پر نہیں رکھی گئی۔ اکثر مغربیت زدہ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور ہماری سوسائٹی میں بھی یورپ کی کورٹ شپ کا قاعدہ رائج کرنے کے حامی ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یورپ اور امریکہ ہی نے اس طریقے سے کون سا فائدہ اٹھایا ہے۔ دونوں ملکوں میں طویل کورٹ شپ کے بعد بھی جو شادیاں ہوتی ہیں کیا ان کا انجام اکثر و بیشتر مایوس کن نہیں ہوتا اور نیویارک، لندن اور پیرس وغیرہ میں ہفتہ وار طلاقوں کی تعداد ہزاروں تک نہیں پہنچ جاتی۔ یاد رکھیے جب ایک نامحرم مرد اور عورت آزادی اور بے پردگی کی وجہ سے آپس میں بے تکلف ہو کر ملتے ہیں تو جبلی کشش جنسی دونوں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہے اور وہ اس ہوس کو محبت سمجھ کر شادی کر لیتے ہیں اور جب ہوس پوری ہو جاتی ہے تو طلاق حاصل کر کے پھر نئے جوڑوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کہیں کہیں واقعی محبت کے جذبات بھی منکحت کا باعث ہوتے ہیں لیکن محبت عام طور پر حسن صورت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور حسن ایک فانی چیز ہے، تھوڑے ہی عرصہ بعد غائب ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب حسن یعنی محبت کی اصل

وجہ فنا ہو جاتی ہے تو محبت بھی باقی نہیں رہتی۔ یہی سبب ہے کہ اسلام نے رشتہ ازدواج کی بنیاد محبت پر نہیں بلکہ محبت کی بنیاد رشتہ ازدواج پر رکھی ہے۔ یعنی نکاح کے بعد اگر میاں بیوی اسلامی طریقوں کے مطابق رہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو پوری طرح ادا کریں تو رفتہ رفتہ ان میں اس قدر محبت پیدا ہو جاتی ہے جو عمر بھر باقی رہتی ہے۔

تعدّد ازدواج

اسلام نے بیک وقت ایک مرد کو چار بیویاں تک رکھنے کی اجازت دی ہے۔ تمدن یورپ میں ہمارے اس دستور کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے کہ بہت سے مغرب زدہ مسلمان بھی اہل یورپ کی ہاں میں ہاں ملانے لگے ہیں اور ہماری مغرب زدہ خواتین نے تو باقاعدہ یہ مطالبہ شروع کر دیا ہے کہ چار شادیوں کو جبراً بند کر کے صرف ایک شادی کا قانون بنایا جائے۔ ہمیں ان خواتین سے پوری ہمدردی ہے لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ قانون چار شادیوں کو تو بند کر سکتا ہے لیکن کسی خاوند کو اس بات پر ہرگز مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی بیوی سے محبت بھی ضرور کرے۔ خصوصاً جب کہ بیوی بدمزاج اور فرائض خانہ داری کی طرف سے بے پرواہ ہو۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خاوند اور بیوی دونوں اپنے اپنے فرائض کو حکم خدا اور حکم رسول ﷺ کے مطابق ادا کریں تاکہ کسی مرد کو زیادہ شادیاں کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور اگر پڑے بھی تو پہلی بیوی یا بیویوں کو شکایت کا موقع نہ ملے۔

تعدّد ازدواج کے حکم میں اللہ کی بڑی حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً کوئی عورت دائم المریض یا بانجھ ہو یا اس کے اولاد زریعہ نہ پیدا ہوتی ہو تو مرد کو عقلاً اور اخلاقاً یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ خاندانی یا قبائلی روابط کو بڑھانے کے لئے بھی بعض اوقات ایک سے زیادہ شادیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعدّد ازدواج کے حکم کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی قوم ایک ”کولونائزنگ“ (Colonizing) یعنی آباد کار قوم ہے۔ قرآن میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تمام دنیا میں پھیل جاؤ اور خدا کا فضل تلاش کرو یعنی دنیاوی طاقت اور وجاہت پیدا کرو اور جہاں جاؤ اسلام پھیلاؤ۔ جب تک مسلمان زندہ تھے وہ اس حکم پر بھی اسی سرگرمی سے عمل کرتے تھے جیسے اور احکام خدا پر۔ ابتداء میں اسلام کی تمام تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اگرچہ یورپ کے عیسائیوں خصوصاً انگریزوں اور بعد میں ہندوؤں نے ہمیشہ یہ پروپیگنڈا کیا کہ مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے مگر کوئی ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ملک چین اور انڈونیشیا میں جہاں آج کروڑوں مسلمان آباد ہیں کون سی جنگ میں تلوار چلائی گئی تھی یا بزرگ

خواجہ حضرت معین الدین اور حضرت داتا گنج بخشؒ کون سی فوجیں ساتھ لے کر آئے تھے جنہوں نے بھارت کے لاکھوں باشندوں کو مسلمان کر لیا۔ یہ مٹھی بھر مسلمان ہی تھے جو دور دراز ملکوں میں جا کر بس جاتے اور وہاں دنیاوی طاقت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام بھی پھیلاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اکثر و بیشتر حالات میں یہ مسلمان عورتیں ساتھ لے کر نہیں جاسکتے تھے بلکہ جہاں بستے وہیں کی عورتوں کو مسلمان کر کے ان سے شادیاں کر لیتے تھے۔ اگر ان میں سے ہر مسلمان صرف ایک ایک ہی عورت سے شادی کرتا تو صدیوں تک بھی ان کی تعداد کافی نہ ہوتی۔ اس لئے وہ دو دو تین تین اور چار چار شادیاں کرتے اور چار چار سالوں میں ہی اتنی تعداد بڑھالیتے کہ ان غیر ملکوں میں طاقت اور عزت سے زندگی بسر کر سکتے تھے۔ اگر مسلمانوں میں پھر وہی ایمان اور وہی فولادی کردار پیدا ہو جائے تو یہ بات آج بھی ممکن ہے لیکن آج قرآن کے اور ہی کون سے حکم پر عمل ہوتا ہے جو اس پر ہوگا۔ ایک اور اہم حکمت تعدد و ازدواج میں یہ ہے کہ مسلمان ایک مجاہد قوم ہے اور اپنے دفاع میں جہاد کرتے ہوئے اکثر ایسا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مردوں کی تعداد کثیر شہید ہو جائے اور عورتیں زیادہ رہ جائیں، اس صورت میں اگر ہم مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر لیں تو تھوڑے ہی عرصے میں مردوں کی کمی پوری ہو سکتی ہے اور شہیدوں کی جو قیمت اولاد باقی رہ جاتی ہے اس کی پرورش میں دقت پیش نہیں آ سکتی۔ اگر کسی غیر مسلم ملک میں یہ حالات رونما ہوں تو یقیناً ان لوگوں کو اپنا ایک ہی عورت سے شادی کرنے کا قانون بدلنا پڑے گا۔ جیسے جرمنی کو پہلی جنگ عظیم کے بعد بدلنا پڑا تھا لیکن ہمارے قانون الہی میں پہلے ہی سے یہ گنجائش موجود ہے۔

قرآن کے جن الفاظ میں ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی گئی ہے وہ بہت مختاط اور قطعی ہیں۔ ان سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر چار تک شادیوں کی گنجائش موجود ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اور جب جی چاہے تین تین اور چار چار شادیاں کرے اور پھر پہلی بیویوں کو طلاق دے کر ہمیشہ نئی نئی شادیاں کر کے شرع کی آڑ میں عیاشی کرتا رہے۔ ایسے لوگوں سے بعد از موت سخت باز پرس ہوگی۔ اس لئے اس بارے میں مسلمانوں کو بہت ہی محتاط رہنا لازم ہے۔

طلاق

ہمارے دستور مناکحت میں ایک مسئلہ طلاق کا بھی ہے۔ شروع میں غیر مسلموں نے اس کا بھی بہت مذاق اڑایا مگر اب تمام متمدن ممالک نے اس کو بطور قانون اپنے اپنے ہاں رائج کر دیا ہے اس لئے اس نقطہ نظر سے اس پر زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں مسلمانوں سے اتنی گزارش ضرور ہے کہ طلاق کوئی دل لگی نہیں ہے کہ

جب جی چاہا بیوی کو ڈنڈے اور جوتے مارے اور طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ ایسے لوگوں کو مرنے کے بعد ضرور اس کا عذاب جھگلتنا ہوگا۔ معاشرہ کو چاہیے کہ ایسے واقعات میں مردوں سے سختی کے ساتھ باز پرس کرے۔ قانوناً بھی ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ اللہ نے عورتوں کو جو عزت اور آزادی دی ہے یہ نامعقول خاوند اس کو غصب نہ کر سکیں۔

ہمارے مذہب پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام نے طلاق کی صورت میں بچے خاوند کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بادی النظر میں واقعی یہ سخت نا انصافی معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقتاً یہ حکم عورت کے لئے بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ اگر بچے عورت کو ملنے کا حکم ہوتا تو وہی قباحت پیش آتی جس کا ذکر ہم بیان نکاح کے شروع میں کر چکے ہیں یعنی عورت نیچیف الجیثہ اور اکثر حالات میں بے یار و مددگار ہونے کی وجہ سے ان کی پرورش نہ کر سکتی اور وہ مر جاتے اور اگر زندہ بھی رہتے تو ان کی تعلیم کا اچھا بندوبست ہو سکتا نہ تربیت کا اور وہ ہرگز اچھے شہری نہ بن سکتے۔ اکثر بیوہ عورتوں کی اولاد کا آج بھی یہی حشر ہوتا ہے۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ بچوں کی وجہ سے مرد عورت کو طلاق دے ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے ان کی ماں کو طلاق دے دی تو نہ میں ان کو اچھی طرح پرورش کر سکوں گا نہ سوتیلی ماں۔ تیسرے یہ کہ یہ بچے بڑے ہونے کے بعد اپنی ماں کو ہی زیادہ چاہتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔

اسلام میں عورت کا درجہ

ایک اور دلچسپ مسئلہ عورت اور مرد کی مساوات کا ہے۔ غیر اسلامی دنیا میں یہ مسئلہ عورت کی بے مہار آزادی سے پیدا ہوا لیکن اسلامی دنیا میں عوام کی جہالت اور قرآن سے بغاوت کے سبب ظہور میں آیا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت عام طور پر نہایت حقیر اور ذلیل شے خیال کی جاتی تھی اور معاشرہ میں اس کی کوئی حیثیت نہ تھی مگر اسلام نے عورت کو جو حقوق عطا فرمائے اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے جس عزت کا سلوک اپنی عورتوں سے کیا اس کی تقلید میں دوسری قومیں رفتہ رفتہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگیں اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ آج ان کی عورتیں ہر لحاظ سے مردوں کے ساتھ ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرتی ہیں۔ برخلاف ازیں مسلمانوں میں زوال کے ساتھ ساتھ عورت پھر ایک بے زبان جانور بن گئی۔ اب پھر اس کا رد عمل شروع ہوا ہے اور اکثر تعلیم یافتہ عورتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ اسلام کی نظر میں عورت اور مرد ہر لحاظ سے برابر ہیں۔ اسی بناء پر اب یہ مطالبہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ حکومت کے نظم و نسق میں عورتوں کو ان کی تعداد کے

لحاظ سے متناسب حصہ دیا جائے۔ ہماری رائے میں جہاں تک عورت کی کسمپرسی اور مرد کے اس پر ظلم و ستم کا تعلق ہے معاشرہ اور حکومت کا فرض ہے کہ قانوناً اور اخلاقاً جتنی جلدی ہو سکے عورت کو پھر اسی مرتبہ پر پہنچا دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے لیکن جہاں تک ”ہر لحاظاً“ سے مساوات اور حکومت کے نظم و نسق میں نمائندگی کا سوال ہے ہم اس سے متفق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو جو مساوات عطا فرمائی ہے وہ حقوق، سلوک اور عزت و محبت کی مساوات ہے، نظم و نسق حکومت یا امور خانہ داری میں فرائض اور تقسیم کار کی مساوات ہرگز نہیں ہے۔ قرآن میں حتمی اور قطعی الفاظ میں جا بجا مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ حُسن سلوک، عزت اور انصاف سے پیش آئیں۔ ان کے کھانے پینے، لباس، مکان اور دوسری ضروریات زندگی کا پورا بندوبست کریں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ جس گھر میں عورت خوش رہتی اس گھر پر حزن و ملال پھلے گا اور لعنت برستی رہتی ہے۔ ایسے گھر میں پرورش پانے والے بچے بھی نہایت بد مزاج، بد ذوق، چڑچڑے اور بددماغ اٹھتے ہیں۔ رسول اکرم ﷺ کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کی بدخلفی پر صبر کرے تو اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی مصیبت پر عطا فرمایا۔ بتائیے اس سے زیادہ اچھے سلوک کی تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن مسلمان اس تعلیم پر عمل ہی نہ کریں تو مذہب کا کیا تصور ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ“ (البقرہ: ۲۲۸) یعنی عورتوں کا مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ حقوق میں عورت مرد کی برابری کا اعلان اس سے زیادہ واضح اور کیا ہو سکتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهِنَّ ط (بقرہ: ۱۸۷) ”عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔“ ان الفاظ میں مرد و عورت کی معاشرتی مساوات، ہمسری، ہمرازی اور پیار و محبت سے رہنے کا جو قرینہ پایا جاتا ہے کیا دنیا کا کوئی ادیب اس سے بہتر الفاظ میں یہ تاثر پیدا کر سکتا ہے۔ مگر خوب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام مساوات وہ ہمسری صرف معاشرتی ہے جہاں ملکی نظم و نسق یا امور خانہ داری میں تقسیم کار کا تعلق ہے وہاں عورت کی حیثیت ایک متاع محبوب اور مرد کی حیثیت ایک نگران و سرپرست کی ہے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ”عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ کھیتی اور کسان میں کسی حیثیت سے بھی کوئی مساوات نہیں لیکن کھیتی سے زیادہ کسی کسان کو اور کوئی چیز پیاری بھی نہیں ہو سکتی۔ کھیتی اصل اور بنیاد ہے تمام دولتوں کی۔ قیمتی مکانات و ملبوسات، سونا چاندی، روپیہ پیسہ اور ہیرے جواہرات سب کھیتی سے ہی حاصل کئے جاتے ہیں۔ غلہ نہ ہو تو انسان سونا چاندی یا ہیرے جواہرات کھا کر ہرگز زندہ نہیں

رہ سکتا۔ ایک کسان مہینوں اپنا خون پسینہ ایک کر کے دن رات کی محنت و مشقت سے اپنی کھیتی کی خدمت و نگرانی کرتا ہے تب جا کر اس سے متفق ہوتا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ عورت مرد کی اس حیثیت کو صاف صاف الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اَلرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلٰی النِّسَاءِ (النساء: ۳۴) یعنی مرد عورتوں کے نگران ہیں۔ اکثر مترجمین نے قوام کا ترجمہ حاکم کیا ہے۔ اس سے اکثر لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ عورت محکوم اور مرد حاکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لئے اسے اختیار ہے کہ عورت کو جس طرح چاہے دبائے اور ستائے۔ یہ خیال صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے دماغ میں مسلمانوں کی موجودہ حکومتوں کے حاکموں کا تصور بسا ہوا ہے حالانکہ قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو حاکم عوام کا خادم ہوتا ہے۔ حاکم کا کام عوام کو دباننا اور ستانا ہرگز نہیں ہے۔ حاکم کا کام تو عوام کی ضروریات زندگی کا انتظام کرنا، نظام زندگی کو قائم رکھنا، دشمنوں سے حفاظت کرنا، مظلوموں کی داد رسی کرنا اور ہر لحاظ سے ان کی خدمت کرنا ہے۔ انگلستان وغیرہ میں آج بھی حکام کو پبلک سرونٹ یعنی عوام کا خادم کہا جاتا ہے۔ اس لئے اگر لفظ قوام کا ترجمہ حاکم ہی کیا جائے تو بھی کوئی برا پہلو نہیں نکلتا۔ خلفائے راشدین کی حکومت سامنے ہے۔ کیا وہ ایسے ہی حاکم قوم تھے جیسے کہ آج ہوتے ہیں؟ خلفائے راشدین کا تو ذکر ہی کیا امتدین عیسائی ممالک کے حکام بھی ایسے بددیانت ظالم اور فرعون صفت نہیں ہوتے جیسے کہ عام طور پر اسلامی ممالک میں ہوتے ہیں۔ خلاصہ اس تمام تقریر کا یہ ہوا کہ معاشرتی لحاظ سے مرد اور عورت میں جو مساوات ہے انتظامی امور مملکت اور خانہ داری میں وہ مساوات باقی نہیں رہتی۔ جذبات کی رو میں کوئی کچھ بھی کہے یہ حقیقت بدل نہیں سکتی کہ عقلی طور سے نہ سہی جسمانی لحاظ سے عورت، بہت کمزور اور نازک ہے۔ خصوصاً بچے جنمنے کی وجہ سے ہر وضع حمل کے بعد کافی عرصہ تک وہ سلطنت کے انتظامی امور کو ہرگز اس خوش اسلوبی سے انجام نہیں دے سکتی جیسے کہ مرد دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائے آفرینش سے آج تک ان معاملات میں عورت نے کوئی قابل ذکر حصہ نہیں لیا۔ اگر خال خال کبھی عورتوں نے عدالت، پولیس یا فوج وغیرہ میں کوئی نمایاں کام کیا ہے تو وہ الشاذ کالمعدوم کے مصداق بطور ایک اصول کے پیش نہیں کیا جاسکتا اور اگر یہ بات بطور ایک اصول قانوناً تسلیم کر لی جائے تو معاشرہ کو بجائے فائدے کے نقصان پہنچے گا مثلاً اس حالت میں عورتیں امور خانہ داری کو مکمل اہم انجام نہ دے سکیں گی اور گھر کا نظام ختم ہو جائے گا تو پھر یہ ہوگا کہ رع

کئی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر

دوسرے یہ کہ اگر پولیس اور فوج میں بھی عورتوں کو برابر کا حصہ مل جائے تو ایسی پولیس اور فوج کا جو حشر

ہوگا ظاہر ہے۔ تیسرے یہ کہ اس طرح مردوزن کے بے غل و غش اختلاط سے جو خرابیاں پیدا ہوں گی ان کی روک تھام ناممکن ہو جائے گی۔ یورپ اور امریکہ وغیرہ میں اس اختلاط سے جو معاشرتی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان سے وہاں کے باشندے خود پریشان ہیں۔ چوتھے یہ کہ آج بھی جو غریب عورتیں دفاتر میں بہ مجبوری یا بہ خوشی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں ان کی زندگی ہی کون سی آرام دہ ہے۔ وہ مخدرات و مہصنات جو اپنے گھروں میں عزت اور خوشی کی زندگی بسر کرتی ہیں ان میں سے کوئی بھی دفاتر کی ان ملازموں پر رشک نہیں کرتی لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر چند محکمے صرف عورتوں کے لئے ہی مخصوص کر دیئے جائیں مثلاً زنانہ مدرسوں اور کالجوں، زنانہ جیل خانوں اور زنانہ ہسپتالوں وغیرہ کی سب کارکنیں صرف عورتیں ہی ہوں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ عورتوں کے معاشرتی اور ذہنی معیار کو بلند کرنے میں پیش بہامد ملے گی۔

باوجود ازیں اسلام عورت کو اتنی بھی آزادی نہیں دیتا کہ وہ خاوند کی نافرمانی یا اس کی خدمت سے پہلو ہٹتی کرے یا جیسا کہ آج کل ہمارے اعلیٰ طبقے کے اکثر گھرانوں میں انگریزوں کی تقلید میں کیا جاتا ہے کہ بیگم صاحبہ آگے آگے اور خاوند بآداب ہاتھ باندھے ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور بیگم صاحبہ کے حکم کے بغیر کوئی جائزہ سے جائز کام بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر خدا کے سوا اور کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ الغرض یہ ہے اسلام میں خاوند اور بیوی کا درجہ کہ خاوند بیویوں کی عزت کریں، محبت سے پیش آئیں اور ان کی ضروریات خوشی خوشی پوری کریں۔ اسی طرح بیویاں اپنے خاوندوں کی پوری عزت کریں، ان سے محبت سے پیش آئیں اور امور خاندانی، بخوشی سرانجام دیں۔ بچوں کی پرورش کریں اور خاوند کا ہر حکم مانیں اور اس کی خوشی پر اپنی خوشی قربان کر دیں۔

پردہ

پردہ بھی ہماری معاشرت کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ پچھلی کئی صدیوں سے جو پردہ ممالک اسلامی خصوصاً ہندوستان میں رائج رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری عورتیں یعنی قوم کی تقریباً نصف تعداد اپنا چہرہ اور بیکار ہو کر رہ گئی ہے۔ مسلمانوں نے جس طرح قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے اسی طرح پردے کے متعلق بھی وہ قرآنی احکام پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ اس لحاظ سے مسلمانوں میں کئی طبقات ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو معمولی قسم کے کام اور محنت مزدوری کرتے ہیں اور جن کو ہندوؤں کی تقلید میں بیچ ذات کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں

میں پردے کا کوئی تخیل موجود نہیں ہے۔ دوسرے وہ دقیانوسی لوگ جن کا عقیدہ ہے کہ اگر عورت کی آواز بھی گھر کی چہار دیواری سے باہر نہ لی جائے یا اتفاقاً کوئی اس کے چہرے کی جھلک دیکھ لے تو اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ تیسرے وہ بزم خود تر تہی یافتہ لوگ جو عورت کے لئے کسی قسم کے پردے یا پابندی کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے یہ مغربیت زدہ لوگ ہیں۔ ان کے نزدیک اس میں مطلق کوئی حرج نہیں کہ عورتیں خوب بناؤ سنگار کر کے، لپ سٹک اور پاؤڈر لگا کر نیم عریاں لباس میں جہاں چاہیں جائیں، کلبوں اور تھیٹروں میں ناچیں، کودیں، گائیں، بجائیں اور بے تکلفی بلکہ بے حیائی سے نامحرموں کے ساتھ تخیلہ میں ملاقاتیں کریں۔ یہ تینوں طبقات غلط رو اور قرآن کے باغی ہیں۔ قرآن کے مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان عورتوں کو ضرورتاً گھر سے باہر نکلنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ یہ حکم ضرور ہے کہ جب وہ گھر سے باہر جائیں تو ایسا لباس پہننے ہونے ہوں جس سے تمام اعضاء ڈھکے رہیں اور ان کے بناؤ سنگھار کی چیزیں نظر نہ آئیں۔ اس میں بھی وہ حصے جو خود بخود کھلے رہتے ہیں مثلاً چہرہ اور گٹوں تک ہاتھ وغیرہ تو ان کو ڈھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی حکم ہے کہ جب وہ نامحرموں سے بات کریں تو نگاہیں نیچی رکھیں (یہ حکم مردوں کو بھی ہے) اور ہرگز اس قدر نرمی اور ایسے لہجہ میں بات نہ کریں جس سے کسی کے دل میں بے ہودہ توقعات پیدا ہوں۔ یہ بھی حکم ہے کہ عورتیں بے وجہ گھر سے نکل کر ماری ماری نہ پھریں جیسا کہ بہت سی عورتیں کرتی ہیں کہ مرد کام پر گئے اور انہوں نے برقعہ ڈالا اور باہر کی راہ لی۔ گھروں میں بند کر رکھنے کا حکم صرف سزاء ان عورتوں کے لئے ہے جن سے بے حیائی کا کوئی کام سرزد ہوا ہو اور چار مسلمانوں نے ان کے خلاف گواہی دی ہو۔

الغرض یہ ہے اسلامی پردہ۔ اس میں نہ تو اس قدر سختی ہے کہ عورتوں کو مرغیوں کی طرح ڈربے میں بند رکھا جائے نہ اتنی آزادی ہے کہ ہر نیوں کی طرح چوکرٹیاں بھرنے کے لئے بے مہار چھوڑ دیا جائے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اسلام جیسے پر حکمت و دانش مذہب میں ایسا کوئی حکم نہیں مل سکتا جس سے اس کے ماننے والوں کی آدمی آبادی مفلوج اور بیکار ہو کر رہ جائے لیکن باوجود ان تمام باتوں کے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ پردے کے یہ احکام اسی وقت قابل عمل اور مفید ہو سکتے ہیں جب مرد بھی قرآنی احکام کے پابند اور اخلاق اسلامی سے مڑین ہوں۔ چونکہ حالت اس کے خلاف ہے اور مسلمان مردوں کی تعداد کثیر اخلاقی معیار سے اس قدر گری ہوئی ہے کہ سفر تو کیا حضر میں بھی عورتوں کی عصمت و عزت اور جان و مال بدمعاشوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں

جیسا کہ روزانہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اس لئے مناسب یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ تک جہاں ذرا بھی کچھ خطرہ ہو عورتیں ہرگز اکیلی نہ جائیں۔ مردوں کا فرض ہے کہ اپنی عورتوں کو پردہ دار لباس میں اپنے ساتھ باہر لے جائیں اور ہر اس چیز سے روشناس کرائیں جس سے ان کے عقل و تجربہ میں اضافہ ہو، خود اعتمادی اور قوت عمل پیدا ہو، وہ بد معاش مردوں کا سر توڑنا سیکھیں اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت دقتیاً نومی پردے کے تارہائے عنکبوت ہی سے نہیں بلکہ اپنے نولادی کردار اور آہنی عزم و حوصلے سے کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ عورتیں دنیا کی تمام موجودہ تحریکات اور حالات سے باخبر رہیں اور اپنے بچوں کو حالات زمانہ کا مقابلہ کرنے کے قابل بنائیں اور یہ بات اچھی تعلیم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے عورتوں کو تعلیم ضرور دلائی جائے۔

تعلیم نسواں

تعلیم کے فوائد اس قدر ثابت اور ظاہر ہیں کہ ان کا بیان کرنا تحصیل حاصل ہے۔ اس لئے ہم اس پر زیادہ لکھنا نہیں چاہتے صرف دو حدیثیں سرورِ دو عالم ﷺ کی یاد دلانا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ علم اگر چین میں بھی ہو تو وہاں جا کر حاصل کرو۔ ایک طرف تو یہ حدیثیں ہیں اور دوسری طرف ہمارے اکثر خواص اور عوام ہیں جو ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں کہ لڑکیوں کو تعلیم دلا نا چاہیے بھی یا نہیں۔

جوڑے کا انتخاب

نکاح اس آدمی کو کرنا چاہیے جو عاقل، بالغ اور خود کفیل ہو۔ یعنی اپنی بیوی کے لئے کپڑا، کھانا، مکان اور دیگر ضروریات زندگی آسانی سے مہیا کر سکے اور جب بچے پیدا ہوں تو ان کی پرورش میں بھی کوئی دقت محسوس نہ کرے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ ہر جاندار جو پیدا ہوتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے لیکن اس زمانے میں کسب معاش کے طریقے اس قدر پیچیدہ اور مشکل ہو گئے ہیں اور اللہ پر مسلمانوں کی بے یقینی اور ست اعمالی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ معاش کا معقول بندوبست کئے بغیر نکاح کر لیا جائے تو سوائے مصیبت و پریشانی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نکاح کرنے سے پہلے مرد اور عورت دونوں کو اپنے جوڑے کا انتخاب پوری احتیاط اور دانشمندی سے کرنا چاہیے۔ اچھی طرح خیال رکھنا چاہیے کہ یہ عمر بھر کا ساتھ ہے اگر انتخاب میں غلطی ہوگی تو عمر بھر کا سکون و آرام رخصت ہو جائے گا۔ آج کل کے نوجوان شادی کرنے کے لئے صرف خوبصورتی کو پیش نظر رکھتے

ہیں۔ یہ ان کی نا تجربہ کاری ہے۔ شادی کے لئے ایک عورت میں یہ باتیں علی الترتیب دیکھنی چاہئیں۔ سب سے پہلے بلوغت اور صحت، پھر مزاج اور اخلاق، پھر سلیقہ اور علم اور سب سے آخر میں شکل و صورت۔ صورت و شکل ایسی بھی نہ ہو کہ دیکھ کر کراہت آئے یا نظر پر گراں گزرے لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ پری زاد ہی ہو۔ جو لوگ صرف حسن و صورت کو دیکھتے ہیں بہت پچھتاتے ہیں۔ کیونکہ صورت تو بچے ہونے کے بعد اور امور خانہ داری کی مشقتوں اور تفکرات کی وجہ سے کچھ ہی عرصہ میں بدل جاتی ہے اور حسن رخصت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنیے کہ اگر آپ کی بیوی کا مزاج اور اخلاق اور سلیقہ اچھا نہ ہوگا تو وہ آپ کی نظر سے گرجائے گی۔ اسی طرح صحت اچھی نہ ہوگی تو شادی کے کچھ دن بعد ہی آپ کے ہاتھ میں دواؤں کی بوتلیں ہوں گی اور پاؤں میں ہپتاتالوں کا چکر۔ ڈاکٹر کا بل دیتے دیتے دیوالہ نکل جائے گا اور زندگی وبال جان ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بیمار اور کمزور عورت سے جو اولاد ہوگی وہ بھی کمزور ہی ہوگی۔ بیوی کی اصل قدر جوانی میں نہیں بلکہ زمانہ کھولت میں ہوتی ہے جب کہ قومی رو بہ انحطاط ہوتے ہیں اور انسان ایک سچے رفیق و مددگار کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔

عورت کو بھی انتخاب شوہر میں پوری آزادی ہونی چاہیے۔ بد قسمتی سے ہمارے ہاں عورت کو اس معاملہ میں کچھ دخل ہی نہیں۔ ماں باپ یا وراثت جس کے ساتھ چاہتے ہیں بیاہ دیتے ہیں اور اس سے پوچھا تک نہیں جاتا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہر لڑکی کے ماں باپ اور وراثت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خاندان کے ساتھ زندگی اس لڑکی کو گزارنی ہے تم کو نہیں گزارنی۔ یہ صحیح ہے کہ پردہ میں رہنے اور نا تجربہ کار ہونے کی وجہ سے خود لڑکی بھی صحیح انتخاب نہیں کر سکتی۔ ماں باپ زیادہ اچھا انتخاب کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ضروری ہے کہ لڑکی کو اس کے آئندہ شوہر کا پورا حال بے کم و کاست بتا دیا جائے اور اس کی منظوری لے لی جائے۔ اسلام نے تو عورت کو یہاں تک اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو نکاح کے لئے کوئی سی خاص شرط یا شرائط مقرر کر سکتی ہے۔ مہر کے بارے میں لڑکی کے ماں باپ اور خود لڑکی کو بہت محتاط رہنا چاہیے اور مرد کی حیثیت کے مطابق ہمیشہ مہر کی مقدار معقول رکھنا چاہیے۔ سب باتیں لڑکی کو بتا دینے کے بعد بھی اگر وہ راضی نہ ہو تو اسے مجبور نہ کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکے اور لڑکی کے رشتہ دار چھ سات ماہ تک ایک دوسرے کے ہاں مہمان آتے جاتے رہیں تاکہ ایک دوسرے کے اخلاق اور معیشتی و معاشرتی معیار کا صحیح اندازہ ہو جائے۔ اگر لڑکا یا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں یا تصویریں دکھا دی جائیں تو بھی کچھ حرج نہیں۔ رسول اللہ نے کئی مرتبہ مردوں کو فرمایا ہے کہ تم عورت کو خود دیکھ کر شادی کرو۔ اب ہم نکاح کے بعد خاوند اور بیوی میں سے ہر ایک کے فرائض الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

خاوند کے فرائض

نکاح ہوتے ہی مرد پر یہ باتیں فرض ہو جاتی ہیں۔

۱۔ کہ وہ اپنی بیوی کی حرکات و عادات کا بغور مطالعہ کرے اور جو باتیں ناپسند ہوں ان کو ذہن نشین کر لے لیکن ان باتوں پر بیوی کو کبھی بھول کر بھی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے بلکہ مناسب موقعوں پر پیارا اور محبت سے سمجھا کر اصلاح کی کوشش کرتا رہے اور رفتہ رفتہ اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لے یا پھر اپنی عادات میں تھوڑا بہت تغیر و تبدل کر کے اس کی مرضی کے مطابق کر لے۔

۲۔ بیوی کو امور خاندانی کی اہمیت سے آگاہ کر دے اور یہ بتا دے کہ میں فلاں بات اس طرح چاہتا ہوں مثلاً مجھے ایسا کھانا پسند ہے میں فلاں وقت ناشتہ کرتا اور فلاں وقت نہاتا ہوں۔ فلاں وقت کھانا تیار چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔

۳۔ بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق مکان، کھانا، کپڑا، زیور اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کرے اور اس کے خوش رکھنے کے لئے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرے اور کسی طرح بھی اس کو یہ محسوس نہ ہونے دے کہ وہ اپنا گھر یعنی اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر کسی اجنبی جگہ آئی ہے۔ ہر خاوند کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خود اس کی اپنی خوشی اور سکون قلبی اس کی بیوی کی خوشی اور سکون پر منحصر ہے۔ تمام دن کسب معاش کے لئے محنت کرنے کے بعد تھکا ہارا مرد جب گھر آتا ہے اور بیوی کو سست اور ٹنگین یا بددل پاتا ہے تو اس کی کوفت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ برخلاف ازیں اگر وہ بیوی کو خوش و خرم اور ہشاش بشاش دیکھتا ہے تو اس کی ساری تکان اور کوفت کا فور ہو جاتی ہے۔

۴۔ اگر بیوی بیمار ہو جائے تو علاج میں تساہل اور لیت و لعل نہ کرے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کی بیماری کی پرواہ نہیں کرتے وہ اس پر ہی نہیں خود اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں۔ بیمار عورت امور خاندانی اچھی طرح انجام نہیں دے سکتی۔

۵۔ گھر کا سودا سلف خود لا کر دے یا اس کا کوئی اور معقول بندوبست کرے۔ امراء کے ہاں یہ کام ملازم کرتے ہیں مگر صاحب خانہ کو ان کی نگرانی ضرور کرنی چاہیے۔ اگر صاحب خانہ کو ان باتوں کی فرصت ہی نہ ہو تو بیگم صاحبہ یا اور کسی ذمہ دار مرد یا عورت کو یہ کام سپرد کیا جاسکتا ہے۔ خاص خاص چیزیں مثلاً آٹا، گھی، چینی، ایندھن، دالیں

اور مسالہ وغیرہ پورے مہینے کا اکٹھا خریدنا چاہیے۔ پیاز اور دالیں وغیرہ فصل پر جب سستی ہوں اکٹھی خرید لی جائیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سامان کسی حالت میں قرض نہیں لانا چاہیے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔

۶۔ جب بچے ہو جائیں تو ان کی پرورش اور تربیت میں پوری دلچسپی لے اور بیوی کو پوری مدد دے۔ بچوں سے پیارا و محبت اور عزت سے پیش آنا اور ان کی خوشی اور مسرت کے سامان بہم پہنچانا بہت ہی ضروری ہے۔ جب وہ پڑھنے کے قابل ہو جائیں تو کسی اچھے مدرسہ میں داخل کرنا اور توفیق ہو تو پرائیویٹ ٹیوشن کا بندوبست کرنا اور مدرسہ میں ان کی تعلیمی اور اخلاقی حالت سے واقف رہنے کے لئے ہیڈ ماسٹر یا ماسٹروں سے ملنا جلنا بھی باپ ہی کا فرض ہے۔ بچے بیمار ہو جائیں تو معالج اور معالجات کا بندوبست کرنا بھی اسی کے فرائض میں داخل ہے۔

۷۔ بڑے بڑے امراء اور حکام وغیرہ جن کو دن رات مصروفیت رہتی ہے یہ ان پر بھی فرض ہے کہ ایک آدھ گھنٹہ صرف بیوی بچوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے ضرور وقف کر دیں ورنہ میاں بیوی اور بچوں کے درمیان وہ یگانگت اور مواسست ہرگز پیدا نہ ہوگی جو ”ایک گھر“ کے ماحول کو جنت نظیر بنانے کے لئے ضروری ہوتی ہے۔

بیوی کے فرائض

۱۔ میاں کی عادات کو سمجھنے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ خاوند میں جو بری عادتیں ہوں ان کے لئے اس کو کبھی برا بھلا نہ کہے خاموش رہے اور برداشت کرے مگر مناسب موقعوں پر عزت اور محبت کے ساتھ اس کو ان سے آگاہ کرتی رہے۔ ایک صاحب شراب بہت پیا کرتے تھے۔ ان کی بیوی اس پر ان سے ہمیشہ لڑتی رہتی تھی مگر ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ بلکہ ہوا تو یہ کہ وہ بیوی سے نہایت بدسلوکی کرنے لگے کچھ عرصہ بعد وہ بیوی مرگئی ورنہ انہوں نے دوسری شادی کر لی اور اس سے چھپا کر پیتے رہے۔ یہ بیوی بہت نیک اور بھولی بھالی تھی۔ شادی کے کوئی ایک برس بعد جب وہ گھر کی صفائی کر رہی تھی اس نے ایک الماری میں شراب کی کچھ بوتلیں دیکھیں، سونگھا تو سخت بدبو آئی اس نے سب بوتلوں کو خالی کر کے خوب دھویا اور صاف کر کے الماری میں رکھ دیا۔ شام کو جب صاحب گھر آئے اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اطمینان سے بیٹھ گئے تو بیوی نے کہا کہ اس الماری میں جو شربت رکھا تھا وہ بالکل سڑ گیا تھا اور اس میں سخت بدبو پیدا ہو گئی تھی میں نے وہ سب پھینک دیا اور بوتلوں کو دھوا کر صاف کر کے رکھ دیا ہے۔ اس بات کا خاوند پر اتنا اثر ہوا کہ اسی دن شراب نوشی سے توبہ کر لی اور پھر عمر بھر نہ پی۔ جو عورتیں صبر اور عقل مندی سے کام لیتی ہیں وہ اپنے خاوندوں کا

کردار سدھارنے میں اکثر کامیاب ہو جاتی ہیں۔ جن مردوں کی بیویاں مصیبت کے وقت ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں وہ اکثر مشکلات پر غالب آ جاتے ہیں اور اپنی بگڑی پھر بنا لیتے ہیں۔

۲۔ عورت کو چاہیے کہ جہاں بیاہ کر آئی ہے اسی گھر کو آئندہ اپنا گھر سمجھے، میکے کی فضا کو بھلانے اور اس نئے گھر میں دل لگانے کی کوشش کرے۔ گھر کے ماحول اور حالات کو اچھی طرح سمجھے اور عقل مندی سے امور خانہ کو سرانجام دے۔

۳۔ میاں کی خدمت ہر عورت کا فرض اولین ہے۔ ہر بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی ضروریات کا انصرام خود کرے۔ مثلاً ناشتہ اور کھانا وقت پر تیار کرنا یا کرانا، غسل کے لئے وقت پر گرم یا سرد پانی تیار کرنا، صابن تولیہ اور کپڑے درست کر کے رکھنا، جوتوں پر پالش کرنا اور خاوند بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرنا اور غذا اور دوا وقت پر دینا۔

۴۔ دن بھر کام کرنے کے بعد تھکا ہارا مرد جب گھر آتا ہے تو اس کی طبیعت آرام و سکون کی متلاشی ہوتی ہے۔ اگر وہ گھر میں گھٹے ہی روتے بسورتے ہوئے یا سہمے ہوئے چہرے دیکھے یا ساس، بہو مند بھواج دیورانی جٹھانی کی لڑائی بڑھائی چیخ چاخ کو سنے پیٹنے کی آوازیں سنے یا بیوی بچے میلے کچیلے سر جھاڑ منہ پہاڑ بھینتے اور بھتی بنے ہوئے اس کے سامنے آئیں تو اس کو آرام کی بجائے تکلیف اور سکون کی بجائے پریشانی ہوتی ہے۔

وہ کہتا ہے خدا میں کیا کروں؟ باہر جاتا ہوں تو افسروں کا غصہ ڈانٹ پھینکا اور ہم کاروں کے طعنے مہنے اور برا بھلا سنتا ہوں، کام کرتے کرتے چوٹی کا پسینہ اڑی تک آ جاتا ہے، تھک کر چور ہو جاتا ہوں۔ گھر آتا ہوں تو اسے جہنم کا نمونہ پاتا ہوں، خداوند اس زندگی سے تو موت اچھی۔ ایسے مردوں کی صحت بہت جلد خراب ہو جاتی ہے اور عمر بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ برخلاف ازیں جو لوگ گھر میں بیوی بچوں اور دوسرے کینوں کو صاف ستر اہنتے اور مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کی ساری کوفت دور ہو جاتی ہے۔ اکثر بیویوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر میں

گھستے ہی خاوند کے سامنے دنیا بھر کا دکھڑا لے بیٹھتی ہیں۔ آج فلاں عورت مجھ سے لڑنے آئی تھی، نوکر پیسے لے کر بھاگ گیا، اس بچے نے اس کا سر پھاڑ دیا، بنیا اپنا حساب کرنے آیا تھا، قصائی نے گوشت دینے سے انکار کر دیا وغیرہ وغیرہ تو ایسی عورتیں نہایت ہی بے وقوف ہوتی ہیں، وہ اپنے گھر کو اپنے ہاتھ سے تباہ کرتی ہیں۔

ہونا یہ چاہیے کہ جب خاوند کے آنے کا وقت ہو بچوں کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنائیں خود بھی اچھے کپڑے

پہنیں اور بناؤ سنگھار کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے استقبال کریں۔ کپڑے وغیرہ بدلنے میں اس کی مدد کریں اس کی پسند کے مطابق کوئی مشروب، چائے یا ناشتہ وغیرہ اسے پیش کریں اور جو کچھ بد خبریاں ہوں رات کو جب اس کی مکان اتر جائے اور مزاج خوش ہو اس وقت اچھے الفاظ اور مناسب انداز میں سنائیں۔ جو عورتیں ایسا نہیں کرتیں خاوندان سے نفرت کرنے لگیں تو انہیں شکایت کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے حق میں خود کا نٹے بوتی ہیں۔

۵۔ ہر عورت کا فرض ہے کہ گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری کا احساس کرے اور ان کو خوشی اور محنت سے سر انجام دے، مصیبت سمجھ کر جبر و اکراہ سے نہیں۔ گھر کی پاکیزگی جھاڑو بہارو، فرنیچر اور فرش فروش کی دیکھ بھال اور صفائی اور چیزوں کو قریب سے رکھنا اور سجانا عام باتیں ہیں ان میں غفلت نہ کرنی چاہیے ورنہ تھوڑے ہی دنوں میں اچھا خاصہ گھر کباڑی کی دکان بن جائے گا۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک مناسب جگہ مقرر کر دی جائے اور پھر وہ چیز استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ وہیں رکھی جائے۔

۶۔ مندرجہ بالا امور کے علاوہ عورتوں کے خاص کام کھانا پکانا، سینا پرونا، کاڑھنا بنا اور کپڑے دھونا بھی ہیں۔ جو عورتیں ان کاموں میں جتنی زیادہ ماہر ہوتی ہیں اتنا ہی ان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ کھانا ایسا پکانا چاہیے جو خاوند کو پسند ہو، اپنی پسند کو قربان کر دینا چاہیے۔ بہتر ہے کہ خاوند سے ہفتہ بھر کا پروگرام بنا لیا جائے تاکہ روزمرہ دونوں وقت پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ خاوند کے، اپنے اور بچوں کے معمولی کپڑے مثلاً قمیضیں اور پاجامے وغیرہ ہر عورت کو خود سینے چاہئیں۔ سویٹر موزے اور دستا نے وغیرہ بنا، میز پوش، تکیوں کے غلاف اور چادریں وغیرہ کاڑھنا بھی سلیقہ مند عورتوں کا کام ہے۔ کپڑے دھونا بھی عورت کے فرائض میں ہے۔ ہم نے انگریزی فوج کے جرنیلوں کی بیویوں تک کو گھر کے معمولی کپڑے خود دھوتے دیکھا ہے۔ وہ گھر کے کسی کام کو عیب نہ سمجھتی تھیں۔ ہماری خواتین کو بھی گھر کے چھوٹے موٹے کپڑے خود دھونے چاہئیں۔ اس سے ان کی صحت اچھی رہے گی اور بچے ان کو خود کام کرتا ہوا دیکھ کر کام کرنے کو بُرا نہیں سمجھیں گے۔

۷۔ بچوں کی پرورش اور تربیت بھی عورت کا ایک اہم بلکہ سب سے اہم فرض ہے۔ بچوں کو روزانہ نہلانا، کپڑے بدلانا، تیل لگانا، لنگھا کرنا مناسب غذا کھلانا پلانا، مقررہ وقت پر سکول کا کام کرانا، خالی اوقات میں خصوصاً رات کو سونے سے پہلے ان کو پہاڑے یاد کرانا، اچھی اچھی کہانیاں سنانا، مذہبی عقائد کو پختہ کرنے کے

لئے قرآن کی چھوٹی چھوٹی سورتیں اور نماز یاد کرانا، ضروری مسائل بتانا اور تاریخ اسلام کے ایسے واقعات بیان کرنا جن سے بچوں میں حوصلہ، مذہبی جوش، اللہ اور رسول ﷺ کی محبت اور اسلام کے لئے ہر قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو یہ سب باتیں عورتوں ہی کے فرائض میں داخل ہیں۔ ان کے علاوہ بچوں کی صحت کا خیال رکھنا، پیار ہوتے ہی ڈاکٹر کو دکھانا، چھوٹا موٹا علاج خود کر لینا بھی ان ہی کا فرض ہے۔ ظاہر ہے کہ عورت کے لئے ان تمام فرائض کی بجا آوری مشکل ہے اس لئے مردوں کو بھی ان تمام باتوں میں حصہ لینا اور عورتوں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھنا چاہئے۔ خوب یاد رکھو کہ اخلاقی اور مجلسی تربیت تعلیم سے کسی طرح بھی کم نہیں بلکہ زیادہ ہی ضروری ہے۔ مگر اس تربیت میں کامیابی تب ہی ہو سکتی ہے جب کہ گوارہ ہی سے اس کا التزام ہو۔ اس کے لئے مندرجہ ذیل باتیں خاص طور پر یاد رکھنی چاہئیں۔

۱۔ جہاں تک ممکن ہو بچے کو دیر تک ہرگز نہ رونے دو بلکہ رونے کی وجہ معلوم کر کے فوراً اس کا ازالہ کر دو۔ بچہ بلا وجہ کبھی نہیں روتا یا بھوکا ہوگا یا پیٹ یا کان وغیرہ میں درد ہوگا۔ بچھونا گیلا ہوگا، کوئی چیز چھتی ہوگی یا گرمی سردی لگ رہی ہوگی۔ اگر بچوں کو زیادہ دیر تک رونے دیا جائے گا تو یہی عادت رفتہ رفتہ ضد کی صورت اختیار کر لے گی اور پھر بڑی مشکل سے چھوٹے گی۔

۲۔ بچوں کو ضد کی عادت سے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ ان کا کہنا فوراً پورا کر دیا جائے۔ اگر کوئی بات پوری نہ ہو سکے تو فوراً ان کا خیال دوسری طرف بدل دینا چاہئے۔ ان کو ہر وقت گود میں ہرگز نہ رکھو اور التزماً ہر روز دو تین گھنٹے خالی کمرے میں اکیلا رکھا کرو تا کہ شروع ہی سے ان کو اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی عادت ہو جائے۔

۳۔ بچوں کو تربیت دینے کے لئے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ان کو کہنا ماننے کی عادت ڈالو اور اپنی مثال سے یہ سکھاؤ کہ وہ ہر امر کے جواب میں ”جی ہاں“ ”بہت اچھا“ وغیرہ کہنے لگیں اور جو کچھ تم کہو خوشی خوشی کر دیں۔ ان کو ابتدا ہی سے کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہئے۔ جب وہ چلنے لگیں تو وقتاً فوقتاً ان سے کہو کہ فلاں چیز اٹھاؤ، فلاں چیز لے جاؤ، یہ چیزیں وہاں رکھ دو، یہاں بیٹھو، اب لیٹ جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ اس مشق سے دو ہر افائدہ ہوگا ایک تو فرماں برداری کی عادت پڑے گی، دوسرے نا دانستہ طور پر عمل کی قوت بڑھتی چلی جائے گی۔ بچوں کے سامنے بھی ایسی باتیں نہ کرو جن سے یہ معلوم ہو کہ کام کرنا کوئی عیب یا مصیبت کی بات ہے مثلاً اپنی غربتی کی باتیں کبھی نہ کرو اس سے احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ ایسی باتیں کبھی نہ کرو کہ فلاں عورت کے ہاں

تو اللہ نے نو کر دیئے ہیں سب کام نو کر کرتے ہیں۔ ہماری قسمت دیکھئے کہ سب پاڑ خود ہی بیلنے پڑتے ہیں۔ یوں بھی نہ کہو کہ فلاں کے بچے تو موٹر یا تانگے میں سکول آتے جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو دھوپ اور بارش میں بھی پیدل آنا پڑتا ہے۔ یوں بھی نہ کہو کہ فلاں کے ہاں سودا سلف نو کر لاتے ہیں، ہمارے بچوں کو سودا بھی خود لانا پڑتا ہے۔ بلکہ برخلاف اس کے ان سے خوب کام کراؤ، گھر کا بھی اور گھر سے باہر کا بھی اور کام کرنے میں ان کی خوب ہمت افزائی کرو۔ اگر کسی کے آباؤ اجداد امیر تھے تو ہرگز ان کا ذکر اس انداز سے نہ کرو جس سے احساس کمتری پیدا ہو۔

۴۔ اصلاح کے خیال سے بچوں کو مارنا پٹینا جھڑکنا اور برا بھلا کہنا ہرگز جائز نہیں اس سے بچے سدھرتے نہیں الٹے بے حیا اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور بڑے ہو کر غیرت نفسی اور خودداری سے بے بہرہ رہتے ہیں۔ خوب یاد رکھو کہ اصلاح کے لئے سزا ملنے کا خوف خود سزا سے کہیں زیادہ مفید اور موثر ہوتا ہے۔ اکثر آدمی جو جیل خانے کے خیال سے بھی کانپ جاتے ہیں جب ایک مرتبہ جیل ہو آتے ہیں تو دوبارہ جانے سے ذرا بھی نہیں گھبراتے کیونکہ انہیں وہاں کی زندگی اور تکالیف کا علم ہو جاتا ہے اور لاعلمی کی وجہ سے پہلے جو ڈر دل میں بیٹھا ہوا تھا جاتا رہتا ہے۔ اکثر عادی مجرم جیل سے رہا ہوتے وقت یہ کہہ کر آتے ہیں کہ ہماری کوٹھڑی اور کسی کو نہ دینا ہم جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ یہی حال بچوں کا ہے مار کھانے سے پہلے ان کو اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا اور وہ بہت ڈرتے ہیں کہ اگر کوٹھڑیا ڈنڈا لگا تو خدا جانے کیسی تکلیف ہوگی لیکن جب ایک دفعہ مار کھا لینے ہیں تو ان کو تکلیف کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اوہو یہ تو کچھ بھی نہیں وہ تو اسے بخوبی برداشت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جس قدر زیادہ پٹتے ہیں اس قدر بے خوف اور نڈر ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ مار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ ان کے لئے بہت معمولی بات ہو جاتی ہے۔

۵۔ بچوں کی اصلاح کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس قدر محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا جائے کہ وہ تم سے گھل مل جائیں اور تمہاری محبت کے عادی اور بھوکے ہو جائیں۔ ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ کھلاؤ پلاؤ، اپنے ساتھ بازار اور سیر کو لے جاؤ اور ہر روز ایک آدھ چیز ایسی دو جو ان کی خاص پسند کی ہو۔ اگر وہ تمہارے اس سلوک کے عادی ہو گئے تو اصلاح میں کامیابی یقینی ہے۔ اب اگر وہ کبھی تمہارا کہنا نہ مانیں تو صرف اتنا کرو کہ ان سے بات کرنے سے انکار کر دو۔ کہہ دو کہ جاؤ ہم نہیں بولتے تم نے فلاں کام نہیں کیا۔

تمہارا اتنا کہنا اور اتنی سی بے اعتنائی ہی ان کو ہزار دردوں کے برابر ہوگی۔ اس کا بھی اثر نہ ہو تو اپنے ساتھ کھانا وغیرہ کھلانے سے انکار کر دو یا روزانہ جو پسند کی چیز دیتے ہو مت دو۔ اس طرح وہ ضرورت تمہارا کہا مانے لگیں گے۔ اگر اس سے بھی زیادہ تہدید کی ضرورت ہو تو کچھ دیر کے لئے کونے میں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا کر دو۔ اگر کبھی سزا دینا ہی ناگزیر ہو تو کولہوں یا پیٹھ پر مارو، چہرے پر کبھی نہ مارو۔

۶۔ بچوں سے اس قسم کا فضول لاڈ پیار بھی نہ کیا جائے کہ وہ تمہارے سر پر چڑھ جائیں۔ چھوٹے بچوں کی خطاؤں اور فرورگزارشتوں پر غصہ کرنا اول درجے کی حماقت ہے۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر وہ کوئی گناہ بھی کر گزریں مثلاً جھوٹ بھی بولیں یا غیبت بھی کریں تب بھی قانون، اخلاق اور خدا سب کی نظر میں بے گناہ اور معصوم ہوتے ہیں۔ خطا دراصل ان کی ہے جن کو دیکھ کر ان معصوموں نے وہ عادت اختیار کی ہے۔

۷۔ بچے جب زیادہ جوش میں آ کر اچھلیں کودیں یا غل چائیں تو ہرگز مت رو کو اور کوئی بات ایسی نہ کرو جس سے ان کے حوصلے اور انگلیں پست ہو جائیں۔

۸۔ بچوں سے ایسی باتیں ہرگز نہ کہو جن سے وہ اپنے آپ کو حقیر و ذلیل، غریب، بے چارہ بیکار سمجھے لگیں، یاد رکھو بچے ہی قوم کا سرمایہ بلکہ خود قوم ہی ہیں۔ اس لئے ان کو خوش خلق بنس لکھ بے باک نڈر لیکن حق پرست، راست گو، راست کردار، تندرست، طاقتور بہادر، قوم اور اسلام کا خادم اور جان نثار بنانا تم پر فرض ہے۔

۹۔ بچوں کو سمجھانے کے لئے ہمیشہ صبر و استقامت استعمال کرو۔ نبی ہرگز استعمال نہ کرو۔ مثلاً جھوٹ سے روکنا ہو تو یوں نہ کہو کہ ”تم جھوٹ نہ بولو“ بلکہ یوں کہو کہ ”بچو بچو بولا کرو“ غرض یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو گناہ اور برائیوں کے الفاظ سے ان کے کان نا آشنایاں ہیں۔ یاد رکھو جس قدر برائیوں کا ذکر ہوگا (خواہ روکنے کے خیال ہی سے کیوں نہ ہو) اسی قدر برائیاں زیادہ پھیلیں گی اور جس قدر نیکیوں کا زیادہ ذکر ہوگا۔ اسی قدر نیکیاں پھیلیں جائیں گی۔ ایک ماہر نفسیات اس بات کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی برائیوں کا ذکر کرنے سے اسی لئے منع فرمایا ہے۔ اس کی ایک وجہ انسان کی یہ صفت بھی ہے کہ اس کو جتنا کسی کام سے منع کیا جائے اتنا ہی وہ اسے کرنے پر ضد کرتا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ بچوں کو جو کچھ سکھانا ہو خود کر کے اپنی مثال سے سمجھاؤ۔ بچے الفاظ سے اتنا نہیں سمجھتے جتنا کہ آنکھوں سے دیکھ کر سمجھتے اور سیکھتے ہیں۔ الغرض یہ ہیں ایک عورت کے روزانہ کے کام اور فرائض۔ جو مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو کچھ کام ہی نہیں ہوتا وہ سخت غلطی پر ہیں۔ اگر یہ سب کام کسی

مرد کو دودن بھی کرنے پڑیں تو چھین بول جائے۔ مردوں کو چاہئے کہ عورت کے ان تمام فرائض سے اس کو رفتہ رفتہ آگاہ کریں جو کام اسے نہ آتا ہو اس کی تعلیم دیں یا کسی سے دلوائیں۔ اگر اولاد زیادہ ہو اور ایک عورت کے لئے یہ سب کام عملاً ناممکن ہوں تو اس پر ہرگز سختی نہ کریں۔ آخروہ انسان اور گوشت پوست کی بنی ہوئی ہے فولاد کی بنی ہوئی نہیں ہے، ایسی صورت میں یا تو نوکر رکھیں یا خود ہاتھ بٹائیں۔ اب ہم گھر کے دوسرے مکینوں کا حال بیان کرتے ہیں۔

گھر کے دوسرے مکین

ہم نے لکھا ہے کہ گھر کے اصل مکین ایک خاوند اس کی بیوی اور بچے ہوتے ہیں۔ جب مسلمان زندہ تھے تو صورت حال یہی تھی لیکن زوال کے ساتھ ساتھ جہاں اور برائیاں پیدا ہوئیں، غربت اور افلاس کی وجہ سے ایک خرابی یہ بھی پیدا ہو گئی کہ ان اصل مکینوں میں کچھ اور لوگ بھی شریک ہو گئے۔ مثلاً مالک خانہ کی بہنیں بھائی اور بھادجین وغیرہ۔ زندہ قوموں میں یہ دستور ہے کہ لڑکوں کو پڑھا لکھا کر اور کوئی کام سکھا کر خود کفیل بنا دیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ کھاؤ کماؤ، دنیا میں اپنی جگہ خود پیدا کرو اور اپنا گھر خود بناؤ لیکن ہمارے ہاں علی الخصوص پاکستان اور ہندوستان میں یہ دستور ہے کہ لڑکے کو پرورش ہی اس خیال اور نظریہ سے کیا جاتا ہے کہ ”جب بڑا ہوگا خود کمائے گا آپ کھائے گا ہمیں کھلائے گا“ اس نظریہ میں خلوص کا شائبہ بھی نہیں ہے بلکہ یہ سراسر خود غرضی اور خود مطلبی پر مبنی ہے۔ آج بچوں کو اس خیال سے پرورش نہیں کیا جاتا کہ وہ اللہ کی امانت ہیں اور ہمارے سپرد اس لئے کئے گئے ہیں کہ ہم ان کو مناسب تعلیم و تربیت دے کر ایک اچھا باعمل شہری اور پکا مسلمان بنائیں بلکہ پیدا ہوتے ہی ان کے ساتھ یہ امیدیں وابستہ کر لی جاتی ہیں کہ یہ بڑے ہو کر ہماری مدد کریں گے۔ غور کریں تو آپ کو اس نظریہ میں اس بے عملی کی بھلک صاف نظر آ جائے گی جو صدیوں سے ہماری قوم پر لعنت بن کر چھائی ہوئی ہے۔ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا اور ہم یہ ہوائی قلعے بنانے لگتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کر ہماری مدد کرے گا اور ہم آرام سے ”پلنگ پر بیٹھے ہوئے“ کھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کے لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ فوراً رنج و غم سے سر بگرمیاں ہو جاتا ہے۔ یہ نظریہ اور یہ خیال نہایت ذلیل اور کمینہ ہے۔ اس سے صرف یہی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم عمل کرنے سے جی چراتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ پر ایمان نہیں اور اس نے قرآن میں رزق رسائی کا جو وعدہ کیا ہے اس پر مطلق یقین نہیں رکھتے۔ نتیجہ اس نظریہ کا یہ ہوتا ہے کہ ادھر بچے نے بڑے ہو کر کچھ کمانا شروع کیا ادھر ہر طرف سے مدد کے تقاضے شروع ہو گئے۔ چنانچہ

اس کی آدھی سے زیادہ عمر اسی کشاکش میں گزر جاتی ہے اور وہ اپنے گھر کو ”گھر“ نہیں بنا سکتا۔ بعض حالتوں میں یہ کشاکش اس قدر شدید ہوتی ہے کہ وہ بے چارہ نقل و حرکت اور پریشانیوں کی وجہ سے طرح طرح کے امراض کا شکار ہو کر قبل از وقت مر جاتا ہے اور اگر بد نصیبی سے زندہ بھی رہے تو اسکی زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے۔ بہت سے خاندان ان خرابیوں سے پاک بھی ہیں لیکن اوسط درجہ کے گھرانوں کی حالت عام طور پر یہی ہے جو ہم نے تحریر کی۔ اور خرابیاں جو اس نظر سے پیدا ہوتی ہیں ان کا بھی تھوڑا سا حال سن لیجئے۔ ابھی لڑکا پوری طرح جوان بھی نہیں ہوتا کہ امان جان کو ننھی سی دلہن لانے اور اپنے ”لال“ کو دولہا بنا ہوا دیکھنے کی آرزو ستانے لگتی ہے اور ابھی وہ اچھی طرح اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہونے پاتا کہ دلہن بٹو کی سنہری بیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈال دی جاتی ہیں اور چاڑھو چوچھلے پورا کرنے کے لئے شادی کو لغو فضول اور خلاف اسلام و انسانیت رسماً پرقرض دام جس طرح بھی ہو روپیہ حاصل کر کے پانی کی طرح بہایا جاتا اور دل کے ”ارمان“ نکالے جاتے ہیں حالانکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرض کا بار اس نوگرفتار بلا یعنی دولہا کی گردن افتخار کو برس بار برس سیدھا نہیں ہونے دیتا۔ یہ تو سب کچھ ہوتا ہے لیکن زیادہ دن نہیں گزرنے پاتے کہ وہی امان جان ساس کے روایتی روپ میں نمودار ہو کر اس ننھی منی دلہن پر ایسے مظالم توڑتی ہیں کہ دلہن اور دولہا دونوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ سائیں اپنے بچے کے آرام یا اس کا گھر بسانے کے خیال سے اس کی شادی نہیں کرتیں بلکہ اپنے لئے ایک بے تنخواہ کی خادمہ یا ماما حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ بعض سائیں یہ برداشت نہیں کر سکتیں کہ صاحبزادے صاحب ان کے مقابلہ میں اپنی بیوی سے محبت کرنے لگیں۔ ان کے سر پر اکثر یہ خوف سوار رہتا ہے کہ کہیں صاحبزادے صاحب اپنی کمائی ان کے ہاتھ میں دینے کی بجائے اپنی بیوی کے ہاتھ میں نہ دینے لگیں۔ پھر سائیں ہی نہیں بلکہ اکثر نندیں تو ان ساسوں سے بھی زیادہ ظالم اور بس کی گانٹھیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ ان کا اس ”گھر“ پر کوئی حق نہیں ہوتا۔ یہی نہیں بعض گھروں میں جیٹھ، دیور، جھنپانیاں اور دیورائیاں وغیرہ بھی لگائی جھائی کر کے لڑائی بھڑائی اور دنگا فساد برپا رکھنے میں کسر اٹھا نہیں رکھتیں۔ اس طرح وہ گھر جس کو رسول اکرم ﷺ نے ”حرم“ کے پراز تمکین لفظ سے یاد فرمایا ہے اور جو جنت الفردوس کا جینا جاگتا نمونہ ہونا چاہیے اچھا خاصا جہنم بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے گھر میں جو بچے پرورش پائیں گے ان میں حسن اخلاق، محبت و اخوت اور بچہتی و لگاؤ کے جذبات عالیہ کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہماری قوم کے افراد میں ان محاسن کا جو فقدان عظیم پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ اور صرف یہ ہے کہ وہ بچپن ہی سے ایک ایسی پرفساد و عناد

فضائیں آنکھ کھولنے اور پرورش پاتے ہیں جہاں انسانیت، ہمدردی اور شرافت و نیکی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف بعض کھاتے پیتے گھرانوں میں دلہن بی بی کو تھیلی کا پھپھولا بنا کر رکھا جاتا ہے۔ بل بل پانی بھی نہیں پینے دیا جاتا۔ کام کاج اور امور خانہ داری کو سنبھالنے کا تو ذکر ہی کیا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اماں جان اللہ کو پیاری ہوتی ہیں اور دلہن بی بی کو کام کاج سنبھالنا پڑتا ہے تو نا تجربہ کاری اور بے حوصلگی کی وجہ سے تمام کام چوہٹ ہو جاتے ہیں اور اچھے خاصے گھر کا گھر وندا بن جاتا ہے۔

اندریں حالات اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی کرے تو اس نظر سے پرورش اور اس طریقہ سے پرورش کو جلد از جلد بدلنے کی کوشش کرنا چاہئے۔ اس تحریر سے ہمارا منشا ہرگز یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ضعیف اور ضرورت مند ماں باپ یا دوسرے اعضاء و اقارب کی مدد یا خدمت نہ کی جائے بلکہ ہمارا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارے ہر فرد کو اس طرح پرورش کیا جائے کہ وہ بڑھاپے سے پہلے پہلے کام کاج اور محنت کر کے اتنا کمالے کہ اپنی اولاد یا کسی اور کا دست نگر ہونا ہی نہ پڑے بلکہ آخروقت تک اپنا اور اپنی بیوی یا چھوٹے بچوں کا گزارہ اپنی پس انداز کی ہوئی رقم سے کرتا رہے اور ضرورت پڑ جائے تو حسب توفیق دوسروں کی مدد بھی کر سکے۔

والدین

والدین کے حقوق بیوی بچوں کے حقوق پر بھی فوقیت رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ، بنی اسرائیل، عنکبوت، لقمان اور سورہ احقاف وغیرہ میں صاف صاف احکام خداوندی موجود ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ ان کی خدمت کرو اور جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو کبھی سختی سے جواب نہ دو بلکہ اف تک بھی نہ کرو۔ ان کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرو۔ یہ ہے وہ شریفانہ اور مہذبانہ تعلیم جو قرآن ماں باپ کے ساتھ پیش آنے کے متعلق دیتا ہے۔ اس تعلیم کی روشنی میں ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہئے کہ میرا باپ وہی تو ہے جس کے نطفہ سے میں پیدا ہوا ہوں، جس نے ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر مجھ کو اپنے سے بہتر کھلایا، پھلایا، پڑھایا لکھایا یا کوئی ہنر سکھایا، نیکیوں پر چلنا اور بدیوں سے بچنا بتایا، جو ہمیشہ میری تکلیف سے رنجیدہ اور میری خوشی سے خوش ہوتا ہے اور صرف یہی ایک انسان ہے جو مجھے خود اپنے سے بھی زیادہ خوش معزز اور دولت مند دیکھنا چاہتا ہے اور میری ماں یہ وہی مبارک ہستی تو ہے جس نے نو ماہ تک مجھے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف برداشت کی اور میری ولادت کے وقت موت سے دو چار ہو کر دوبارہ زندگی پائی۔ اس کے بعد مجھے اپنے بدن کا رس اور انس یعنی دودھ پلایا۔ میری خاطر ہر تکلیف اٹھائی حتیٰ کہ جب میں پیشاب کر دیتا تھا تو یہ مجھے سوکھے میں سلاتی تھی اور خود گیلے میں پڑ

میں ”گھر“ نہ بن سکے گا۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ ماں باپ کو الگ گھر میں رکھا جائے مگر ان کی احتیاج اور ضروریات پوری طرح مہیا کی جائیں اور ان سے پوری محبت اور عزت کا برتاؤ کیا جائے لیکن یہ کام صرف صاحب استطاعت حضرات ہی کر سکتے ہیں پھر غریب لوگ کیا کریں۔ تو اس کا علاج ہماری رائے میں تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی صبر اور عقل مندی سے کام لے، ماں باپ اور بیوی بچوں سبھی کے حقوق ادا کرے، ماں اور بیوی دونوں ہی کی دلجوئی کرے، بیوی کی زیادتی ہو تو محبت سے سمجھائے، نہ مانے تو سختی سے کہے، ماں کی زیادتی ہو تو ادب سے سمجھائے اور اپنی مجبوریاں اس کے ذہن نشین کرتا رہے۔ اس طرح شاید کچھ فضا اچھی پیدا ہو جائے لیکن ان باتوں کا حقیقی علاج جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا ہے صحیح مذہبی اور معاشرتی تعلیم و تربیت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

نوکر چا کر

نوکر بھی اکثر لوگوں کی زندگی کا جزو لاینفک ہیں اور ان کی شخصیت اور کردار پر صاحب خانہ کے آرام و راحت اور تکلیف و پریشانی کا بہت کچھ انحصار ہے۔ اسی لئے کسی کو ملازم رکھنے سے پہلے اس کے کردار اور چال چلن کی اچھی طرح تحقیق کر لینا چاہیے اور نوکر رکھ لینے کے بعد اسکو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لئے پوری قوت برداشت سے آہستہ آہستہ تربیت دینا چاہیے۔ نوکر کو اس کے فرائض اچھی طرح سمجھا دینے چاہئیں اور بتا دینا چاہئے کہ روزانہ بغیر کہے ہی وہ اپنے تمام کام خود کر لیا کرے۔ نوکروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہئے کہ ان کو تمہارے گھر میں سکون و آرام ملے اور وہ وہاں سے نکلنے کے لئے آمادہ نہ ہو۔ نوکروں کے ساتھ ہمیشہ ملامت اور شرافت کا برتاؤ کرنا چاہئے۔ ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں پر چشم پوشی کرنا چاہئے۔ بڑی بڑی غلطیوں پر پہلے نرمی سے سمجھانا چاہئے پھر بھی نہ مانیں تو ذرا سختی اور تہدید کرنا چاہئے۔ اس پر بھی باز نہ آئیں تو الگ کر دینا چاہئے۔ آئے دن نوکر بدلنے رہنا کچھ اچھی بات نہیں اس سے بدنامی بھی ہوتی ہے اور تکلیف بھی۔ نوکروں کو مارنا بیٹھنا یا گالیاں دینا کسی طرح بھی جائز نہیں، وہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں۔ نوکروں کو وہی کھانا کھلانا چاہئے جو تم خود کھاتے ہو اور کبھی کبھی کپڑے لٹے اور انعام و اکرام سے بھی سلوک کرنا چاہئے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ نوکروں سے بے تکلف ہو جانا ہرگز مناسب نہیں اس سے بعد میں سخت تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ نوکروں کو گھر کے معاملات میں دخل ہونے کی ہرگز اجازت نہ دینا چاہئے۔ اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہئے کہ وہ تمہارے بچوں کے ساتھ بھی اسی ادب سے پیش آئیں جیسے کہ تمہارے ساتھ آتے ہیں۔ جو بچے نوکروں کے ساتھ بے تکلف

رہتی تھی۔ میں بیمار ہوا تو اس نے دن رات کا چین توج کر میری خدمت کی اور راتوں کو جاگتی رہی۔ غریب تھی تو خود فاقے کئے اور مجھے کہیں نہ کہیں سے لاکر کھلایا۔ اب میں جوان ہوں اور یہ دونوں ضعیف ہو کر میری محبت اور خدمت کے محتاج ہیں تو کیا اب میں ان سے منہ موڑ لوں۔ اس سے زیادہ مکینہ اور ذلیل حرکت کیا ہوگی؟

یہ ایک امر واقعہ ہے کہ جن بچوں کا باپ مر جائے ان کی مائیں خواہ کتنی ہی غریب اور محتاج کیوں نہ ہوں سو فیصد ایسی ہوتی ہیں جو ہر طرح کی مصیبت جھیل کر ان کی پرورش کر لیتی ہیں لیکن باپ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کے مرنے کے بعد اپنے بچوں کی پرورش کے حقوق کما کھٹا ادا کر سکیں اور خدا کے خوف سے ڈریں۔ ہم نے تو اونچے طبقات میں بھی اکثر بڑے بڑے تعلیم یافتہ پروفیسر، جج، بیرسٹر، جنرل، کرنل اور لکھ پتی امراء ایسے دیکھے کہ ایک بیوی کے مرتے ہی دوسری شادی رچالی اور دوسری بیوی کی غلامی میں اندھے اور بدست ہو کر اپنے بچوں سے ایسے منہ موڑ لیا اور اس طرح بھلا دیا گویا یہ ان کی اولاد ہی نہیں اور معاشرے، اخلاق یا خدا کی طرف سے ان پر ان بچوں کی پرورش کا کوئی حق ہی عائد نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگ ظالم کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ ایسی حرکتیں قرآنی تعلیم سے ناواقفیت اور اپنے مراتب کی رعوت کی وجہ سے سنگدل ہو کر کرتے ہیں۔ مگر انہیں یا درکھنا چاہئے کہ زندگی چند روزہ ہے آج نہیں تو کل مگر اللہ کے سامنے جانا اور ان مظالم کا جواب دینا ہے۔ خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ ہم حقوق والدین کا ذکر کر رہے تھے تو آج کل غریب تو کیا صاحب استطاعت گھرانوں میں بھی ایسے ماں باپ شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں جو اپنے لڑکوں کی شادی کر دینے کے بعد ان کو الگ کر کے ان کی دنیا الگ بنانے میں مدد دیں۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکوں کو اپنے ساتھ ہی رکھا جاتا ہے اور اس سے اکثر و بیشتر انہی وقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا ذکر پیچھے کیا جا چکا ہے یعنی جب کسی کی ماں اور بیوی میں ان بن ہو جائے تو وہ شریف آدمی سخت مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ ایک طرف اماں اور اس کے حقوق کا پاس و لحاظ دوسری طرف بیوی کے حقوق اور گھر کی خوش حالی اور خوش باشی کا سوال۔ ایک طرف کنواں اور دوسری طرف کھائی۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے اسلامی معاشرے میں اس مصیبت کا کوئی علاج موجود ہے؟ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ درحقیقت اس کا اصل علاج تو صرف یہ ہے کہ عورتوں کو صحیح مذہبی اور معاشرتی تعلیم دلائی جائے، ان میں وسیع انظری پیدا کی جائے اور ان کو ہر ایک انسان کے متعلق خدا کے متعینہ حقوق کی حدود سے آگاہ کیا جائے۔ جب تک یہ نہ ہوگا اس قسم کی پریشانیوں کبھی دور نہ ہوں گی اور ہمارا گھر صحیح معنوں

ہو جاتے ہیں یا نوکروں کو مارتے پینتے اور ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں ان کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھا ان لوگوں کا حال جو بسا اوقات ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اب ہم ان حقوق و فرائض کا حال بیان کریں گے جو گھر سے باہر ایک انسان پر عائد ہوتے ہیں۔

گھر سے باہر

گھر سے باہر نکلنے ہی سب سے پہلا واسطہ پڑوسیوں سے بڑتا ہے پھر اہل محلہ سے اس کے بعد اہل شہر، اہل ملک اور پھر اہل عالم سے۔ اس لئے ماں باپ، خاص رشتہ داروں، بیویوں اور مسکینوں کے بعد سب سے پہلا حق پڑوسیوں کا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء آیت ۳۶ میں پڑوسیوں سے نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں۔ سرکارِ دو عالم ﷺ فرماتے ہیں کہ ”وہ شخص مومن نہیں جو خود سیر ہو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے“ یہ بھی حضور ﷺ ہی کا ارشاد ہے کہ ”وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا ہمسایہ اس کی برائیوں سے اسن میں نہ ہو“ اگر ان ارشادات پر عمل کیا جائے تو معاشرے کی حالت چند ہی ماہ میں کچھ سے کچھ ہو جائے لیکن افسوس ہے کہ ہمسائے نو درکنار آج کل تو سگے بھائیوں میں بھی وہ سلوک نہیں ہے جس کا حکم پڑوسیوں کے لئے دیا گیا ہے۔ اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر شخص اپنے پڑوسیوں کے دکھ درد اور راحت و خوشی میں شریک ہو تاکہ محبت اور یگانگت کے جذبات پیدا ہوں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ نہ صرف پڑوسیوں بلکہ محلے کے تمام آدمیوں سے اکثر و بیشتر ملتا رہے تاکہ سب ایک دوسرے کے حالات سے واقف رہیں تو بہت اچھا ہے ورنہ محلے کی مسجد میں تو ملنا ہو ہی سکتا ہے۔ اللہ اور رسول ﷺ اجتماعیت کی جو روح مسلمانوں میں بیدار کرنا چاہتے ہیں وہ اس طریقہ سے بوجہ احسن بیدار ہو سکتی ہے۔

اہل شہر کے آپس میں ملنے جلنے اور تمام شہر کی حالت سے باخبر رہنے کے لئے مساجد جامع بہت کچھ مفید ہو سکتی ہیں۔ ان مساجد میں مروجہ خطبوں کے علاوہ اگر شہر کی حالت پر بھی امام اور خطیب صاحبان کچھ بیان کیا کریں اور نماز کے بعد ضروری امور پر جلسے ہوا کریں تو شہری زندگی سے حقیقی دلچسپی اور شہریت کی روح اہل شہر میں بہت جلد پیدا کی جاسکتی ہے۔ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ شہر کی حالت سے باخبر رہے اور شہر کی ترقی میں دلچسپی لے کیونکہ شہر کی عام حالت کا اثر ہر شہری پر بالواسطہ ضرور پڑتا ہے۔ اگر تمام شہریوں میں یہ روح بیدار ہو جائے تو تمام قوم میں اتحاد و یگانگت پیدا ہو سکتی ہے۔ شہر کی ترقی کے لئے بلدیات بہت ہی مفید ادارے ہیں۔ ان میں صحیح اور مخلص قسم کے نمائندے بھیجے جائیں۔ بلدیات کے قوانین کی پوری پابندی اور حرمت کرنا

چاہئے اور بلدیات کی املاک کو تقدس کی نگاہ سے دیکھنا اور ان کی حفاظت کرنا ہر شہری کو اپنا فرض سمجھنا چاہئے اور کسی چیز کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہئے۔ شہر کی تفریح گاہوں، باغات، پارکوں، پانی کے نلوں اور ذخیروں، بڑی بڑی شاہراہوں اور گلی کوچوں کی روشنی اور صفائی کے انتظامات اور وسائل کے تحفظ کا بڑا خیال رکھنا چاہئے۔ ان کو نقصان پہنچانا گندنا کرنا خلاف انسانیت و شرافت ہے اور ایسا کرنے والے نیم وحشی اور غیر مہذب ہیں۔ شہر میں جو پردیسی آئیں ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا اور ضرورت کے وقت حسب توفیق ان کی مدد کرنا بالکل اسلامی تعلیم اور منشاءِ خداوندی کے مطابق ہے۔ کبھی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانے یا منزل مقصود تک پہنچا دینے میں کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی لیکن جس پردیسی کے ساتھ تم یہ سلوک کرو گے وہ ہمیشہ تم کو نیکی سے یاد کرے گا اور تمہارے شہر کی تعریف میں رطب اللسان رہے گا۔ محتاج پردیسیوں کی روپیہ پیسے سے مدد کرو دینا، کسی پردیسی کا علاج کر دینا یا اس کو ہسپتال میں داخل کر دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ انہی باتوں سے قوم کی تہذیب یا بد تہذیبی کا پتہ لگتا ہے۔

شہر کے بعد ملک کی باری آتی ہے۔ اپنے ملک سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ بشرطیکہ یہ ملک دارالسلام ہو اور وہاں مسلمانوں کی تخریب و تباہی کے منصوبے کا فرمانہ ہوں۔ جو مسلمان اپنے ملک سے محبت نہیں کرتا وہ خود اسلام کے دفاع کی طرف سے بے پروائی برتا اور اپنے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے۔ ملکی ترقی کی بنیاد شہریت کے حقوق کا کما حقہ خیال کرنے اور اچھا شہری بننے پر منحصر ہے۔ ملک افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر افراد اچھے ہوں گے اور اپنے ملک کی ترقی کے لئے تن من دھن سے ایثار کریں گے تو ملک خوش حال اور طاقتور ہو جائے گا اور دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر ملک تباہ ہوگا تو افراد بھی تباہی سے نہ بچ سکیں گے خواہ وہ غریب ہوں یا امیر۔ اس لئے ملکی ترقی کے ہر منصوبے میں پوری دلچسپی لو اور عملی کام کر کے دکھاؤ۔ خواہ یہ منصوبہ اقتصادی ہو یا تعلیمی، معاشرتی ہو یا معیشتی، صنعتی ہو یا دفاعی، جس ملک کے افراد ملکی ترقی کے منصوبوں کی پروا نہیں کرتے وہ اپنے دشمنوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اور ہمارے ملک کو تباہ کر دو۔

اسلام تنگ دلی ہرگز نہیں سکھاتا بلکہ بلا لحاظ مذہب و ملت ہر انسان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کہیں بھی نہیں دیا کہ غیر مسلموں سے نفرت کرو یا بلا وجہ ان کے ساتھ سختی اور تشدد سے پیش آؤ۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایسی ہی بھلائی کر جیسی اللہ نے تیرے ساتھ کی ہے۔ یہ حکم تمام اہل عالم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لئے ہے۔ اسی طرح اور ختمی نیکیوں کا حکم دیا

گیا ہے ان میں کہیں بھی یہ تخصیص نہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی کی جائیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اللہ نے غیر مسلموں کے ساتھ اس قدر نرمی اور رواداری کی اجازت بھی نہیں دی کہ وہ تمہاری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر تم پر چھا جائیں اور رفتہ رفتہ غالب آجائیں جیسا کہ پچھلی دو صدیوں میں تمام ممالک اسلامیہ کو تجربہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے تم کو نہایت سختی سے یہ حکم دیا ہے کہ جو غیر مسلم ممالک تمہیں تباہ کرنے کی فکر اور تدبیریں کر رہے ہوں ان سے ہوشیار رہو۔ ان کے عہد و پیمان اور دوستانہ وعدوں پر بھروسہ نہ کرو۔ ان کے مقابلہ کی تیاریاں کرتے رہو اور جب وہ تم کو تمہارے گھروں یا ملکوں سے بے دخل کرنے کے لئے حملہ کریں تو اتنا ڈرو کہ ان کو فنا کر دو یا شہید ہو جاؤ۔ اللہ ہر معاملے میں صراطِ مستقیم یعنی اعتدال پر قائم رہنے اور حکمت و عقل مندی سے عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اہل عالم کے ساتھ نیکی، شرافت اور حُسن اخلاق سے پیش آنا اسلامی تہذیب و تعلیم کا پروپیگنڈا کرنا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی جاؤ کلمۃ اللہ اور تہذیب اسلامی کی تبلیغ کرو۔

ظاہر ہے کہ یہ تبلیغ ڈنڈے کے زور اور کمینگی اور بد خوئی کے مظاہرے سے نہیں ہو سکتی۔ اس طرح تو جن لوگوں میں تم تبلیغ کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے مذہب کو اور تم کو برا سمجھنے لگیں گے۔ اس لئے تمہارا فرض ہے کہ جس غیر مسلم یا غیر ملک کے باشندے سے ملو اس کے دل پر اسلامی نیکی، تہذیب اور حُسن اخلاق کا سکہ بٹھا دو تاکہ وہ تمہارے مذہب کی خوبیوں کا معترف ہو جائے۔ اب ہم لوگوں سے ملنے جلنے کے آداب و قواعد بیان کرتے ہیں۔

میل ملاقات

اسلام بے حد سوشل مذہب ہے۔ یہ گھروں میں بند پڑے رہنا اور میل ملاقات سے گھبرانا یا کترانا نہیں سکھاتا۔ اسلام میں عبادت تک کی سبج ایسی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آپس میں ملنے جلنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے موانست و اخوت کے جذبات پرورش پاتے اور وہ روحِ اجتماعیت پر وان چڑھتی ہے جو قومی بقاء کے لئے پہلی ضروری چیز ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ میل ملاقات کے مندرجہ ذیل آداب و قواعد پر سختی سے عمل کرے۔

جب تم کسی کے گھر جاؤ تو مناسب یہ ہے کہ پہلے سے ملاقات کا وقت مقرر کر لو تاکہ وہ اس وقت گھر پر موجود رہے۔ جب کسی کے گھر پہنچو تو دروازہ کھٹکھاؤ یا نرمی سے آواز دو۔ اگر گھر میں داخل ہونے کی اجازت ملے تو جاؤ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس چلے آؤ۔ آج کل ہزار مسلمانوں میں سے شاید ایک دو ہی ایسے ہوں گے جو اس بات کا برانہ مانیں حالانکہ یہ اللہ کا حکم ہے (دیکھو سورہ نور رکوع ۴) درحقیقت کوئی آدمی

بھی اس قدر بدخلق نہیں ہوتا کہ تم اس کے گھر جاؤ اور وہ ملنے سے انکار کر دے لیکن اگر کبھی کوئی شخص اس طرح انکار کر دے تو تم کو برائیاں ماننا چاہیے۔ بلکہ یوں سمجھ لینا چاہیے کہ یقیناً اس وقت اس کے گھر کے حالات ہی ایسے ہوں گے جو وہ ملنے سے معذور ہے۔ تم کو کیا معلوم کہ اس وقت وہ کن پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ایسے وقت میں ملاقات ہو بھی تو نہایت بے لطف ہوتی ہے۔ اس لئے یہ بالکل درست ہے کہ صاحب خانہ صاف صاف معذرت کر دے اور مہمان برانہ مانے۔

اگر اجازت مل جائے اور تم گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام اور مصافحہ کرو پھر مناسب جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ صاحب خانہ جو موضوع کرے اس کو قبول کرو۔ بعض لوگ ملنے تو چلے جاتے ہیں مگر جب کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو سختی سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بُری بات ہے اس میں غرور و تکبر کی بو آتی ہے اور صاحب خانہ کی دل شکنی ہوتی ہے۔ ہاں کوئی بیماری یا پیٹ میں کچھ خرابی ہو تو اور بات ہے۔ ایسی حالت میں میزبان کو بھی ہرگز اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک بیٹھو ایسی گفتگو اور اس قسم کی باتیں کرو جن سے تمہارا بھی دل خوش ہو اور میزبان کا بھی۔ ایسی باتیں کبھی نہ کرو جن سے شکر رنجی اور آزر دگی پیدا ہو۔ جب چلنے کا ارادہ ہو تو رخصت چاہو۔ اگر میزبان اور بیٹھنے پر اصرار کرے اور تمہیں فرصت ہو تو کچھ دیر اور بیٹھو ورنہ وجہ بتا کر معذرت کرو اور سلام کر کے رخصت ہو۔ اگر تم کسی سنجیدہ معاملے کی غرض سے آئے ہو تب بھی تمہاری گفتگو شریفانہ اور خوشگوار ہونی چاہیے جس سے دلوں پر میل نہ آئے اور جدا ہوتے وقت تم بھی خوش ہو اور میزبان بھی۔ کسی کے گھر اتنی زیادہ دیر ہرگز نہ بیٹھو کہ وہ اکتا جائے۔ خیال رکھو کہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہے۔ اس بات کا خیال رہے کہ تمہارے زیادہ دیر بیٹھنے سے اس کا کوئی حرج تو نہیں ہو رہا۔

جب کوئی تمہارے گھر آئے تو خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرو۔ سلام کا جواب دے کر مصافحہ کرو۔ اب اگر سوائے اتفاق سے گھر بیوہ حالات ملاقات کی اجازت نہیں دیتے تو بے الفاظ شائستہ مہمان سے معافی مانگو اور کہو کہ مجھے وقت دیکھنیے تاکہ میں خود آپ کے دولت کدے پر حاضر ہو کر اس تکلیف فرمائی کی تلافی کر دوں وغیرہ وغیرہ لیکن اگر تم ملاقات کے لئے تیار ہو تو مہمان کو اندر بلاؤ اور اچھی جگہ پر بٹھاؤ اور اکل و شرب سے حسب توفیق اس کی تواضع کرو لیکن اگر کوئی شخص کھانے پینے سے انکار کر دے تو زیادہ اصرار نہ کرو۔ مہمان جب تک بیٹھے اس کے پاس موجود رہو۔ کہیں جانا ہو تو معافی مانگ کر اور اجازت لے کر جاؤ۔ انتہائی شگفتہ مزاجی اور محبت بھرے انداز سے پیش آؤ۔ جب مہمان رخصت ہو تو کچھ دیر تک اس کو چھوڑنے جاؤ۔

بعض آنے والے ہدیے لے کر آتے ہیں ان کو شکر یہ کہ ساتھ بخوشی قبول کرنا چاہیے۔ ہدیے دینا اور قبول کرنا سرکارِ دو عالم ﷺ کی سنت ہے۔ اس سے تعلقات گہرے اور محبت زیادہ ہوتی ہے۔ جب کوئی آئے تو اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب بہت سے آدمی بیٹھے ہوں تو کسی آنے والی کی تعظیم کے لئے ضروری نہیں کہ سب ہی کھڑے ہو جائیں۔ رسول کریم ﷺ جب کسی مجلس میں تشریف لاتے تھے تو تعظیم کے لئے لوگوں کے کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آج امراء، افسران اور حکام کی تعظیم کے لئے اگر کوئی کھڑا نہ ہو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور دل میں کینہ رکھ لیتے ہیں۔ ان کو ذرا خیال کرنا چاہیے کہ نعوذ باللہ وہ رسول اللہ ﷺ سے زیادہ عزت والے تو نہیں ہیں۔

اب ہم میل ملاقات کے بارے میں چند اور باتیں بیان کرتے ہیں۔

لباس

جب دو آدمی ملتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ایک دوسرے کے متعلق رائے قائم کرنے میں مدد دیتی ہے لباس ہے۔ اس لئے جب کبھی گھر سے باہر جاؤ یا کسی سے ملو تو لباس ستھرا، اجلا اور تراش خراش میں مروجہ فیشن کے مطابق ہونا چاہیے لیکن باوجود اس کے اگر کسی کا لباس اچھا نہ ہو تو اس پر کتنے چینی کرنا یا مذاق اڑانا شرافت کے خلاف ہے۔

گفتگو

لباس کے بعد دوسری چیز گفتگو ہے جس سے ایک آدمی دوسرے کے متعلق رائے قائم کرتا ہے۔ یہ گفتگو ہی ہے جو انسان کو دوسروں کی نظر میں مقبول یا مردود بناتی ہے۔ گفتگو ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی شریف ہے یا رذیل، بے وقوف ہے یا عقلمند، مہذب ہے یا بدتمیز، معمولی تعلیم یافتہ ہے یا ان پڑھ، عالم ہے یا جاہل، اس لئے اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم کو عزت کی نظر سے دیکھیں تو گفتگو میں بہت احتیاط سے کام لو۔ گفتگو کرتے وقت نہ آواز اس قدر بلند ہو کہ سننے والوں پر گراں گزرے اور نہ یہ معلوم ہو کہ لڑ رہے ہو یا وعظ کہہ رہے ہو۔ نہ اس قدر دھیمی کہ سننا اور سمجھنا بھی مشکل ہو جائے۔ اچھے ہمیشہ نرم اور شیریں ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ بولنا یا کسی مجلس میں برابر بولتے رہنا بہت معیوب اور جہالت کی نشانی ہے لیکن بالکل خاموش بیٹھے رہنا بھی اچھا نہیں۔ جب ضرورت ہو یا کوئی سوال کیا جائے تو ضرور بولو لیکن جو بات کہو مقبول اور ضرورت کے مطابق۔ فضول باتیں کرنے کو بکواس کہتے ہیں۔ بہت جلدی جلدی بولنا معیوب ہے لیکن اس قدر ٹھہر ٹھہر کر بھی نہ بولو کہ لوگ منہ تکتے رہیں۔ ایسی

باتیں ہرگز نہ کہو جس سے سننے والوں کو دکھ ہو یا ان کی تذلیل ہوتی ہو۔ بذلہ سنجی اور لطیفہ گوئی بری چیز نہیں لیکن یہ کبھی کبھی ہوتی اچھی ہوتی ہے۔ ہر وقت مذاق اور دل لگی چھوڑے لوگوں کا کام ہے۔ پھلکڑ پین تو کسی وقت بھی جائز نہیں۔ لوگوں کا مذاق اڑانا یا ان کا نام رکھنا، طعنے مہنے دینا اور آوازے کسنا شرافت کے خلاف ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی سورۃ حجرات میں منع فرمایا ہے۔ زیادہ سنجیدگی بھی اچھی نہیں، باتیں کرتے وقت کبھی کبھی مسکرائیا ہنسنا ضرور چاہیے۔ چہرے پر خشونت اور رعوت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فرعونیت کی نشانی ہے۔ اکثر امراء، حکام اور افسر جب اپنے ماتحتوں یا اہل معاملہ سے بات کرتے ہیں تو چہرہ اس قدر بھیا نک ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے۔ یہ لوگ اتنا نہیں جانتے کہ مخاطب اس وقت تو مرعوب ہو جاتا ہے لیکن پیٹھ پیچھے ان کا مذاق اڑاتا اور برائی سے یاد کرتا ہے۔ اگر انظہار ناراضگی ہی کرنا ہو تو سنجیدہ لہجہ ہی کافی ہو سکتا ہے۔ جو افسر یا امراء اپنے ماتحتوں سے گندہ ذہنی کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ اپنی خاندانی اور ذاتی فرومانگی کا ثبوت دیتے ہیں۔

گفتگو کی قسم کی ہو سکتی ہے۔ تفریحی، علمی، ادبی، سیاسی، مذہبی، فلسفیانہ وغیرہ مگر ہمیشہ موقع اور محل دیکھ کر کرنی چاہیے۔ یعنی جیسا مخاطب یا جس قسم کے سامعین ہوں ان کے سامنے ویسی ہی گفتگو کی جائے۔ دوران کار اور فضول قسم کی بات چیت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ لوگوں سے ان کے نجی معاملات کے متعلق ہرگز سوالات نہیں کرنے چاہئیں۔ مثلاً ملتے ہی کسی سے اس کی آمدنی پٹھے یا گھر یلو معاملات کی بابت پوچھنا بہت معیوب بات ہے۔ ایسے سوالات بھی ہرگز نہ کرو کہ اگر ان کا صحیح جواب دیا جائے تو تم کو برا لگے۔ ایسی باتوں سے مجلس میں بد مزگی اور فساد پیدا ہوتا ہے اور کبھی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا۔ ذرا ذرا سی بات پر اعتراض اور بحث کرنا، دوسروں کی بات کا ثنا یا جب کوئی بول رہا ہو تو بیچ میں بول پڑنا بہت ہی بری اور جہالت کی بات ہے۔ عورتوں میں یہ عادت خاص طور سے پائی جاتی ہے۔

ہمیں اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک شادی کے موقع پر بہت سی خواتین جمع ہوئیں دوسہیلیاں جو بہت عرصہ سے نہیں ملی تھیں اس قدر گہک کر ملیں کہ سگی بہنیں بھی کیا ملیں گی۔ کئی گھنٹے تک نہایت ہی پیار و محبت کی باتیں ہوتی رہیں۔ کھانے کے بعد وہ ایک ہی پلنگ پر لیٹ گئیں اور پھر باتیں شروع ہوئیں۔ باتیں کرتے کرتے ایک نے کہا بہن بہت ہی دن بعد ملے، میری تو آنکھیں ترس گئی تھیں تمہیں دیکھنے کو۔ دوسری بولی ”ہاں بہن دو برس ہو گئے نچہ کی شادی میں ملے تھے، ہاں پورے دو برس ہو گئے۔ اس موقع پر تو اور بھی کئی لڑکیاں تھیں اب کے ان میں کوئی نظر نہیں آتی۔“ ”اے ہاں۔ وہ کیسی اچھی لڑکی تھی جو ہمارے ساتھ سوئی تھی“

”ہاں ہاں بہت ہی خوبصورت تھی بھلا سا نام تھا۔“ مجھے یاد ہے نجمہ نام تھا۔“ ”ہاں ہاں نجمہ دھانی جوڑے میں کیسی پیاری لگتی تھی۔“ دھانی؟ دھانی نہیں سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھی۔“ کوئی بھی نہیں دھانی جوڑا تھا۔“ ”اے واہ تمہیں یاد نہیں رہا۔“ اے لو میں تو ایک دفعہ دیکھ لوں پھر بھولتی نہیں۔“ ”تم! تم تو ہمیشہ کی بھلکڑو ہو!“ ”اور تم۔ تمہارا تو دماغ ہی خراب ہے۔“ اس کے بعد جوآن دونوں میں لڑائی اور ٹوٹو میں ہوئی۔ تو سارا گھر تماشاً دیکھتا تھا۔ صرف جوت پیزا باقی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ دودن تک مہمان رہیں مگر آپس میں بات تک نہیں کی۔ یہ حال ہے خواتین کی جہالت کا۔ ذرا ذرا سی بات پر اس طرح لڑتی ہیں کہ جانیداد کے بٹارے پر بھی کوئی کیا لڑے گا۔ پھر عورتوں کا تو ذکر ہی کیا۔ مرد ہی کون سے بھلے ہیں۔ کوئی مجلس ہو یا محفل، گھر ہو یا ہوٹل، ریل میں ہم سفر ہوں یا بس میں، ایک آدمی کے منہ سے بات نکلنے بھی نہیں پاتی کہ دوسرا اس پر اعتراض جڑ دیتا ہے۔ اس طرح ہر شخص اپنی لیاقت علمی اور طاقت لسانی کا سکہ بٹھانا چاہتا ہے اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ اول درجہ کی جہالت کا ثبوت ہے۔ ایسی ہی فضول اور دور از کار باتوں پر بعض اوقات مہلک لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد شاہ ایران کراچی تشریف لائے تھے۔ جب وہ واپس چلے گئے تو ایک دن ایک ریستوران میں دو آدمیوں میں اس طرح بحث ہو گئی ایک کہتا تھا کہ جب ان کا جلوس نکلا تھا تو وہ تاج پہنے ہوئے تھے۔ دوسرا مہصر تھا کہ ٹوپی پہن رکھی تھی۔ یہ معمولی سی بات اتنی بڑھی کہ ایک نے دوسرے کو چاقو مار دیا اور وہ مر گیا۔ مارنے والے کو ایک سال بعد پھانسی ہوئی۔ اب فرمائیے اس سے زیادہ جہالت بھی آپ نے کبھی دیکھی ہے؟

دعوتیں

میل ملاقات کے سلسلہ میں دعوتوں کا ذکر بھی ضروری ہے۔ دعوتوں میں سادگی سے کام لینا چاہیے۔ شریف مہمان یہ نہیں دیکھتے کہ میزبان کیا کھلاتا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس خلوص سے کھلاتا ہے۔ دعوتوں میں وقت سے صرف دس پانچ منٹ پہلے جانا اور کھانے کے بعد جلدی واپس آ جانا چاہیے۔ بہت پہلے سے جا بیٹھنا اور بعد میں بہت دیر تک بیٹھے رہنا برا ہے۔ اس سے میزبان کو بہت تکلیف ہوتی ہے گو وہ زبان سے کچھ نہ کہے۔ دعوتوں میں پُرانے احباب سے ملنے اور نئے دوست پیدا کرنے کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

کھانے کے آداب

کھانا ہمیشہ صاف ستھری جگہ پر کھانا چاہیے۔ بہتر ہے کہ کھانا تم سے کسی قدر اونچی جگہ پر ہو۔ نیچے فرش پر

بیٹھ کر کھاؤ یا میز کرسی پر صفائی کا خیال ہر حالت میں ضروری ہے۔ دسترخوان ہمیشہ صاف اور اُجلا ہونا چاہیے۔ کھانا الگ الگ رکابیوں میں نکالنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہر قسم کا کھانا بڑی بڑی قابوں اور ڈوگلوں میں بھر کر دسترخوان پر رکھ دیا جائے۔ ہر شخص کے سامنے خالی رکابیاں، ٹشٹریاں اور پیالے وغیرہ ہوں جن میں وہ بڑے چپچوں سے ضرورت کے مطابق نکال کر کھائے۔ کھانا ہاتھ سے کھاؤ یا چپچوں سے یہ اپنی اپنی مرضی ہے۔ کھاتے وقت زانوں پر رومال وغیرہ ڈال لینا چاہیے تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں۔

کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھو لو اور کئی بھی کر لو تاکہ منہ صاف ہو جائے اور کھانے کا پورا مزہ آئے۔ خوب کھل کر بیٹھو۔ شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھو۔ کھانا آہستہ آہستہ خوب چبا کر کھاؤ۔ جلدی جلدی ہرگز نہ کھاؤ۔ اگر کھانے کا پورا مزہ لینا ہو تو چباتے وقت ذائقہ کا خیال کرو۔ اگر تم باتیں کرتے یا بے خیالی میں کھاتے رہو گے تو کھانے کا ذائقہ پوری طرح ہرگز محسوس نہ ہوگا۔ لقمہ اس طرح چباؤ کہ چپڑ چپڑ کی آواز نہ نکلے، یہ بہت بد تمیزی کی بات ہے۔ لقمہ بہت بڑا نہ ہو۔ کھاتے میں منہ اس قدر نہ کھلنے پائے کہ لوگوں کو منہ کے اندر کھانا نظر آئے۔ شور بہ وغیرہ میں نوالہ اس طرح ترک کرو کہ سارا ہاتھ لٹ پٹ نہ ہو جائے۔ جب کھا چکو تو الحمد للہ کہو۔ لمبی لمبی ڈکاریں لینا اور پیٹ پر ہاتھ پھیرنا بہت بری عادتیں ہیں۔ کھانے کے بعد ہاتھ خوب صاف کر کے دھوؤ اور منہ بھی خوب صاف کرو۔ مگر اس طرح کھانا کھانا اور حلق صاف کرنا کہ دوسرے لوگ سنیں خلاف تہذیب ہے۔ پانی وغیرہ جلدی جلدی نہیں پینا چاہیے بلکہ دو تین مرتبہ بیچ میں ٹھہرنا چاہیے۔ پینے میں اس بات کی بہت احتیاط رکھو کہ غٹ غٹ کی آواز سنائی نہ دے۔ بعض آدمی چائے اور پانی وغیرہ اس طرح پیتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گلے میں کبوتر غٹ غٹ غٹ غٹ کر رہا ہے۔ دعوت کھانے کے بعد میزبان سے اجازت لو۔ کھانے کی تعریف کرو اور شکر یہ ادا کر کے رخصت ہو۔ کھانے کی برائی کرنا کہ نمک کم تھا، مرچیں زیادہ تھیں، شور بہ پتلا تھا یا چاول کھڑے رہ گئے تھے نہایت ہی ذلیل عادت ہے۔

گھروں میں کھانا کھاتے وقت بھی انہی آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ مناسب اور باعث برکت تو یہ ہے کہ گھر پر سب لوگ اکٹھے کھانا کھائیں لیکن الگ الگ کھائیں تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔

آداب نشست و برخاست

قوموں کی تہذیب و تنظیم اور بد تہذیبی و بد نظمی جیسا مظاہرہ بڑی بڑی محافل و مجالس میں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا۔ اس لئے جب کسی محفل، مجلس یا بڑے جلسے میں جاؤ تو ان آداب پر پوری طرح عمل کرو تاکہ انگریز کی

نظر میں تمہاری قوم و ملت کی بسکی نہ ہو۔ مجلس میں داخل ہوتے ہی جو لوگ نزدیک ہوں ان کو آہستہ سے سلام کرو۔ اپنے منصب و مرتبے کے لحاظ سے مناسب جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ پہلے آنے والے آگے اور بعد میں آنے والے پیچھے قطار در قطار ترتیب وار بیٹھ جائیں۔ بعد میں آنا اور بیٹھے ہوئے لوگوں کے کندھوں اور سروں پر سے کود کر آگے جانا انتہائی بدتہذیبی ہے۔ اگر جلسہ بڑا ہو اور جلسہ گاہ میں جانے کے راستے مقرر ہوں تو قطار بنا کر اندر جانا اور نمبر و اپنی جگہ پر بیٹھنا چاہیے۔ اس سے تمہارے قومی وقار اور تہذیب و تنظیم کا ثبوت ملتا ہے۔ جو لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح بے ترتیب بھاگتے دوڑتے اور چیختے چلاتے جلسہ گاہوں میں آجاتے ہیں وہ اپنی قوم کو بدنام کرتے اور دوسرے لوگوں کو ہنسنے کا موقع دیتے ہیں۔ عید گاہوں اور جامع مسجدوں میں آتے جاتے وقت بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو ان باتوں کا شعور اور احساس ہے ان پر فرض ہو جاتا ہے کہ ایسے مواقع پر تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر عوام کو ان طریقوں پر چلانے کا عملی بندوبست کریں۔ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو اور اس بات کی احتیاط رکھو کہ تمہاری کہنی، گھٹنا، جھٹری یا چھتری پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کے نہ چھبے۔ ایسے موقعوں پر آپس میں کانٹا پھوسی کرنا، دوسروں کی طرف اشارے کرنا یا کسی پر اعتراضات کرنا اور ہنسنا شرافت سے بہت ہی بعید ہے۔ اگر کوئی صاحب تفریر کریں یا کچھ پڑھ کر سنائیں تو غور سے سنو اور اگر کوئی بات تمہاری مرضی یا تمہارے نظریات کے خلاف ہو تو صبر کرو۔ اگر کوئی اعتراض کرنا یا کسی بات کی تشریح کرنا ضروری ہی ہو تو تفریر ختم ہونے کے بعد صاحب صدر کی اجازت سے مناسب الفاظ اور شائستہ لہجے میں ٹھنڈے دل سے سوالات کرو۔ غل چمانا، لڑائی پر آمادہ ہو جانا یا آوازے کسنا شریفوں کا شیوہ نہیں۔ ایسا ہی بحث و مناظرہ کا شوق ہو تو اس کے لئے خاص مجالس منعقد کر کے دل کے ارمان نکالے جاسکتے ہیں۔ عام جلسوں میں بحث و مباحثہ باعث شرف و فساد ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔

چلنے پھرنے کے آداب

چال سے بھی انسانی کردار کا بہت کچھ حال معلوم ہوتا ہے۔ چال میں قنصع ہرگز نہیں ہونا چاہیے نہ غرور و تمکنت۔ گردن اکڑا کر اور سین تان کر چلنا منع ہے۔ اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہ چلو تم اس کو پھاڑنا نہ سکو گے۔ نہ عاجزی اور فروتنی سے اس طرح چلو کہ کندھے ڈھیلے گردن ڈھکی ہوئی اور منہ لٹکا ہوا ہو۔ نہ اس قدر تیز اور بدحواس ہو کہ چلو گویا کوئی تمہارے تعاقب میں ہے اور تم ڈر کر بھاگ رہے ہو۔ نہ اس قدر سست رو بنو کہ بیمار معلوم ہو۔ میان روی سب سے بہتر ہے۔ فوجی سپاہیوں کی چال بہت اچھی ہوتی ہے نہ اس میں غرور و تکبر ہوتا

ہے نہ سستی اور کاہلی۔ چلتے میں نہ تو اچھوں کی طرح تیز نظر لوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلو نہ نظر اس قدر نیچی ہو کہ سامنے سے آنے والے کے ساتھ ٹکرا جاؤ۔

چلنے میں چہرے پر بشاشت اور تازگی ہونی چاہیے۔ حضرت عمرؓ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ کندھے لٹکے ہوئے، گردن ڈھکی ہوئی، چہرے پر ملال کے آثار آہستہ آہستہ چلا آ رہا ہے۔ آپ نے اس کو ٹوکا اور فرمایا مسلمان کو ہرگز اس طرح نہیں چلنا چاہیے کہ مجسمہ حزن و ملال معلوم ہو بشاشت ہو کر چلا کرو۔ بازاروں اور شاہراہوں پر اس طرح نہ چلو کہ کسی اور کو دھکا لگے۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے راستہ نہ ہو تو صبر کرو آہستہ چلو یا ٹھہر جاؤ کہ راستہ صاف ہو جائے۔ دوسروں کو دھکے دے کر آگے نکلنا بڑی بدتمیزی ہے۔ یہاں تک احتیاط کرنا چاہیے کہ دھکا تو درکنار تمہارا جسم بھی کسی دوسرے کو چھونے نہ پائے۔ چلتے چلتے اس طرح ٹک کر ہرگز نہ کھڑے ہو کہ راستہ رک جائے۔ راستہ میں چیخنا اور غل چمانا برا ہے۔ اگر کوئی شخص آگے جا رہا ہو تو پیچھے سے چیخ کر اس کو آواز نہ دو۔ بعض آدمی چلتے چلتے راستے ہی میں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ بہت ہی بُری عادت ہے بات ہی کرنا ہو تو راستہ سے ایک طرف ہٹ کر کرو۔ جب دو آدمی اس طرح باتیں کر رہے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر ہرگز ان کے پاس کھڑے نہ ہو اور ان کی باتیں سننے کی ہرگز کوشش نہ کرو۔ بسوں میں سوار ہونے اور ریل وغیرہ کے ٹکٹ خریدنے کے لئے ہمیشہ قطار میں کھڑے ہو اور نمبر آنے پر سوار ہو یا ٹکٹ خریدو۔ دوسروں کو دھکے دے کر آگے نکلنا ان کا حق مارنا ہے۔ مہذب لوگ ایسا نہیں کرتے۔ مسافروں میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے عورتوں اور بچوں اور پھر بوڑھوں کا حق ہے۔ ان کو ہر طرح کی سہولت بہم پہنچاؤ۔ بسوں اور ریلوں میں بیٹھتے وقت بھی نمبر کا خیال رکھو۔ بیٹھ جانے کے بعد بھی اس بات کی احتیاط رکھو کہ تمہاری کہنی، ہاتھ یا پاؤں سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ بعض آدمی اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اگلی سیٹ کے تکیے پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں جو دوسروں کے چھتا ہے اور وہ شریف آدمی خاموش بیٹھا تکلیف اٹھاتا رہتا ہے۔ منہ سے کچھ نہیں کہتا۔ وہ جانتا ہے کہ جس احمق کو بیٹھنے کی بھی تمیز نہیں اس سے اگر کچھ کہا تو لڑائی ہوگی۔ بسوں اور ریلوں میں بحث مباحثہ کرنا اچھا نہیں اس سے اکثر بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اکثر آدمی سارے راستے لیکچر دیتے یا بزم خود و عطا فرماتے رہتے ہیں۔ تالو سے زبان ہی نہیں لگتی۔ یہ لوگ اپنی لیاقت جتاتے ہیں مگر اتنا نہیں سمجھتے کہ بہت سے ہم سفروں کو ان کی آواز بری لگ رہی ہے یا کسی کو نیند میں خلل آ رہا ہے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ مناسب طور پر بولنے اور ایسی باتیں کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں جن سے

دوسروں کا دل خوش ہو اور راستہ لطف سے کٹے۔ ریلوں کے اندر اور سٹیشنوں پر اگر کوئی ہم سفر کھانے کی کوئی چیز دے تو فوراً نہ کھا لو بلکہ خوب احتیاط سے جانچ کر لو کہ دینے والا شریف آدمی ہے یا نہیں کیونکہ اکثر بد معاش کھانے میں زہریا بے ہوشی کی دوائیں ملا کر لوٹ لیتے ہیں۔ ہر شریف انسان کا فرض ہے کہ زمانہ درجہ برابر میں ہو تو رات کے وقت اس کا خیال رکھے کیونکہ اکثر چور ڈاکو زائد درجے میں گھس کر عورتوں کو لوٹ لیتے ہیں۔

خرید و فروخت

سودا خریدنا بھی ایک فن ہے۔ جو لوگ اس فن کو جانتے ہیں ان کے گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اپنے گھر کا سودا خود خریدنا کوئی عیب نہیں ہے۔ تمام صحابہ کبار بلکہ سرور عالم ﷺ اپنے گھر کا سودا خود خریدتے تھے۔ سودا خریدتے رہنے سے بری بھلی چیز کی پہچان ہو جاتی ہے اور بری چیز گھر میں نہیں آنے پاتی۔ سودا کئی دکانوں پر دیکھ کر اور ہر جگہ سے قیمت پوچھ لینے کے بعد خریدنا چاہئے۔ تجربہ کے بعد کسی ایک دکاندار پر اعتبار ہو جائے تو مستقلاً اسی سے خریدتے رہنے میں بھی کوئی حرج نہیں بلکہ یہ کچھ اچھا ہی ہے۔ نوکر بہت بے پروائی سے سودا خریدتے ہیں اور اکثر بد بیانی بھی کرتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو کوئی چیز فرض نہ لی جائے۔ اس میں دام بھی زیادہ جاتے ہیں چیز بھی اچھی اور پوری نہیں ملتی۔ جب کسی دکان پر جاؤ تو جو خریدار پہلے سے کھڑے ہوں ان کی حق تلفی نہ کرو، پہلے انہیں خریدنے دو۔ بھینڑ زیادہ ہو تو قطار بناؤ۔ دکاندار کے ساتھ سختی سے پیش نہ آؤ۔ سودا نہ بنے تو آہستہ سے چل دو اور کوئی اور دکان دیکھو۔

دکاندار کو چاہئے کہ گاہکوں کے ساتھ انتہائی خوش اخلاقی اور عزت سے پیش آئے اور خوب سمجھ لے کہ اللہ نے انہیں کو اس کی روزی کا وسیلہ بنایا ہے۔ اگر وہ دو باتیں سخت بھی کہہ دیں تو نرمی سے جواب دے۔ مسلمان دکاندار اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے بہت ہی بدنام ہیں۔ یہ قوم کے دامن پر بھی کلنگ کا دھبہ ہے۔ اگر کوئی گاہک ان کی بتائی ہوئی قیمت سے کم دام لگاتا ہے تو چراغ پا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ جاؤ جیب میں دمڑے بھی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک زمانے میں دہلی کے مسلمان جوتے والے اپنی بد تمیزی کے لئے بہت مشہور تھے۔ چنانچہ ہمارا چشم دید واقعہ ہے کہ ایک نہایت معزز اور سن رسیدہ صاحب ایک دکان پر تشریف لائے۔ دو چار جوڑے دیکھنے کے بعد ایک جوڑے کی قیمت پوچھی۔ دکاندار نے کہا پچیس روپیہ۔ وہ خاموش ہو گئے اور چلنے کا ارادہ کیا دکاندار نے کہا آپ بھی تو فرمائیں کیا دیں گے۔ خریدار نے جواب دیا میری رائے میں تو چند روپیہ کا ہے۔ اس پر نامعقول دکاندار نے دوسری طرف منہ پھیر کر کہا لیجئے میں نے منہ پھیر لیا ہے آپ ویسے ہی اٹھا کر لے

جائیے۔ وہ بے چارے کوئی پردہ سی تھے اس قدر خفیف ہوئے کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا اور چلے گئے۔ بھلا وہ یا ان کا کوئی دوست اس دکان پر پھر کبھی کیوں آیا ہوگا۔ ایسے بد تمیز دکاندار اپنی تجارت کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں گو محسوس نہیں ہوتا۔ دہلی کے جوتے والوں کی اس بد تمیزی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مقابل ہندو جوتے والوں کی کئی دکانیں کھل گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کاروبار چمک گیا اور پرانے مسلمان جوتے والوں کا کام ٹھپ ہو گیا۔ مسلمان دکانداروں کی ایسی بے ہودگیاں ہر روز ہر جگہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ کہاں تک بیان کیا جائے۔

کسبِ معاش

کسبِ معاش کے عام بڑے ذرائع چار ہیں۔ زراعت، تجارت، صنعت و حرفت اور ملازمت۔ ان میں سے ہر ایک کا مختصر بیان الگ الگ سنیے۔

زراعت

انسانی معاش کا سارا انحصار زمین کی پیداوار پر ہے۔ اس لئے جہاں تک کسبِ معاش کا تعلق ہے زرعی زمینوں کی نگہداشت کرنا، شجر زمینوں کو توڑ کر زرعی بنانا انسان کا اذلیلین فرض ہے اور کاشتکاری سب سے معزز اور اہم پیشہ ہے۔ کسانوں اور کاشتکاروں کو موٹے جھوٹے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھ کر حقیر نہیں سمجھنا چاہئے۔ وہ تمہارے لئے غلہ حاصل کرنے کے لئے خود تکلیفیں اٹھا کر تمہیں بھوکا مرنے سے بچاتا ہے۔

زمینوں کی کاشت کے لئے ابھی تک تقریباً ساری دنیا میں زمینداری کا طریقہ جاری تھا اور اکثر ملکوں میں اب تک رائج ہے یعنی ہزاروں ایکڑ زمین کسی ایک شخص کی ملکیت ہوتی ہے جس سے وہ چھوٹے چھوٹے گلوے غریب کسانوں کو کاشت کے لئے دے کر خود بغیر محنت کے ان سے معقول لگان وصول کرتا ہے اور حکومت کو نام نہاد مال گزاری دیتا رہتا ہے۔ یہ طریقہ ملک کی زرعی ترقی اور خوش حالی کے لئے بہت مضر رساں ثابت ہوا ہے۔ کیونکہ اس طرح ملکی دولت کا بڑا حصہ صرف چند آدمیوں کے قبضہ میں چلا جاتا ہے اور آبادی کی کثیر تعداد مفلوک الحال ہو جاتی ہے۔ اس لئے کئی ملکوں نے اس طریقہ زمینداری کو ختم کر کے تمام زمین کو قومی ملکیت قرار دے دیا ہے اور کاشت کا محض مزدور کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں بھی اس طریقہ کو رائج کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ ہماری رائے میں یہ طریقہ بھی کامیاب نہیں رہے گا۔ اس میں دو نقص ہیں۔ ایک تو حکومت کے عمال جن کا واسطہ کاشتکاروں سے پڑتا ہے عام طور پر مُتدین نہیں ہوتے۔ وہ کاشتکاروں پر

زمینداروں سے بھی زیادہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ دوسرے کاشتکار یہ سمجھ کر کہ میں تو صرف مزدور ہوں۔ زمین کی نگہداشت اور زراعت کی ترقی میں خاطر خواہ دلچسپی نہیں لیتا۔ اس لئے سب سے اچھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ زمین خود کاشت کریں ان کو ان کے کنبے کے افراد کی تعداد کے لحاظ سے زمین کسی لمبی مدت کے لئے ٹھیکے پر یا بطور ملکیت دوام دے دی جائے لیکن شرط یہ رکھی جائے کہ اگر کسی وقت کنبہ کے افراد کی تعداد کافی کم یا زیادہ ہوگی تو اسی نسبت سے زمین کی مقدار کم یا زیادہ کر دی جائے گی۔ کاشتکار کو اس کام میں سہولت اور مدد بہم پہنچانا حکومت کا فرض ہے۔ محکمہ زراعت اور محکمہ انہار کا فرض ہے کہ وہ ہر کاشت کار کو نئے قسم کے ہل، ٹریکٹر، سائٹیفک کھاد، کیڑوں کو مارنے والی دوائیں، عمدہ قسم کے بیج بہم پہنچائیں اور آبپاشی کا آسان اور کافی بندوبست کریں۔ اس بات کا بھی بندوبست ہونا چاہیے کہ کاشتکار غلہ اور جنس اٹھانے کے بعد مہنگا بیجے کے خیال سے ایک غیر مناسب عرصہ تک ذخیروں میں چھپا کر نہ رکھنے پائیں۔

تجارت

تجارت کسب معاش کا بہت ہی معزز اور منفعت بخش ذریعہ ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس قوم نے تجارت میں ترقی کی وہ آخر کار تخت حکومت پر بھی قابض ہو گئی۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ دس حصوں میں سے نو حصہ رزق تجارت میں ہے۔ اس لئے تم تجارت ضرور کرو۔ تجارت میں سفر لازمی ہے اور سفر ہی سے انسان کو عقل، تجربہ اور دنیا کے حالات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ تجارت ہی کی وجہ سے طرح طرح کی آرام دہ اور تیز رفتار سواریاں ایجاد ہوئیں۔ مسلمان جب تک تجارت پر قابض رہے دنیا پر ان کا سیاسی اقتدار بھی قائم رہا۔ جب تجارت غیروں کے ہاتھ میں گئی سیاسی اقتدار و طاقت بلکہ حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ہندوؤں نے ہمارے دیکھتے دیکھتے پچاس برس میں وہ ترقی تجارت میں کی کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال باہر کیا۔ مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ پھر ترقی کریں تو تجارت کے میدان پر قبضہ کئے بغیر چارہ نہیں۔

تجارت میں کامیابی کے لئے عقل، سمجھ بوجھ، دیانتداری اور سخت محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے تاجر اپنی اور دوسرے ملکوں کی منڈیوں کی ضروریات اور دیگر حالات سے پوری طرح باخبر رہیں۔ معاملہ کی صداقت اور خوش اخلاقی کا معیار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ جو آدمی ایک مرتبہ تم سے معاملہ طے کر لے پھر کہیں اور نہ جانے پائے۔ تجارت میں بے ایمانی اور دغا بازی کرنے والے اپنی قوم اور ملک کے دشمن ہیں۔ تجارت تو ساکھ پر چلتی ہے اور ساکھ محض معاملات کی صداقت سے حاصل ہو سکتی ہے۔

مسلمان جو تین سو برس پہلے دنیا کے بہترین تاجر تھے اب تجارت کے میدان میں طفل مکتب ہیں۔ ان کا اصول یہ ہے کہ ایک ہی خریدار سے اتنا نفع لے لو کہ دن بھر کے لئے کھانے کو مل جائے، یہ اصول غلط ہے۔ تجارت میں کامیابی کا اصول یہ ہے کہ نفع کم لو، مال اچھا دو تا کہ خریداروں کا حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے۔ چور بازاری کرنے والے ملک اور قوم کو تباہ کرتے ہیں۔ مگر اس میں ان کا اتنا قصور نہیں جتنا ان حکومتوں کا ہے جو ان تباہ کاروں کو سخت اور عبرت انگیز سزائیں نہیں دیتیں۔

صنعت و حرفت

یہ کسب معاش کا تیسرا ذریعہ ہے اور جہاں تک کسب زر کا تعلق ہے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صنعت و حرفت کیا ہے؟۔ خام اشیاء کو کارآمد شکل میں تبدیل کر کے ان کی تجارت کرنا مثلاً کپاس سے کپڑا، دھاتوں سے برتن، زیور، آلات اور تھیار اور مشینیں وغیرہ تیار کرنا۔ اس طرح بعض چیزوں پر ایک روپیہ خرچ کر کے ایک ایک ہزار تک کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یورپ وامریکہ میں موجودہ ترقی کی اصل وجہ ہی صنعت و حرفت ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ایشیائی ممالک سے کروڑوں روپیہ کا سامان مثلاً کپڑا، قالین، شالیں، طلائی اور نقرئی زیور، ظروف اور شیشہ اور چینی کے برتن یورپ میں لے جا کر بیچے جاتے تھے اور وہاں سے ان کے بدلے سونا اور چاندی ایشیا میں آتا تھا لیکن جب سے یورپ میں مشینیں ایجاد ہوئیں اور یہی چیزیں وہاں زیادہ صفائی کے ساتھ زیادہ مقدار اور کم قیمت میں تیار ہونے لگیں تجارت کا رخ پلٹ گیا۔ غریب یورپ دولت مند اور امیر ایشیا مفلوک الحال ہو گیا۔ اسی کی وجہ سے طرح طرح کی ایجادیں ہوئیں اور ساری دنیا میں نہ صرف مشینی و اقتصادی بلکہ معاشرتی اور اخلاقی انقلاب برپا ہو گیا۔ صنعتی ترقی سے یورپ کو جہاں بہت سے فائدے ہوئے وہاں یہ نقصان بھی ہوا کہ ملک میں روپیہ کی تقسیم کا جو معیار مدت سے چلا آ رہا تھا اور جس میں زمیندار پہلے ہی غریب مزارعین کا خون چوس چوس کر موٹے ہو رہے تھے وہ اور بھی غیر متناسب ہو گیا۔ اس طرح سرمایہ داروں اور مزدوروں کے طبقات خاص طور پر نمایاں ہوئے۔ مارکسزم کے فلسفہ نے زور پکڑا اور مذہب اشتراکیت وجود میں آیا۔ یہ مذہب خدا اور الہام کا منکر ہے۔ اس کا صرف یہی ایک اصول ہے کہ دنیا کا ہر آدمی پیدا نشأ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے کھانے اور پہننے کو روٹی کپڑا، رہنے کو مکان اور جنسی بیاس بچھانے کو عورت ملے۔ یہ اصول اس قدر سچا سادہ اور دلنریب ہے کہ کوئی تنفس بھی اس کی اہمیت اور حقانیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ مگر اس اصول کو عملی طور پر بروئے کار لانے کے لئے قانون یہ ہے کہ ملک کی ساری زمین اور ہر قسم کی خام

اور صنعتی پیداوار قوم یا بالفاظ صحیح گورنمنٹ کی ملکیت ہو اور آمدنی کو تمام باشندوں پر ان کے کاموں کے مطابق مناسب اور متناسب طور پر تقسیم کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس مذہب کی بنیاد صرف مادی اشیاء پر ہے اور جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے اس مذہب کے پاس کوئی سرمایہ اپنا ذاتی نہیں۔ ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لئے جتنے بھی اخلاقی تعینات ہیں، وہ سب دوسرے الہامی مذاہب سے مستعار لئے گئے ہیں اور ان کو منوانے کے لئے حکومت کے ہاتھ میں صرف ڈنڈے کی طاقت ہے۔ جس کا مشاہدہ اشتراکی ممالک میں ہر ہر منٹ پر ہوتا رہتا ہے۔ ان ممالک میں تمام آبادی اشتراکی نہیں ہے۔ صرف اشتراکی پارٹیاں ہیں جو سر حکومت ہیں اور وہ مجبور ہیں کہ اپنی ہستی کو برقرار رکھنے کے لئے ڈنڈا استعمال کرتی رہیں۔ چونکہ اس مذہب کے پاس اپنا کوئی اخلاقی سرمایہ نہیں اس لئے جب تک ان پارٹیوں کے ڈنڈے میں طاقت ہے یہ مذہب قائم رہے گا جس دن یہ طاقت ختم ہوئی یہ مذہب بھی ختم ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس مذہب کے قواعد و قوانین پر ایک اشتراکی صرف فوج پولیس اور جاسوسوں کے خوف سے عمل کرتا ہے۔ برخلاف ازیں الہامی مذاہب میں ہر شخص کو ایک ایسی ذات کا تھوڑا بہت یقین ضرور ہوتا ہے جو اگر چہ دکھائی نہیں دیتی لیکن ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور جو انسان کو اس کی تمام برائیوں اور بھلائیوں کی جزا و سزا دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان مذاہب کے ماننے والے ایسے مواقع پر بھی اکثر و بیشتر جرم و گناہ کے ارتکاب سے مجتنب رہ سکتے ہیں جہاں پولیس یا سول کا کوئی آدمی بھی موجود نہیں ہوتا۔ مذہب اشتراکیت میں کوئی ایسا بنیادی اور اصولی عقیدہ موجود نہیں ہے جو انسان کو ان مواقع پر بھی جرم اور گناہ سے بچا سکے۔ یہ اس مذہب میں بڑی خامی اور کمزوری ہے اور یہ کسی طرح بھی قیام امن اور ترقی تمدن میں دوسرے مذاہب کا مقابلہ زیادہ عرصہ تک نہیں کر سکے گا۔

اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ مذہب اس قدر تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے؟ اس کی تین وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ اس مذہب کا واحد اصول اس قدر سادہ سچا اور دلچسپ ہے کہ عوام کو سمجھانے کے لئے کسی علمی یا فلسفی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ روٹی کپڑے مکان اور عورت کی ہر شخص کو ضرورت ہے اور وہ ان الفاظ سے محور ہو کر اس طرف راغب ہو جاتا ہے۔

دوسرے یہ کہ اس اصول کی تبلیغ کے لئے چونکہ کسی خاص علمی قابلیت کی ضرورت نہیں، ہر معمولی پڑھا لکھا آدمی جو لیڈر بننا اور پیسے کمانا چاہتا ہے جاہل اور بے پڑھے لکھے مزدوروں اور غریب عوام میں آسانی سے اس کی تبلیغ کر سکتا ہے۔

تیسرے یہ کہ اس مذہب کی تبلیغ کے لئے صاحب رسوخ اور پڑھے لکھے لوگوں کو اشتراکی خزانوں سے خفیہ طور پر پیش قرار و وظیفے ملتے ہیں۔ روٹی کپڑے مکان اور عورت کا بندوبست اور یہ ضمانت کہ یہ چیزیں ہر شخص کو میسر آ سکیں کون سے مذہب میں نہیں ہے لیکن مصیبت اور دقت صرف یہ ہے کہ ان مذاہب کے ماننے والے اپنے مذہبی اصولوں پر عمل ہی نہیں کرتے۔ مذہب اسلام، الہامی مذاہب میں سب سے آخری اور مکمل ترین مذہب ہے۔ اس میں دولت کی تقسیم کے جو اصول اور طریقے مقرر ہیں مثلاً سود نہ لینا، زکوٰۃ نکالنا، خیرات دینا، غریب پڑوسیوں کی مدد کرنا اور ضرورت مندوں کی مدد کے لئے بیت المال قائم کرنا وغیرہ۔ اگر مسلمان ان اصولوں پر کار بند ہو جائیں تو اشتراکیت اس لحاظ سے مذہب اسلام کے پاسنگ بھی تو نہیں ہے لیکن باوجود ان تمام باتوں کے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ موجودہ زمانہ میں صنعتی ترقی کی وجہ سے سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان تقسیم زر کا جو غیر متوازن معیار پیدا ہو گیا ہے اس کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے ملکوں کو کمیونزم سے محفوظ رکھنے کے لئے مزدوروں کو، بہت کافی مراعات دی ہیں اور وہ بہت کچھ مفید ثابت ہوئی ہیں۔ اسلامی ممالک اگر اس لادینی تحریک سے بچنا چاہتے ہیں تو سمجھدار مسلمانوں اور اسلامی حکومتوں کو بھی جلد از جلد اپنے مذہبی اصولوں پر عمل شروع کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے قانون بھی نافذ کر دینے چاہئیں کہ سرمایہ داروں اور مزدوروں و ملازمین کے درمیان منافع کی تقسیم مناسب اور متناسب ہو جائے اور فیکٹریوں اور فرموں کے مالک اپنے ملازموں اور مزدوروں سے عزت اور انسانیت کا برتاؤ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یاد رکھیے سرمایہ دار چند ہوتے ہیں لیکن مزدور اور ملازمین ملت کا سواد اعظم ہیں۔ جس قوم کی اکثریت مطمئن اور خوشحال نہ ہوگی وہ قوم صحیح معنوں میں ہرگز ترقی نہیں کر سکتی۔

ملازمت

کسبِ معاش کا چوتھا ذریعہ ملازمت ہے۔ یہاں ہماری مراد شاگرد پیشہ ملازمین سے نہیں بلکہ بڑی بڑی فرموں، فیکٹریوں اور خصوصاً حکومت کے ملازمین سے ہے جن میں چڑا سی اور پولیس کا انشیل سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ افسر تک سب ہی شامل ہیں۔ کسب زر کے لحاظ سے یہ پیشہ باقی تمام ذریعوں سے بہت کم درجہ کا ہے کیونکہ جو لوگ ملازمت کرتے ہوئے رشوت وغیرہ نہیں لیتے اور دوسرے ناجائز ذرائع سے پیسہ نہیں کما سکتے، وہ کبھی مال دار نہیں ہو سکتے لیکن جہاں تک قیام امن کے لئے ملکی انتظام اور عام خوشحالی کا تعلق ہے یہ پیشہ باقی تمام پیشوں سے کہیں اعلیٰ اور اہم ہے۔ جس ملک کے ملازم اچھے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوشحال اور طاقتور رہتا ہے

لیکن جس ملک کے ملازم اچھے نہیں ہوتے وہ کمزور اور تباہ ہو جاتا ہے اور بسا اوقات دشمن اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اُس وقت ان ملازمین کو عوام سے کہیں زیادہ ذلت اور رسوائی اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے ملازم پیشہ لوگوں کو ہر وقت یاد رکھنا چاہئے کہ ملک کی خوشحالی کا انحصار ان کے کام پر اور خود ان کی خوشحالی کا انحصار ملک کی ترقی اور آزادی پر ہے۔

کسی ملک کا قانون کتنا ہی اچھا ہو اگر اس ملک کے وزراء اور حکام دیانتدار نہ ہوں اور فرض شناس نہ ہوں گے تو ملک کو فائدے کی بجائے ہمیشہ نقصان ہی پہنچے گا۔ قیام امن و انتظام کی خاص ذمہ داری اگرچہ پولیس عدالتوں اور امور انتظامیہ کے انچارج افسروں ہی پر عائد ہوتی ہے لیکن دوسرے محکموں کے افسر بھی اس سے مستثنیٰ یا بری الذمہ قرار نہیں دیئے جاسکتے اس لئے تمام حکام اور افسروں کو تین باتوں کی خاص طور سے پابندی کرنی چاہئے۔

اڈل یہ کہ اپنے فرائض منصبی کو دیانت، محنت، انصاف اور عجلت سے انجام دیں اور دیکھیں کہ ان کے ماتحت بھی اس بارے میں ان کی پوری تقلید کرتے ہیں یا نہیں۔ دوسرے یہ کہ اہل معاملہ کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کریں۔ اگر کوئی شخص مجرم ثابت بھی ہو جائے تب بھی افسران متعلقہ کو اس کے ساتھ بدکلامی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمیشہ خوش خلقی سے پیش آئیں اور اپنے رشتہ داروں یا خوشامدی ماتحتوں کی وجہ سے ان کا حق کبھی نہ ماریں اور ان کی ترقی میں کبھی روٹے نہ اٹکائیں۔ بلکہ ہمیشہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ جن ماتحتوں کے ساتھ دفاتروں میں اچھا سلوک نہیں ہوتا وہ دل شکستہ ہو جاتے ہیں اور دفتر کا کام اطمینان اور خوش اسلوبی سے نہیں کر سکتے۔ متمدن اقوام کے افسر اپنے ماتحتوں کے ساتھ بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔

دفاتروں میں وہ اپنا رویہ ایسا رکھتے ہیں کہ ڈسپلن اور کارکردگی پر اثر نہ پڑنے پائے لیکن دفتر سے باہر نکل کر وہ ماتحتوں کے ساتھ اس قدر بے تکلفی سے ملتے ہیں کہ افسری اور ماتحتی کا فرق ہی نہیں رہتا۔ اسی کا نام روشن خیالی اور تہذیب ہے۔ ملازموں میں یہ باتیں ضرور ہونی چاہئیں۔

۱- قابلیت: یعنی جو کام ان کے سپرد ہو اس میں خوب ماہر ہوں۔

۲- خود اعتمادی: انہیں اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ ہم یہ کام اچھی طرح کر سکتے ہیں۔

۳- قوت برداشت: کام زیادہ یا مشکل ہو تو گھبرانہ جائیں ختم کر کے ہی دم لیں۔

۴- احساس ذمہ داری: کام کتنا ہی معمولی ہو اس کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھیں اور پوری ذمہ داری سے انجام دیں۔

۵- جدت: کام کے سلسلہ میں اگر کوئی نئی بات پیش آ جائے جس کی نہ تو کوئی مثال موجود ہو نہ کوئی ہدایت کرنے والا تو خود اپنی عقل اور تجربہ سے مناسب طریقے سے سوچ کر اس کو انجام دے سکیں۔

۶- تعاون: اپنے اور دوسرے دفاتروں کے تمام اہل کاروں کے ساتھ مل کر کام کریں اور ہر شخص کو ہر قسم کی دفتری مدد اور معلومات بہم پہنچانے کو ہر وقت تیار رہیں تاکہ سب کے کام میں آسانیاں پیدا ہوں۔

۷- ضبط و نظم: دفتر کے مقررہ قاعدوں اور طریقوں کی ہر لحاظ سے پوری پابندی کریں۔

۸- جذبہ خدمت و امداد: ان کے دل و دماغ پر ہمیشہ یہ جذبہ غالب رہے کہ ہم عوام کے حاکم نہیں بلکہ خادم ہیں اور اسی خدمت کی روزی کھاتے ہیں۔ اہل معاملہ کو ہر وقت ہر قسم کی سہولتیں اور مدد پہنچائیں، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، ان کا کام جلد از جلد انجام دیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ عوام جس قدر خوش رہیں گے، ملک کے امن و طاقت میں اضافہ ہوگا۔ عوام جس قدر بددل ہوں گے ملک میں فساد و فتنہ ہوگا اور ملکی طاقت کمزور ہو جائے گی۔

۹- دیانت داری: دیانتداری سے صرف یہی مراد نہیں کہ وہ غبن، رشوت، سفارش، اقربا پروری، جانبداری اور پارٹی بازی سے محترز رہیں بلکہ اور بھی کئی باتیں مراد ہیں۔ مثلاً ہر کام کو قاعدے قانون کے مطابق پورے شوق اور انتہاک سے انجام دیں، ٹالیں اور ٹرخائیں نہیں، حتیٰ کہ جب کوئی افسر یا نگران موجود نہ ہو تب بھی سارا کام اسی خوبی اور تندہی سے کریں جیسا کہ افسر کی موجودگی میں کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس بارے میں اللہ سے ڈریں۔ اپنی تنخواہ کو حلال کر کے کھائیں اور اپنے آپ کو پہلے اللہ اور پھر افسروں کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ سمجھیں۔

ہمارے دفاتر میں صرف بیس پچیس فیصد آدمی ایسے ہوں گے جو اپنے کام کو ایک مقدس فرض سمجھتے اور دفتر کا سارا وقت کام میں صرف کرتے ہوں۔ زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو زیادہ وقت چائے پینے، اخبارات پڑھنے، سیاست لڑانے اور اپنے نجی ملاقاتیوں سے خوش گپیاں اڑانے میں گزارتے ہیں۔ اسی لئے جو کام ہفتہ

دو ہفتہ میں ہو سکتا ہے، وہ مہینوں بلکہ برسوں میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ تو احساس فرض کا فقدان ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دفتر کے سٹاف میں کئی ایک اہل کار افسروں کے رشتہ دار خوشامدی اور دوسری ناگفتہ بہ وجوہات سے ان کے سر چڑھے ہوتے ہیں۔ اس لئے کام نہیں کرتے اور ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی کام چور ہو جاتے ہیں۔ ہماری رائے میں ان بدعنوانیوں کو دور کرنے کی صرف دو تدابیر ہیں۔ ایک سخت ٹریننگ دوسری سخت سزا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جو آدمی جس کام کے لئے ملازم رکھا جائے، اسے کام کا چارج دینے سے پہلے کچھ مدت تک دو باتوں کی تربیت دی جائے۔ ایک تو اس کام کی جو اس سے لینا ہے۔ دوسرے اس دفتر کی کردار کی جو اس میں پیدا کرنا ہے اور جس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے۔ تربیت کے اختتام پر ہر ایک امیدوار کا امتحان لیا جائے اور صرف اسی کو ملازم رکھا جائے جو امتحان میں کامیاب ہو۔ اب اگر دوران ملازمت میں کبھی بھی اس سے کوئی حرکت دفتر کی کردار کے خلاف سرزد ہو تو اسے سخت سزا دی جائے۔ یہ تربیت تمام ملازموں کو نہ دی جاسکے تو کم از کم افسروں کو تو ضرور ہی دینی چاہئے کیونکہ دفتری کاروبار کو خوش اُسلوبی سے چلانے کے اصل ذمہ دار وہی ہوتے ہیں۔ دفاتر ہوں یا عدالتیں یہ سب صرف اس لئے ہیں کہ اہل معاملہ کی کار براری اور مظلوموں کی دادرسی کریں۔ اس لحاظ سے ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ ہر آدمی ضرورت پڑنے پر بہ خوشی وہاں جاتا لیکن سوائے عادی مقدمہ بازوں کے اور کوئی شریف آدمی سوائے اشد مجبوری کے کسی حالت میں وہاں جانا پسند نہیں کرتا بلکہ نقصان اٹھالینے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عام طور پر ان دفاتر اور عدالتوں کے اہل کار اہل معاملہ کو بہت ہی تنگ کرتے ہیں اور نہایت سختی اور رعونت سے پیش آتے ہیں۔ پولیس کا حال اس سے بھی بدتر ہے۔ عوام کے جان و مال کی حفاظت اور قیام امن کی جتنی ذمہ داری پولیس پر ہے اور کسی پر بھی نہیں۔ اس لئے پولیس والوں کا سلوک عوام کے ساتھ اس قدر ہمدردانہ اور شریفانہ ہونا چاہئے کہ پولیس والے کو دیکھتے ہی انسان کے دل میں اطمینان اور اس کی طرف سے محبت اور عزت کا جذبہ پیدا ہو اور وہ کہے کہ ”لووہ آ گیا میرا محافظ اب مجھے کسی کا ڈر نہیں“ لیکن افسوس کہ معاملہ بالکل ہی برعکس ہے۔ پولیس والے کی شکل نظر آئی اور خیال ہوا کہ اللہ ہی خیر کرے۔ خدا جانے کیا مصیبت آنے والی ہے۔ بہت سے آدمی جو آنکھوں سے کوئی جرم ہوتا ہوا دیکھتے اور مجرموں کی سراغ رسانی میں پولیس کو پیش بہا مدد دے سکتے ہیں صرف اس لئے پولیس کو اطلاع نہیں دیتے کہ کہیں خود مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ یہ صورت حال بہت ہی افسوسناک ہے۔ پاکستان کی جو حکومت دفاتر اور پولیس کی اصلاح میں کامیاب ہوگی اس کا نام قیامت تک تاریخ پاکستان

میں سنہری حرفوں سے لکھا ہے گا۔

اب ہم اخلاق کے چند ضروری محاسن اور معائب بیان کرتے ہیں۔

محاسن اور معائب اخلاق

تمام محاسن اور معائب اخلاق کا مفصل بیان تو ممکن نہیں علاوہ ازیں بہت سی باتوں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس لئے یہاں صرف وہ معدودے چند باتیں لکھی جاتی ہیں۔ جو اجتماعی حیثیت سے قوم کی تعمیر یا تخریب کا باعث ہوتی ہیں لیکن ان محاسن و معائب کا بیان کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ پھر یاد دلانا ضروری سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا اخلاق قرآنی معیار سے بہت ہی زیادہ گرا ہوا ہے اور جب تک وہ اخلاق میں معیاری ترقی نہ کریں گے دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے مقابلہ میں ہرگز سر بلند نہیں ہو سکتے۔ محاسن اخلاق پر عمل کرنا ہی عین شرافت ہے۔ شرافت کا معیار اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ تقویٰ ہے یعنی جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے اتنا ہی وہ شریف ہے، لیکن آج کل مسلمانوں نے شرافت کا معیار یورپ کی تقلید میں یہ قرار دے لیا ہے کہ جو جتنا زیادہ مال دار یا بڑا افسر ہے اتنا ہی وہ شریف ہے۔ اس تخیل سے معاشرہ میں بڑی خرابیاں اور کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ اس نظر یہ کونو رابد لئے کی ضرورت ہے۔

احسان

یہ وہی چیز ہے جس کو آج کل کی متمدن قومیں میوچول ہیلپ (Mutual Help) یعنی امداد باہمی کہتی ہیں۔ قرآن میں جب احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تم بھی اس کے ساتھ احسان کرو۔ مطلب یہ ہے کہ احسان کا سلسلہ ہر وقت جاری رہے۔ احسان جماعت کی شیرازہ بندی اور اتحاد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ احسان کے معنی صرف نیکی کے ہیں اور نیکی یہ ہے کہ جس شخص سے بھی کی جائے اس کو کچھ فائدہ یا کم از کم راحت و خوشی حاصل ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس جماعت کے سارے افراد ایک دوسرے کو ہر وقت آرام اور فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگے رہیں گے اس جماعت کے ہر فرد کو حصہ رسدی کچھ نہ کچھ آرام اور فائدہ ضرور پہنچتا رہے گا۔ اس طرح لوگوں کی بہت سی مشکلات میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، زندگی خوشگوار بن جائے گی، تنگیاں کشادگی سے بدل جائیں گی، جینے میں لطف آنے لگے گا اور یہ دنیا جیتے جی جنت بن جائے گی۔ اس سے دماغ میں سکون و یکسوئی پیدا ہوگی۔ عمل کی قوت

بڑھے گی۔ ہر کام خوش اسلوبی سے کیا جاسکے گا اور ہر قدم پر کامیابی قدم چومے گی لیکن بد نصیبی تو یہ ہے کہ آج کل احسان کو گالی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ زبان میں بہت سے محاورے بھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ احسان کوئی بہت بری چیز ہے۔ مثلاً ”میری جوتی اس کا احسان اٹھاتی ہے“ ”میں تیرے باپ کا احسان مند نہیں ہوں“ ”کسی کا احسان اٹھانے سے تو مر جانا بہتر ہے“ حتیٰ کہ شاعر تک کہنے لگے کہ۔

احسان ناخدا کا اٹھائے میری بلا

کشتی خدا پہ چھوڑ دوں لنگر کو توڑ دوں

احسان کی برائی کا خیال اس لئے پیدا ہوا کہ احسان کرنے والے احسان کر کے جتانے اور طعنے دینے لگے حالانکہ یہ نہایت ہی کمینہ بین کی بات ہے۔ اس طرح تو محبت و اخوت کی بجائے نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور بجائے فائدے کے نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے اگر وہ اپنے محسنوں کے شکر گزار نہ ہوں اور احسان کے بدلے میں احسان نہ کریں تو وہ بھی سخت برائی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ احسان کرنے اور احسان اٹھانے والے دونوں کے دل میں محبت کا جذبہ کارفرما ہونا چاہیے ورنہ قوم میں اتفاق و اتحاد کے بجائے نا اتفاقی پیدا ہوگی اور فساد پھیلے گا۔ خوب سمجھ لو کہ جس قوم کے افراد صدق و خلوص سے ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے وہ قوم جانوروں سے بھی بدتر ہے اور کسی حالت میں بھی تباہی سے نہیں بچ سکتی۔ یہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ نیکی صرف نیکی کے لئے کی جائے کسی معاوضے یا بدلے کے لئے نہ کی جائے ورنہ وہ دکانداری بن جائے گی اور بجائے فائدے کے نقصان پہنچائے گی۔

ہم نے ایک انگلش میگزین میں ایک کتے کا سچا واقعہ پڑھا جس کو مالک نے سدھایا تھا۔ مالک روز انداز کے گلے میں ایک ٹوکری لٹکا دیتا، کتا یہ ٹوکری لے کر ایک بیکری میں جاتا اور وہاں سے کچھ رول لایا کرتا تھا۔ رول تعداد میں ہمیشہ پورے ہوتے تھے۔ ایک دن ایک رول کم نکلا اور اس کے بعد کئی دن تک ایک رول کم آتا رہا۔ آخر مالک نے بیکری والے سے دریافت کیا۔ اس نے کہا میں تو ہمیشہ پورے دیتا ہوں۔ اس پر ایک دن جب کتا رول لے کر واپس جا رہا تھا مالک نے چھپ کر اس کا تعاقب کیا۔ کتا کچھ دور جانے کے بعد ٹھہر گیا۔ گلے سے ٹوکری نکال کر سڑک کے کنارے رکھی اور ایک رول نکال کر منہ میں لیا اور بھاگا۔ یہاں تک کہ ایک دیوار کے پیچھے غائب ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو منہ میں رول نہ تھا۔ کتے نے ٹوکری پھر گلے میں ڈالی اور گھر کی طرف چل دیا۔ جب وہ دور چلا گیا تو مالک دیوار کے پیچھے گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں کھنڈر میں ایک

بہت ہی کمزور اور لاغر کتیا پڑی ہوئی ہے جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ آس پاس ساتھ نوزائیدہ پلے پڑے ہوئے ہیں اور کتیا رول کھا رہی ہے۔ دیکھا آپ نے جانوروں میں بھی یہ احساس ہے کہ ضرورت کے وقت اپنے ہم جنسوں کی مدد کریں یا یوں کہئے کہ ترقی یافتہ قوموں کے کتے بھی ہم جنسوں کی مدد کرتے ہیں لیکن زوال پذیر قوموں کے آدمی بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔

دیانت

دیانت کے معنی بہت وسیع ہیں۔ دیانت سے صرف یہ مراد نہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی کوئی چیز تمہارے پاس امانت رکھے تو اس کو بچسبہ واپس کر دو۔ دیانت یہ ہے کہ جس چیز پر تمہارا حق نہیں اس کو چھوؤ تک نہیں اور کسی طرح مل جائے تو ہرگز استعمال میں نہ لاؤ۔ دیانت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے توسط سے کسی کو کوئی پیغام بھیجے تو اس طرح پہنچاؤ کہ الفاظ اور لہجہ بھی بالکل ویسا ہی رہے جو پیغام دینے والے کا تھا۔ دیانت یہ بھی ہے کہ تمام حقوق اللہ، حقوق نفسی اور حقوق العباد کو مکاھتہ، ادا کرو۔ دیانت یہ بھی ہے کہ اپنے فرائض منصبی کو پوری طرح ادا کرو۔ جتنے وقت تک کام کرنے کی تنخواہ یا اجرت ملتی ہے اُس وقت میں اپنا یا کسی اور کا کوئی کام نہ کرو۔ کام بے دلی سے نہ کرو۔ خالی وقت نہ گزارو۔ بیگار نہ ٹالو، بلکہ اس کام کو جس کی اجرت ملتی ہے پورے جوش، سرگرمی اور پوری قابلیت سے سرانجام دو۔ بعض متمدّن ممالک میں دیانت داری کا یہ حال ہے کہ علی الصبح دوہ، انڈے، مکھن، اخبار اور دیگر اشیاء بیچنے والے یہ چیزیں خریداروں کے دروازوں پر رکھ جاتے ہیں۔ کوئی دوسرا ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ غریب لوگ کسی چھوٹی سی دکان یا سبکین میں کچھ سامان تجارت سجا کر ہر چیز پر اس کی قیمت لکھ دیتے ہیں اور خود دکان کو خالی چھوڑ کر دن بھر کسی کارخانے وغیرہ میں کام کرتے ہیں۔ ضرورت مند خالی دکان پر آتے ہیں اور جو چیز لینی ہو اس کی قیمت بکس میں ڈال کر چیز لے جاتے ہیں۔ شام کو مالک دکان آ کر روپیہ نکال لیتا ہے۔ مجال ہے کہ کوئی شخص قیمت ڈالے بغیر کوئی چیز لے جائے۔ بعض اپنا بچ لوگ ایک کتا گاڑی بنا لیتے ہیں اور اس میں اخبارات یا اور ضروری چیزیں مثلاً سگریٹ وغیرہ رکھ دیتے ہیں۔ کتا سدھایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بازاروں اور محلوں میں گاڑی کو لئے پھرتا ہے۔ لوگ ضروری چیزیں لے کر قیمت بکس میں ڈال دیتے ہیں۔ سامان ختم ہو جاتا ہے تو کتا گاڑی لے کر واپس گھر پہنچ جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے ملک میں ایسا کیا جائے تو کیا حال ہو۔ پھر یہ دیکھئے کہ یہ دیانت داری ان لوگوں میں ہے جن کو مشرک و کافر کہہ کر آپ خوش ہو لیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ مسلمان ہوتے ہوئے آپ کی دیانت

داری کا کیا حال ہے اور اس معاملہ میں آپ کسی حد تک ذمہ دار اور کسی کے آگے جوابدہ ہیں؟

ایثار

ایثار وسخاوت تقریباً ایک ہی چیز ہے لیکن خیرات اور ایثار میں فرق ہے۔ خیرات یہ ہے کہ تمہارے پاس اپنی ضروریات سے جو کچھ فاضل ہے اس میں سے ضرورت مندوں کو بھی دو لیکن ایثار یہ ہے کہ جو چیز تم کو محبوب ہو اور جس کی تمہیں خود ضرورت ہو وہ چیز کسی دوسرے ضرورت مند کو دے دو یعنی اپنی ضرورت پر دوسروں کی حاجت براری کو مقدم سمجھو۔ ایثار ایک بہت ہی بلند مرتبہ صفات میں سے ہے اور ایثار کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی عزیز ہوتا ہے۔ قوم کی جہالت اور گراؤ کی وجہ سے کئی صدیوں سے ایثار کے صحیح معنے بھی لوگوں کو معلوم نہیں رہے اور ایثار اگرچہ کیا بھی جاتا ہے لیکن بہت غلط جگہ اور غلط طریقے سے۔ جب سے مسلمانوں میں بے عملی اور تن آسانی عام ہوئی ہے بے شمار لوگوں نے یہ پیشہ اختیار کر لیا ہے کہ صاحب مقدرت اصحاب کے گرد اکٹھے ہو کر ان کی خوشامد اور چالوسی کرتے رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً موقع دیکھ کر اپنی محتاجی اور افلاس کا حال موثر الفاظ میں بیان کر کے ان کے جذبہ ایثار وسخاوت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس قسم کا ایثار قوم کو بجائے فائدے کے الٹا نقصان پہنچاتا ہے اور بے عمل مفت خوروں کی تعداد میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لئے ایثار صرف مستحق آدمیوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سب سے بہتر طریقہ ایثار کا یہ ہے کہ ایثار صرف اس موقع پر کیا جائے جب کہ اس سے اجتماعی فائدہ پہنچتا ہو۔ مثلاً قوم کے دو بڑے آدمی کسی ایک چیز کے حصول کے لئے مقابلہ کر رہے ہوں اور اس قوم کی دو جماعتوں میں دشمنی اور تفرقہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو ان میں سے ایک اپنے دعوے سے بخوشی دست کش ہو جائے تاکہ قوم میں پھوٹ نہ پڑنے پائے۔ قرن اول کے مسلمانوں میں یہ بات عام تھی لیکن آج ہمارے رُعماء اس معاملے میں اپنے حریفوں کے ساتھ جس اخلاق کا ثبوت دیتے ہیں قارئین خود اچھی طرح جانتے ہیں ہم کو تو بیان کرتے ہوئے ندامت محسوس ہوتی ہے۔ مفید ایثار کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ فرض کیجئے کسی شہر میں ایک کالج یا سکول وغیرہ کھولنا ہے لیکن اس کے لئے مکان نہیں ملتا۔ اب کسی رئیس کے پاس ایک عالی شان اور فراخ کٹھی ہے جو اسے بے حد محبوب ہے اور وہ اس میں رہنا پسند کرتا ہے لیکن باوجود ازیں یہ کٹھی کالج یا سکول کے لئے دیدے تو یہ ایثار واقعی فائدہ مند ہے اور اللہ کی نظر میں مقبول۔ ہم نے ایسے نواب اور رئیس بچشم خود دیکھے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کی کسی چیز کی تعریف کر دے تو پھر وہ اس چیز کو اپنے قبضہ میں رکھنا معیوب اور خلاف شان جانتے ہیں اور تعریف کرنے والے کو بخش دیتے ہیں۔ امراء کی اس عادت سے قوم میں بے انتہاء بے عملی پیدا

ہوتی ہے اور تن آسان مفت خورے ان کو بے وقوف بنا کر گل بھڑے اڑاتے ہیں۔

ایفائے عہد

قومی ترقی کے لئے ایفائے عہد بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی اور صفات حسنہ۔ قرآن میں آیا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ ط..... یعنی اے ایمان والو! اپنے اقراروں کو پورا کرو (سورہ مائدہ: ۱) اس سے بھی بڑھ کر سورہ بنی اسرائیل (آیت: ۳۴) میں ارشاد ہوا ہے: وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ۙ یعنی ”اپنے وعدے پورے کیا کرو۔ قیامت میں اس کے متعلق باز پرس کی جائے گی۔“ لیکن یہاں اللہ اور قیامت پر ایمان ہی کسے ہے جو اس حکم کی پرواہ کرے۔ ایفائے عہد بڑی بڑی باتوں ہی میں نہیں چھوٹی اور معمولی باتوں میں بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ بعض اوقات وعدہ خلافی کے نتائج بہت ہی برے ہوتے ہیں اور جس شخص سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو نہ صرف جسمانی اور روحانی اذیت بلکہ طرح طرح کا نقصان بھی پہنچتا ہے۔ کم از کم ایک واقعہ ہم کو ایسا معلوم ہے جس میں ایک شخص نے محض اس لئے خودکشی کر لی تھی کہ اس کے ایک دوست نے جو روپیہ اس کو دینے کا وعدہ کیا تھا حسب وعدہ وقت موعود پر ادا نہیں کیا۔ جس قوم کے افراد میں وعدہ خلافی کی عادت عام ہو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ وعدہ خلافی کرنے سے تو ہزار درجہ بہتر ہے کہ وعدہ کیا ہی نہ جائے۔ دوسری قومیں جن کو تم کا فر و مشرک کہہ کر خوش ہو لیتے ہو ان کے معمولی افراد بھی ایفائے عہد میں اس قدر پکے ہوتے ہیں کہ ہماری قوم کے بڑے بڑے مدعیان تقویٰ، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور زعماء بھی نہیں ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اخلاقی حسنہ اور اعلیٰ کردار انسانی پیدا کرنے کے لئے سب سے پہلا سبق ہی یہ ہے کہ آدمی وعدے اور وقت کی پابندی کرے۔

اصلاح

اپنے افراد یا جماعت کی اصلاح کرنا سب سے بڑی نیکی اور ذمہ داری کا کام ہے۔ اس کام کے لئے بے انتہا قابلیت اور خود نیک ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط (آل عمران: ۱۰۴) یعنی ”لازم ہے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے۔ اچھے کاموں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔“ لیکن ہماری بد نصیبی کہ یہ کام بھی ہر شخص نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ خود

کچھ جانتے نہیں نیک و بد کو پہچانتے نہیں مگر جہاں کسی میں بزم خود کو کوئی برائی دیکھی (خواہ وہ حقیقت میں برائی نہ ہو) لگے اس کو نصیحت کرنے۔ اس کے لئے نہ کوئی موقع و وقت دیکھتے ہیں، نہ حالات و ماحول۔ راستہ چلتے بازار اور سڑکوں پر بسوں میں، ٹرام کاروں، ریل گاڑیوں میں الغرض ہر جگہ ان ناصحان مشفق کی زبانیں آپ کو قہقہے کی طرح چلتی نظر آئیں گی۔ پھر نصیحت کرنے کا طریقہ اس قدر بھونڈا اور نکروہ ہوتا ہے کہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ نصیحت ماننے کی بجائے لڑنے جھگڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نصیحت حکمت آمیز پیرائے اور خوشترین الفاظ میں کی جائے لیکن اس حکم کی مطابقت پر واہ نہیں کی جاتی۔ اسی لئے جھگڑا اور فساد برپا ہوتا ہے۔ آج کل تو لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ تم میں فلاں نقص ہے تو وہ سر توڑنے کو آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لئے جب کسی کو نصیحت کرنی ہو تو اس کو ہرگز ہرگز برانہ کہو بلکہ جو عیب اس میں ہے اس عیب کو برا کہو۔ مثلاً جو آدمی جھوٹا، شرابی یا زانی ہے، مناسب موقع محل دیکھ کر اس کے سامنے جھوٹ، شراب اور زنا کی برائی اور نقصان ایسے موثر الفاظ میں بیان کرو کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہے لیکن اس طریقے کا اثر بھی صرف اسی حالت میں ہوگا جب کہ وہ تمہارے حسن اخلاق کا پہلے سے گرویدہ اور تمہاری بات ماننے کو تیار ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکیوں کی دعوت دے اور برائیوں سے روکے“۔ تو ظاہر ہے کہ یہ گروہ صرف علمائے دین ہی کا ہو سکتا ہے لیکن بد قسمتی سے ہمارے ہاں صحیح معنوں میں ”علمائے دین“ اس قدر کم ہیں کہ انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔ ہر شخص جو چند کتابیں حدیث و فقہ کی پڑھ کر اور کچھ بے سرو پا چکاہٹیں اور روایتیں یاد کر کے کسب معاش کی خاطر وعظ و نصیحت کا پیشہ اختیار کر لیتا ہے، عالم دین سمجھا جاتا ہے۔ ایسے خود ساختہ اور پیشہ ور علماء بجائے فائدے کے سخت نقصان پہنچاتے اور بجائے اصلاح کے قوم میں فساد برپا کرتے ہیں۔ انہی کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں“ قوم کے مختلف فرقوں میں عناد و منافرت پیدا کرنے کے ذمہ دار اسی قسم کے علماء ہیں۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری امت کا اختلاف باعث رحمت ہوگا۔ کیوں؟ محض اس لئے کہ اگر اختلاف خلوص اور نیک نیتی پر مبنی ہو اور اس میں عناد و منافرت کے جذبات کام نہ کر رہے ہوں تو ایسے اختلاف پر بحث و تہیص سے اجتناب کی راہیں کھلتی ہیں، حق آشکارا اور دین کی خوبیاں اجاگر ہوتی ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ہمارے تمام فرقوں کے اختلاف اصولی مطلق نہیں محض فروعی ہیں۔ اللہ رسول اور قرآن کو سب ہی سچا جانتے

ہیں اس صورت میں اگر ایک فرقہ دوسرے پر لعن طعن نہ کرے، ان اختلافات پر صبر کرے اور ہر فرقہ کے فروعی عقائد کو ان کے نجی عقائد سمجھ کر درگزر کرے یا شرافت و اخلاق کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی کر لے تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن یہ پیشہ ور علماء اپنی جیسیں پر کرنے کے لئے مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور ملت کی عام تباہی کا باعث ہوتے ہیں۔ ہماری رائے میں اس مصیبت کا واحد علاج یہ ہے کہ ہر اسلامی حکومت و کام کرے۔ ایک تو یہ کہ تمام مذہبی مدارس کی نگرانی اپنے ذمے لے لے اور ان مدارس کے ہر فرقہ کے علماء سے ایسے نصاب مقرر کرائے کہ طلباء اپنے فروعی اختلافات پر قائم رہتے ہوئے بھی باہمی منافرت سے باز رہنا سیکھیں۔ دوسرے یہ کہ کسی فرقے کے کسی عالم کو پبلک یا پرائیویٹ جلسوں میں اس وقت تک تقریر کرنے یا وعظ کہنے کی اجازت نہ ہو جب تک وہ گورنمنٹ سے اس مقصد کے لئے باقاعدہ لائسنس حاصل نہ کر لے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس طریقہ کے نفاذ پر قیامت برپا ہو جائے گی لیکن یہ غل و شور مچانے والے وہی لوگ ہوں گے جو اپنا پیٹ بھرنے کے لئے ملت میں فرقہ وارانہ تعصب اور منافرت پیدا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں لیکن اتحاد و ملت کا مقصد اس قدر عظیم اور اہم ہے کہ اس بارے میں حکومتوں کو کسی کی بھی پرواہ نہ کرنی چاہیے اور پوری طاقت سے ملی تباہی و بربادی کے ان جرائم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فنا کر دینا چاہیے۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس اصلاح سے ہماری مراد صرف جماعتی اور اجتماعی اصلاح ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو برائیوں سے روک ہی نہیں سکتا اور نیکی کی دعوت دے ہی نہیں سکتا۔ بے شبہ ہر مسلمان کو یہ حق ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے لیکن یہ کام صرف ان آدمیوں کو کرنا چاہیے جو اس کے اہل ہوں اور نصیحت کرنے کا طریقہ جانتے ہوں، حکمت اور خوبی سے یہ کام انجام دے سکیں فساد برپا نہ کریں۔

انصاف

جس آدمی میں انصاف کا مادہ نہ ہو اس میں تعصب پیدا ہو جائے گا اور جس میں تعصب ہوگا وہ حق بینی سے محروم رہ جائے گا جو سراسر گمراہی اور خسران ہے۔ اگر کسی قوم کی اکثریت ایسی ہو تو وہ کبھی تباہی سے نہ بچ سکے گی۔ اس لئے اپنا اور قوم کا بھلا چاہتے ہو تو ہمیشہ انصاف کرو۔ انصاف کیا ہے؟ یہ کہ تم پر منہمی معیشتی اور معاشرتی اعتبار سے لوگوں کے جتنے بھی حقوق عائد ہوتے ہیں سب کو اللہ اور رسول ﷺ کے حکم کے مطابق ادا کرو۔ چونکہ ادائیگی حقوق کا پورا بیان پیچھے ہو چکا ہے اس لئے یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں۔

انتقام اور معافی

اگرچہ اللہ نے انتقام اور قصاص لینے کا حکم دیا ہے لیکن اس کا یہ منشاء ہرگز نہیں کہ تم خود قاتل کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا جس نے تمہارا دانت توڑا اس کا دانت توڑ دو، جس نے تمہاری آنکھ پھوٹی ہے اس کی آنکھ پھوٹی دو یا جس نے تمہارے کسی رشتہ دار کو قتل کیا ہے اس کو قتل کر دو۔ اگر ایسا ہونے لگے تو قوم و ملک کا سارا امن و انتقام دو دن میں درہم برہم ہو کر رہ جائے گا اور وہ فساد پھیلے کہ خود قوم کا بھی نام و نشان باقی نہ رہے۔ اس لئے اللہ اور رسول ﷺ نے یہ کام قاضیوں یعنی ججوں اور مجسٹریٹوں کے سپرد کیا ہے کہ وہ مظلوموں کی داد دے کر مجرموں کو سزا دیں۔ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس قسم کے قصوروں کا نہیں تو کم از کم چھوٹی موٹی باتوں کا بدلہ تو ہم خود لے سکتے ہیں مگر یہ خیال بھی غلط ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی تم کو گالی دیتا یا تمہارا کچھ مال چرائتا ہے تو کیا جواب میں تم بھی اس کو گالی دو گے یا اس کا مال چرا لو گے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی اسی جرم اور گناہ کے مرتکب ہو گے جو اس نے کیا ہے اور اسی سزا کے مستحق ٹھہرو گے جس کا مستحق وہ ہے۔ اگر اس طرح برائی اور گناہ کو جائز قرار دے دیا جائے تو نیکی کا نام بھی باقی نہ رہے۔ مسلمانوں کی قومی تباہی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ برائی کے بدلے برائی کو جائز سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ تو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور زخموں کے بدلے ایسے ہی زخم لگانے کو جائز قرار دیا ہے لیکن اسی آیت کا اگلا کلمہ ان کو یاد نہیں رہتا کہ ”اگر مظلوم معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا“ ہم پوچھتے ہیں کہ اس سے بڑی جزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں اور مرنے کے بعد ان کی سزا نہ بھگتنی پڑے۔ پھر اس ٹکڑے کے بعد یہ بھی ہے کہ ”جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق حکم نہ دیں وہ بے انصاف ہیں (دیکھئے سورہ مائدہ آیت ۴۵) آیت کے اس آخری ٹکڑے سے صاف ثابت ہو گیا کہ تم کو خود مجرم سے جرم کا بدلہ اور قصاص لینے کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ کام قاضیوں کا ہے جو سزا کا حکم دیں گے۔

اس کے علاوہ سورہ مومنون (آیت: ۹۶) میں یوں ارشاد ہوتا ہے ”اے پیغمبر برائی کو بھلائی سے دفع کرو۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کے مخالفین آپ کی کیا صفات بیان کرتے ہیں“ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ تمہارے منہ پر یا پیٹھ پیچھے تمہیں برا کہیں تو جواب میں نیکی سے پیش آؤ۔ پھر اس سے بھی زیادہ صاف سورہ حم سجدہ (۳۴) میں فرماتے ہیں کہ ”برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لئے برائی کا جواب بھلائی سے دوتا کہ تمہارا عدو (دشمن) مثل تمہارے دوست اور رشتہ دار کے ہو جائے“ اس سے زیادہ بلند اخلاقی اور کیا ہو سکتی ہے۔ دن رات کا

تجربہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ ہمیشہ برائی کرتا رہے اور تم جواب میں ہمیشہ نیکی سے پیش آتے رہو تو آخر میں وہ شرمندہ ہو کر تمہارا دوست اور محبت بن جائے گا۔ ان صاف صاف احکام کے باوجود ہمارے افراد ہی نہیں بلکہ ملت کے بعض طبقات بھی انتقاماً قانون کو ہاتھ میں لینا مذہباً جائز سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے سرحدی اور قبائلی پٹھانوں ہی کو لیجئے۔ ان کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو مقتول کے وارث موقع ملتے ہی قاتل کو قتل کر ڈالتے ہیں اور اگر اتفاق سے قاتل بچ جائے تو مقتول کی اولاد نسلاً بعد نسل اس کے خون کا بدلہ لینے کی فکر میں لگی رہتی ہے اور جب بھی موقع ملتا ہے قاتل کی اولاد اور اولاد میں سے کسی نہ کسی کو قتل کر کے دم لیتی ہے۔ اب اس نئے قتل پر یہ ہوتا ہے کہ مقتول نمبر ۲ کی اولاد اس کے خون کا بدلہ لیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قتل و خون ریزی کا یہ سلسلہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے پٹھان عام طور پر ہتھیار باندھے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت دشمن کا سامنا ہو جائے۔ یہ صورت حال جس قدر غیر مہذب غیر اسلامی اور قومی ترقی کے لئے تباہ کن ہے ظاہر ہے لیکن پٹھان اپنی علمی اور مذہبی جہالت کی وجہ سے اس کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں رکھتے۔ وہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ رسم ان کی مسلمہ بہادری کے دامن پر کلنگ کا ٹیکہ ہے۔ اس سے ان کی بہادری ہی نہیں غیرت بھی رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے کیوں کہ اس قسم کے انتقام کبھی بھی مقابلہ اور چیلنج کر کے نہیں لئے جاتے بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے بدلہ لینے والے بے خبری میں پیچھے سے گولی چلا کر مخالف کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ یہ کسی طرح بھی بہادری اور غیرت نہیں کہلائی جاسکتی۔ اس رسم کی وجہ سے پٹھان ہی نہیں اسلام بھی تمام دنیا میں بدنام ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے۔ غیر مسلم اقوام پروپیگنڈا کرتی ہیں کہ پٹھانوں میں اس قسم کی وحشت و بربریت اسلامی تعلیم کی وجہ سے ہے۔ اس لئے قوم و مذہب کا درد رکھنے والے پٹھانوں کا فرض ہے کہ حکومت کی مدد سے اس صورت حال کو جلد از جلد ختم کر دیں اور اپنی خداداد قوتوں سے کام لے کر دوسری متمذبن اقوام کے دوش بدوش کھڑے ہو جائیں اور یاد رکھیں کہ انتقام کا یہ طریقہ انتہائی وحشیانہ اور گناہ کبیرہ ہے۔ جس شخص نے تمہارے باپ دادا کو قتل کیا تھا اگر وہ سزا سے بچ گیا تو تم اس کے بیٹے یا پوتے سے بدلہ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ تو بے گناہ ہے۔ قتل کا ذمہ دار ہے نہ خود قاتل۔

تختس اعمال اور بدگمانی

سورہ حجرات (آیت: ۱۲) میں ارشاد ہوتا ہے ”اے ایمان والو بات بات پر بدگمانی نہ کیا کرو کیونکہ اکثر بدگمانیاں گناہ ہیں اور ایک دوسرے کے افعال کی جستجو میں نہ رہا کرو“ لیکن باوجود ان صاف احکامات کے

غیبت اور بدگوئی

غیبت، بدگوئی اور چغلی بھی نہایت نقصان دہ اور فتنج عادت ہے۔ اجتماعی نقطہ نظر سے جتنا نقصان اس عادت سے قوم کو ہوتا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات (آیت ۱۲) میں غیبت سے اور سورہ نساء (آیت: ۱۲۸) میں بدگوئی سے منع فرمایا ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے تو غیبت کو زنا سے بھی زیادہ شدید گناہ قرار دیا ہے۔ جب صحابہ کبارؓ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ سنا تو کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ غیبت زنا سے بڑھ جائے، یہ کیسے ممکن ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا دیکھو اگر کوئی زنا کرے اور توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ شخص جس کی بدگوئی کی گئی ہے معاف نہ کر دے۔ اس حدیث کو پڑھ کر بہت سے مسلمان متعجب ہوتے ہیں۔ وہ اس کی نفسیاتی وجہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ زنا ایک ایسا فعل ہے جو بے حد احتیاط سے ہزار پردوں کے پیچھے چھپ کر کیا جاتا ہے اور زنا کے ہزار ہا واقعات میں سے ایک آدھ ہی منظر عام پر آتا ہے۔ برخلاف ازب غیبت اور بدگوئی عوام کے سامنے مجلسوں میں کی جاتی ہے تنہائی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ظاہر ہے کہ جس بات کی جتنی زیادہ تشہیر ہوگی اتنا ہی لوگوں کو اس کا علم زیادہ ہوگا اور وہ اتنے ہی زیادہ اس کی طرف مائل ہوں گے۔ سنیما اس بات کا سب سے روشن ثبوت ہے۔ جب سے لوگوں نے فلموں میں دھوکے فریب اور ہزنی وغیرہ کے نئے نئے طریقے مشاہدہ کئے ہیں، نئے فیشن کے بدمعاش اور ڈاکو زیادہ پیدا ہو گئے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں اس لئے عقل کا تقاضا ہے کہ امن قائم رکھنے کے لئے برائیوں کا ذکر بھی نہ کیا جائے۔ صرف نیکیاں اور خوبیاں ہی بیان کی جائیں تاکہ لوگوں کے کان برائی کے نام سے آشنا نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْمُجَاهِرِينَ بِالسُّوٓءِ مِنَ الْقَوْلِ..... (النساء: ۱۲۸) یعنی ”اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ برائی کا ذکر بلند آواز میں بھی کیا جائے“ لیکن باوجود اس کے حالت یہ ہے کہ سنیما کے پردوں، ناولوں، اخباروں، ادبی اور فلمی ماہناموں، مجلسی اور سیاسی پبلٹ فارموسٹی کی مذہبی مناظروں اور مساجد کے ممبروں تک سے بھی ہر وقت یہ گندگی فضا میں پھیلائی جاتی اور عوام کے دل و دماغ میں بسائی اور رچائی جاتی ہے۔ برائیوں کی تشہیر اس زمانہ میں اس قدر زور و شور سے ہو رہی ہے کہ معلوم ہوتا ہے دنیا میں اس کے سوا اور کوئی چیز موجود ہی نہیں۔ بہت سے ادیبوں، شاعروں اور صحافیوں نے تو اپنا شعار ہی یہ بنا لیا ہے کہ ہر وقت گندگی اچھالا کریں۔ جنسی نکات ہوں یا غریبوں اور مزدوروں کی درد بھری حکایات جب لکھی جائیں تو ان میں دھوکا فریب بے حیائی عصمت فروشی یا

اکثر لوگ اس فتنج عادت میں مبتلا ہیں۔ بدگمانی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دل ہر وقت برائی کی طرف مائل رہتا ہے اور رفتہ رفتہ برائی کا ٹوگر ہو جاتا ہے۔ ایسے دل میں نیکی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ ایسے آدمیوں کا اخلاق بہت ہی گندہ ہوتا ہے۔ بدگمانیاں آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں اور حق بینی سے محروم رکھتی ہیں جس سے بعض مرتبہ نقصان عظیم پہنچتا ہے۔ ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو فوجی ملازم تھا کسی ٹریننگ کے لئے چھ ماہ کے واسطے انگلستان گیا اور بیوی کو اکیلا گھر پر چھوڑ گیا۔ جب واپس آیا تو کسی وجہ سے بیوی پر بدگمانی پیدا ہو گئی۔ اس ٹوہ میں رہنے لگا کہ اس کی کوئی حرکت پنچشم خود دیکھے۔ مکان کے دروازے تھے۔ ایک دن پچھلے دروازے سے مکان میں داخل ہوا بیوی دوسرے دروازے پر کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ چھپ کر سننے لگا۔ ایک فقرہ جو آخر میں صاف طور پر سنایا تھا ”کل آنا کل دوں گی“ یہ سن کر آپے سے باہر ہو گیا۔ غصہ کے مارے عقل جاتی رہی، پتول لگا ہوا تھا، فائر کیا غریب عورت وہیں ڈھیر ہو گئی۔ دوسرے دن شام کو ایک فقیر آیا۔ گھر پر بھیر تھی۔ ایک آدمی سے کہا بی بی جی سے کہنا وہ فقیر آ گیا ہے اس نے جواب دیا کہ بی بی جی تو مر گئی۔ سن کر بہت رنجیدہ ہوا۔ کہنے لگا بڑی ہی نیک بی بی تھی کبھی سائل کو گھر سے خالی نہ جانے دیتی تھی۔ مجھے ہمیشہ خیرات دیتی تھی۔ کل میں آیا تو کل بھی کچھ پیسے دیئے تھے میں نے پہننے کے لئے کپڑا مانگا تو وعدہ کیا کہ ”کل آنا کل دوں گی“ لوگ مجرم کے منہ سے یہ فقرہ پہلے ہی کئی بار سن چکے تھے۔ فقیر کو ٹھہرا لیا اس کا پتہ لکھا اور کورٹ مارشل میں بطور گواہ پیش کیا مجرم کو پھانسی کی سزا ہوئی جو بعد میں نو برس کی قید با مشقت میں تبدیل ہو گئی۔ دیکھا آپ نے بدگمانی کا ثمرہ کس طرح بنا بنا یا گھر تباہ ہو گیا۔ اس لئے جب تک پنچشم خود نہ دیکھ لو ہرگز کسی کے متعلق بری رائے قائم نہ کرو اور پنچشم خود دیکھنے کے بعد بھی پردہ پوشی کرو۔ اللہ بھی تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ ہاں عدالت میں گواہی دینی پڑے تو بالکل سچی بات بیان کرو۔ وہاں کسی کے جرم کو چھپانا گناہ ہے۔ بدگمانی یہ بھی ہے کہ تم کسی کے متعلق یہ فرض کر لو کہ وہ تمہارا بدخواہ ہے یا تم کو ذلیل سمجھتا ہے۔ ایسی بدگمانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم بھی اس کو ذلیل سمجھنے لگتے ہو اور اس کے بدخواہ بن جاتے ہو۔ اس طرح دلوں میں اکثر اوقات بے وجہ فرق پڑ جاتا ہے اور جماعت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ اس برائی سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس کے متعلق تمہارے دل میں ایسی بدگمانی پیدا ہو خود اس سے صاف صاف بیان کر دو تاکہ دل صاف ہو جائیں اور اگر تمہارا خیال صحیح ثابت ہو تو برانہ مانو۔ اپنے اخلاق کی طاقت سے اپنے مخالف پر فتح حاصل کرو اور اس کو اپنا بنا لو یا در کھو نفرت کو نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے ہی فتح کیا جاسکتا ہے۔

عصمت درمی وغیرہ کا بیان ضرور ہو۔ یہ لوگ عالم اور فاضل اور 'ماڈرن' ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں جانتے کہ دوسری زبانوں خصوصاً انگریزی میں ہزاروں ناول اور لاکھوں افسانے ایسے ہیں جن میں فحاشی کا نام و نشان بھی نہیں۔ باوجود اس کے وہ اتنے دلچسپ ہوتے ہیں کہ جب تک انسان ختم نہ کرے ہاتھ سے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ مگر ہمارے نوے فیصد ناول نویس اور افسانہ نگار فحش اور عریاں مضامین کے سوا اور کسی موضوع پر لکھ ہی نہیں سکتے۔ انہیں گندے، مبتذل اور پیش پا افتادہ پلاٹوں کو ادل بدل کرنے ناموں نئی طرز نگارش سے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اخبارات میں زنا، اغواء، چوری، ڈکیتی اور زہنی کے واقعات کو نمایاں سرخیوں کے ساتھ نمایاں تر بنا کر شائع کیا جاتا ہے اور ہر روز ہر اخبار میں ایسی خبریں عام طور پر بکثرت نظر آتی ہیں۔ ان صحافیوں پر ہی کیا منحصر ہے ہمارے اکثر علماء واعظ اور مناظر بھی جب تک دوسرے فرقوں کی برائیاں بیان نہ کریں اور ان کو گالیاں نہ دیں تقریر نہیں کر سکتے۔ اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ اس طرح برائیاں بیان کرنا منع ہے تو جواب دیتے ہیں کہ واہ ہم تو یہ اس لئے کرتے ہیں کہ لوگ ان کو پڑھ کر اور سن کر برائیاں کرنا چھوڑ دیں۔ اگر یہ لوگ سچے دل سے اسی بات کے قائل ہیں اور ان کا یہ جواب ریاکاری پر مبنی نہیں تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ صحافی اور علماء باوجود عالم و فاضل ہونے کے نفسیات انسانی کی **الف ب ت** سے بھی واقف نہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ انسان بالفطرت جذباتی واقع ہوا ہے، وہ نیکیوں کی بنسبت برائی اور بدی کو جلدی اختیار کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسانی فطرت کو نہ علماء جانتے ہیں نہ ادیب اور اہل صحافت۔ جب اللہ تعالیٰ برائی کی تشبیہ کو پسند نہیں کرتا تو ہم علماء یا صحافیوں کی بات کو کیسے مان لیں۔ بعض آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی میں کوئی برائی یا عیب ہو اور وہ اس کی پیچھے پیچھے بیان کر دیا جائے تو وہ غیبت نہیں ہے۔ صحابہؓ نے رسول اکرم ﷺ سے یہی سوال کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے۔ اگر تم کسی کے متعلق ایسی برائیاں بیان کرو جو اس میں نہیں تو اس کو بہتان کہتے ہیں۔

چغلی

چغلی بھی بدگوئی کی ایک قسم ہے یہ عام لوگوں کے علاوہ دفنوں، کارخانوں اور تجارتی اداروں وغیرہ کے ملازمین میں حد سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ نالائق، کام چور اور فسادی قسم کے ملازمین جو ناجائز طریقوں سے افسروں کو خوش کر کے ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، چغلی خوری اور خوشامد سے اپنا مدعا حاصل کرتے ہیں اور یہ افسر لوگ ستر پچھتر فیصدی کانوں کے اس قدر رکھے اور عقل کے اس قدر اندھے ہوتے ہیں کہ بے سوچے سمجھے بلا

تحقیق ان مطلب پرستوں کی بات پر یقین کر کے مستحق لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے تمام عملے میں ہراس بے دلی اور بد نظمی پیدا ہوتی ہے اور کام بجائے اچھا ہونے کے خراب ہو جاتا ہے۔ یہ چغلی خور اور خوشامدی آج سے نہیں سینکڑوں برس سے ملک اور قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ عوام تو ایک طرف، کتنی ہی بادشاہتیں اور سلطنتیں ان کی وجہ سے برباد ہو گئیں۔ کیا ہمارے ماڈرن تعلیم یافتہ اور نفسیات انسانی کے ماہر حکام اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان دشمن انسانیت چغلی خوروں اور حقیقی وفادار کارکنوں میں تمیز کر کے ان کی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے انہیں سخت سزائیں دیں اور کیفر کردار تک پہنچا کر اس بہت بڑی برائی کا قرا واقعی انسداد کریں۔

حسد

یہ نہایت بُری عادت ہے۔ حاسد دوسروں کو خوش دیکھ کر خواہ مخواہ دل میں جلتا رہتا ہے، جس سے خود اسی کو روحانی تکلیف ہوتی ہے، محسوس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ حسد جب بڑھ جاتا ہے تو حاسد اپنے محسوس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر اوقات کامیاب ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس قوم میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی وہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ اس لئے اگر قومی ترقی چاہتے ہو تو حسد سے باز رہو اور اللہ کا یہ حکم یاد رکھو کہ "خدا نے تم میں سے ایک دوسرے کو جو برتری دے رکھی ہے اس کا کچھ ارمان نہ کرو۔ مردوں نے جیسی کمائی کی ہو ان کا حصہ ہے اور عورتوں نے جیسی کمائی کی ہے ان کا حصہ ہے۔ ہر وقت اللہ سے اس کے فضل کے طالب رہو وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ (سورہ نساء: ۳۲)

جھوٹ

جھوٹ اتنا بڑا گناہ اور اس کے نقصانات اس قدر واضح ہیں کہ یہاں ان کا بیان کرنا تحصیل حاصل ہے۔ اس لئے ہم صرف ایک بات کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر تمام دنیا میں بالاتفاق ایک انٹرنیشنل ہفتہ جھوٹ کا منایا جائے اور اس ہفتہ میں کوئی شخص بھی کہیں کوئی سچ نہ بولے تو خود غور کر لیجئے کہ اس ہفتہ کے اختتام پر کیا یہ دنیا بہی دنیا رہے گی۔

لحاظ و مروّت

لحاظ و مروّت نہایت ہی نیک عادت اور شرافت کی علامت ہے لیکن ہماری قوم نے جہاں اور خوبیوں کو برائیوں سے بدل لیا ہے لحاظ و مروّت بھی اسی طرح کیا جاتا ہے کہ بجائے فائدے کے نقصان دیتا ہے۔ لحاظ

ومرّوت یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو چشم پوشی کرو تا کہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ مقررہ موضوعوں سے تقاضا میں سختی کرتے ہوئے شرم محسوس کرو۔ ان کے پاس روپیہ نہ ہو تو نرمی سے درگزر کرو۔ کوئی سوال کرے تو ٹالتے ہوئے شرم آئے۔ اس سے بھی زیادہ یہ کہ اگر کوئی سختی سے پیش آئے تو جواب میں سختی نہ کر سکو۔ یہ سب اچھی باتیں ہیں لیکن لحاظ و مرّوت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کوئی تمہیں نقصان پر نقصان اور تکلیف پر تکلیف پہنچاتا رہے اور تم لحاظ و مرّوت کی وجہ سے مداوا بھی نہ کرو۔

ہمارے شرفاء میں جس قسم کا لحاظ و مرّوت اب تک رائج تھا اس کی ایک مثال سنئے۔ ایک نواب صاحب کے دانت میں درد تھا۔ جب کسی طرح آرام نہ ہوا تو ایک مشہور انگریز ڈاکٹر کو بلا دیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کے بعد کہا کہ دانت اکھاڑنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ نواب صاحب درد سے بیتاب تھے فرمایا ”بہت اچھا نکال لیجئے۔“ ڈاکٹر نے تمام ضروری سامان مطب سے اٹھوا کر نواب صاحب کے محل میں منگایا اور ضروری تدابیر و احتیاط کے ساتھ دانت اکھاڑ کر واپس چلا گیا۔ نواب صاحب کو دانت نکلوانے میں سخت تکلیف ہوئی اور ڈاکٹر کے جانے کے بعد بھی کوئی آرام نہ آیا۔ اس پر ایک مصاحب بولا کہ حضور سو روپے تو آپ نے اس کو فیس کے دیئے، اتنا خون نکلا اور اس قدر تکلیف ہوئی کیا فائدہ ہوا اس انگریز ڈاکٹر کو بلانے سے۔ نواب صاحب نے نہایت آہستہ سے جواب دیا کہ اس میں ڈاکٹر بے چارے کا قصور نہیں خطا میری ہی ہے۔ مصاحب نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کس طرح؟ نواب صاحب بولے کہ اس نے بجائے بیمار دانت کے اچھا دانت اکھاڑ لیا اور میں نے بتایا نہیں۔ مصاحب نے اور بھی حیران ہو کر پوچھا یہ کیوں؟ نواب صاحب نے فرمایا ”بھئی مجھے تو لحاظ آیا کہ اس کی غلطی اسے بتاؤں گا تو بے چارہ شرمندہ ہوگا۔“ تو جناب ایسا لحاظ و مرّوت تو دنیا میں کہیں بھی جائز نہیں ہو سکتا۔

عجز و انکساری

عجز و انکساری بھی ایک اچھی عادت ہے لیکن صرف اسی وقت جب اس میں ریا کاری اور تصنع نہ ہو۔ عجز و انکساری یہ ہے کہ جو لوگ مرتبہ، علم اور دولت اور وجاہت وغیرہ میں تم سے کمتر ہوں ان سے جب ملو تو، اس طرح ملو کہ انہیں اپنی کمتری کا احساس نہ ہو۔ اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو ان سے عزت و محبت کا سلوک کرو، پاس بٹھاؤ، ساتھ کھلاؤ اور بے تکلفی سے پیش آؤ۔ اگر تم ان کے گھر جاؤ تو ان کے بورے یا پھٹی ہوئی دریا پر بیٹھنا اور ان کی چٹنی روٹی کھانا تم کو ذرا بھی ناگوار نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ یہ غریب لوگ اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے کہ امراء اور حکام وغیرہ ان سے مٹھی زبان بولیں اور عزت کا برتاؤ کریں۔

اگر ہمارے امراء اور حکام صرف اتنا ہی کریں تو کمبوزم کا خطرہ بقدر پچاس فیصد کم ہو جائے۔ عجز و انکساری یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسمسا سامنہ بنا کر بولو اور مصنوعی حرکات سے اپنے کو ذلیل و حقیر ظاہر کرنے کی کوشش کرو یا اگر تم سے تمہارے مرتبہ، علم و دولت وغیرہ کے متعلق پوچھا جائے تو حقیقت کو چھپانے اور اپنی کمتری کو ظاہر کرنے میں اتنا مبالغہ کرو کہ بات ریا کاری اور جھوٹ تک پہنچ جائے۔

اب سے پچاس سال پہلے کا ذکر ہے کہ بورڈ آف انزامینر (Board of Examiners) کے سیکرٹری کو جو کرنل تھا ایک ایسے شخص کی ضرورت پیش آئی جو اردو اور انگریزی دونوں کا ماہر ہو۔ دریافت کرنے پر ایک ایسے مولوی صاحب کا پتہ لگا جو صرف اردو انگریزی ہی نہیں بلکہ فارسی اور عربی کے بھی فاضل تھے۔ چنانچہ مولوی صاحب کو لکھا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو بورڈ آف انزامینر میں ایک معقول آسامی دے سکتے ہیں۔ انٹرویو کے لئے تشریف لے آئیے۔ اس زمانہ میں بورڈ آف انزامینر (Board of Examiners) کا دفتر کلکتہ میں تھا۔ مولوی صاحب کلکتہ گئے اور کرنل صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر اپنا کارڈ بھیجا۔ کرنل خود باہر نکل آیا اور مولوی صاحب کو بہ عزت و اکرام ساتھ لے جا کر کمرے میں بٹھایا۔ ادھر ادھر کی رسمی گفتگو کے بعد کرنل نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کے فاضل اجل ہیں۔ ہمیں ایک ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے۔ مولوی صاحب اگرچہ واقعی چاروں زبانوں کے ماہر تھے مگر اپنی لیاقت کا ذکر اپنے منہ سے کس طرح کر سکتے تھے۔ ازراہ انکسار فرمانے لگے نہیں حضور میں تو بہت معمولی سا علم رکھتا ہوں۔ کرنل بولا، نہیں نہیں مجھ کو فلاں صاحب نے بتایا ہے اور آپ کی فضیلت کی بڑی تعریف کی ہے۔ مولوی صاحب نے جواب دیا۔ یہ ان کا حسن ظن ہے جو ایسا فرماتے ہیں ورنہ من آنم کہ من دانم، کہاں میں اور کہاں فضل و کمال۔ اس کے بعد کرنل نے اور بھی کئی معززین کا حوالہ دیا کہ فلاں فلاں نے بھی آپ کے علم و فضل کے بارے میں یہی کہا ہے لیکن مولوی صاحب ہر مرتبہ انکار اور اپنی بیچ مدانی کا اظہار فرماتے رہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو کرنل نے کہا اچھا میں سمجھا۔ وہ کوئی اور صاحب ہوں گے جن کی بابت مجھے اطلاع دی گئی تھی۔ معاف کیجئے گا سخت غلط فہمی ہوئی اور آپ کو ناحق تکلیف دی گئی۔ آپ دفتر سے آمد و رفت کا کرایہ لیں اور تشریف لے جائیں۔ ساتھ ہی اس نے گھنٹی بجائی اور چہرہ اسی (Peon) کو بلا کر کہا مولوی صاحب کو دفتر کا راستہ دکھاؤ۔ اس پر مولوی صاحب بہت سٹ پٹائے اور کچھ کہنا چاہا مگر کرنل نے بات نہیں کی اور مولوی صاحب بے نیل و مرام واپس آئے تو ایسی بھی عجز و انکساری کیا۔ عجز و انکساری تو صرف یہ ہے کہ قول و فعل اور حرکات و سکنات سے رعونت، خشونت اور کبر و غرور نہ پایا جائے۔

کبر و غرور

غرور بہت ہی سخت برائی ہے۔ افراد اور جماعتوں کے افتراق اور تباہی کے اسباب میں یہ ایک بڑا سبب ہے۔ غرور یہ نہیں ہے کہ تم اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، عالی شان مکانوں میں رہو، عمدہ سواریاں اور بہت سے نوکر چاکر رکھو۔ غرور یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے سے گھٹیا اور ذلیل و حقیر جانو۔ ان سے ملنا اور سیدھے منہ بات کرنا اپنے لئے باعثِ عار سمجھو اور ان کو اپنے پاس بٹھانے میں شرم محسوس کرو۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے: **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقْتُمْ.....** (الحجرات: آیت ۱۳) یعنی 'خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیز گار ہے۔' اور تم باوجود گنہگار ہونے کے اپنے آپ کو شریف اور دوسرے غریب لیکن نیک لوگوں کو ذلیل خیال کرو۔ غرور ان چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ جسمانی طاقت، دولت، حسن، منصب، ذات پات، عبادت اور روحانی بزرگی۔ یاد رکھو یہ سب چیزیں فانی ہیں، باقی رہنے والی صرف نیکی اور نیک نامی ہے۔ مغرور آدمی نہ تو نیک ہوتا ہے نہ نیک نام، نہ خدا اس کو پسند کرتا ہے نہ دنیا۔ سب سے خطرناک قسم کا غرور وہ ہے جو روحانی بزرگی یا عبادت پر ہو۔ اکثر سنا لک اس لئے مردود ہو جاتے اور ناکام رہتے ہیں کہ وہ اپنے کشف و کرامات پر مغرور ہو کر دوسروں کو اپنے سے کمتر حقیر و ذلیل سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے عابد و زاہد جن کو حکمت و سلوک سے کوئی حصہ نہ ملا ہو اور جنہوں نے تزکیہ اخلاق نہ کیا ہو دوسروں کو گنہگار اور اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ کر غرور کرتے ہیں۔ ان کا سب زہد و تقویٰ محض غرور کی وجہ سے خاک میں مل جائے گا اور کسی کام نہ آئے گا۔ یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ ہم جن کو ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں ممکن ہے ان کا کوئی نیک عمل اللہ کو پسند ہو۔ کبر تو صرف ذات کبریٰ ہی کو سزاوار ہے۔ بندہ سراسر عاجز اور گنہگار ہے۔ اللہ ہی جانے کہ ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں جو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتے۔ اس لئے کسی چیز پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہئے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہئے۔ غرور کا علاج یہ ہے کہ جب تمہیں اپنی برتری کا احساس ہو تو اپنے سے بہتر لوگوں پر نظر کرو اور جب احساس کمتری ستائے تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو۔

قناعت

قناعت بہت ہی اچھی صفت ہے لیکن آج کل اس کے معنی بھی صبر و توکل وغیرہ کی طرح غلط سمجھے جاتے ہیں۔ قناعت یہ نہیں ہے کہ جو کچھ میسر آئے اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو اور دل میں اللہ سے

شکایت اور ناشکری کے جذبات لیجئے جلتے اور کڑھتے رہو۔

قناعت یہ ہے کہ جس حال میں ہو، سچ مچ خوش رہو اور آئندہ کے لئے برابر ترقی کی کوشش کرتے رہو اور امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں کو ضرور بار آور کرے گا۔ جو آدمی ہر حال میں خوش رہتا ہے اس کے قوائے عمل کبھی سست اور مضحل نہیں ہوتے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے پورے جوش کے ساتھ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کام بے دلی اور سستی سے کیا جاتا ہے اس میں کامیابی نہیں ہوتی لیکن جو کام جوش اور خوشی سے کیا جاتا ہے اس میں اکثر کامیابی ہوتی ہے۔

معاملات اور اخلاق کا بیان ختم ہوا۔ اب ہم اس کتاب کی خاص خاص باتوں کا خلاصہ لکھتے ہیں تاکہ جو لوگ بار بار کتاب کو نہ پڑھ سکتے ہوں وہ صرف اس خلاصہ کو جب چاہیں پڑھ کر کتاب کی روح کو سمجھ لیں اور یاد رکھیں۔

====☆☆☆☆====

خلاصہ کتاب

۱۔ توحید

اللہ اور اس کی وحدانیت یعنی اس بات پر یقین محکم پیدا کرو کہ صرف اللہ ہی ایسا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ وہ اس کائنات کا خالق اور اس کی ہر چیز پر ہر طرح قادر ہے۔ وہ جسے چاہے امارت و غربت اور عزت و ذلت دیتا ہے۔ افراد اور اقوام کو بنانا اور بگاڑنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی نے انسان کو جس قدر چاہا اختیار دیا ہے اور جس قدر چاہا مجبور رکھا ہے۔ اس کے سوا نہ تو کسی سے ڈرنا چاہیے نہ کسی سے توقع رکھنی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نے جس جس کو جو مراتب اور اختیار عطا فرمائے ہیں ان سب کو انہی مدارج اور مراتب کے لحاظ سے اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر مانو۔

۲۔ رسالت اور قرآن

اس بات پر یقین محکم پیدا کرو کہ محمد ﷺ اللہ کے آخری اور سچے رسول اور بندے ہیں اور قرآن اللہ کی آخری اور سچی الہامی کتاب ہے اور جیسی نازل ہوئی تھی آج تک اسی طرح ایک حرف یا زبریر کی کمی بیشی کے بغیر موجود ہے اور اس کتاب کے تمام احکام پر پوری طرح عمل کرنے ہی سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔

۳۔ ایمان کامل پیدا کرنے کی ترکیب

توحید، رسالت اور قرآن کی صداقت پر ایمان کامل پیدا کرنے کی سب سے اچھی ترکیب یہ ہے کہ صرف احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے کہنے سے ان تینوں باتوں کو بغیر کسی غور و فکر کے بے دلیل اور حجت مان لیا جائے۔ یاد رکھو دنیا کی تمام باتیں صرف دو طرح تسلیم کی جاسکتی ہیں یا تو خود آنکھوں سے دیکھ کر یا کسی ثقہ اور معتبر شہادت کی بنا پر۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کو ہر ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتا اس لئے لامحالہ شہادت پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ خصوصاً جب کہ شہادت متواتر اور ثقہ آدمیوں کی ہو۔ مثلاً لندن، پیرس

اور نیویارک وغیرہ کو کروڑوں بلکہ اربوں آدمیوں نے نہیں دیکھا لیکن ان کی موجودگی پر تمام دنیا محض اس لئے یقین کرتی ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا ہے اور وہ بہ تواتر بیان کرتے ہیں کہ یہ شہر موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ، فرشتوں، جنت و دوزخ وغیرہ کی موجودگی کے بارے میں بہ تواتر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے شہادت دی ہے کہ موجود ہیں اور ان میں سب سے آخری شاہد وہ عالی شان پیغمبر اور رسول ﷺ ہیں جس کی صداقت اور تقویٰ کے خلاف اس کے بدترین دشمن بھی اس کی موجودگی یا غیبت میں کبھی ایک لفظ نہ کہہ سکے۔

ایمان کامل پیدا کرنے کی دوسری ترکیب یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا علم حاصل کر کے اشیاء کائنات کی ساخت اور نظام عالم پر غور و فکر کیا جائے۔ زیادہ نہیں تو صرف انسان کی ساخت کا علم کامل بہم پہنچایا جائے۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ ایک ایسی ہستی ضرور موجود ہے جو اس تمام نظام کو ایک خاص حکمت اور اعتدال کے ساتھ سنبھالے ہوئے ہے۔

تیسری ترکیب یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر معرفت باری تعالیٰ حاصل کی جائے۔ اس کے لئے تصوف کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے لیکن:

۴۔ جو لوگ تصوف کے ذریعہ ذات باری تعالیٰ یا لطائفِ غیبی کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ تصوف کا ہر وہ طریقہ جو خالص توحید کی تعلیم نہ دیتا ہو غلط اور گمراہ کن ہے۔ اس پر عمل کرنے سے حصول معرفت کی بجائے شرک و کفر کی تاریکیوں میں پھنس کر رہ جاؤ گے اور مرنے کے بعد پھینتاؤ گے۔ تصوف کے یہ طریقے قطعاً غیر اسلامی ہیں۔ جو پیر فقیران طریقوں کی تعلیم دیتے ہیں وہ مسلمانوں کو مشرک اور کافر بناتے ہیں اور ملت اسلامیہ کو تباہ کرتے ہیں۔ اگر تم ان لوگوں سے کشف و کرامات بھی سرزد ہوتی دیکھو تب بھی ان کا یقین نہ کرو کیونکہ کشف و کرامت جیسی خوارق عادت تو راہبوں، جوگیوں، نجومیوں، رمالوں، پامسٹوں، مسمرانزروں، ہیبینڈوٹائزروں، علوی و سفلی عاملوں اور جادوگروں سے بھی سرزد ہوتی ہیں۔ مسلمان اولیاء اور بزرگوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ان کی تعلیم قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے اور ان کا اخلاق اخلاقِ محمدی ﷺ۔ ان بزرگوں کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ کیسا ہی گنہگار اور فاسق و فاجر مسلمان ان کے پاس بیٹھے وہ محض ان کے اثر صحبت سے ان ہی جیسا نیک اور بزرگ بن جاتا ہے۔ یہ کرامت ایک ولی کے سوا اور کوئی نہیں دکھا سکتا۔

تمام عبادات پر قرآن و احادیث کے مطابق سختی سے پابند رہو۔ خصوصاً نماز ایسی پڑھو جس میں شروع سے آخر تک عجز و انکساری، خشوع و خضوع اور اللہ کی یاد برابر قائم رہے۔ مگر یہ بات صرف اسی حالت میں حاصل ہو سکتی ہے جب کہ تم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو۔ یاد رکھو کہ جو خیالات دماغ میں ہر وقت بھرے رہتے ہیں تمہاری اور ارتکاز خیال کے وقت وہی بار بار ابھرتے ہیں۔ پس جو لوگ ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں گے نماز میں بھی ان کو اللہ ہی یاد آئے گا اور یہی وہ نماز ہے جو اخلاق کو سدھارتی ہے اور برائیوں سے بچاتی ہے۔

۶۔ برائیوں کی نفی

غصہ، نفرت، غیبت اور بدگمانی کے جذبات کو دل سے بالکل نکال دو۔ ان سے خود تمہارے دل و دماغ کو تکلیف ہوتی ہے اس آدی کا کچھ نہیں بگڑتا جس کے خلاف تم یہ جذبات رکھتے ہو۔ لوگوں کی برائیوں کو دیکھ کر تمہارے دل میں نفرت کا نہیں بلکہ رحم کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ برائی کی وجہ سے کسی سے نفرت نہ کرو۔ ان کی برائیوں کے متعلق قیامت میں تم سے سوال نہ کیا جائے گا، انہی سے پوچھا جائے گا۔ البتہ اس نفرت کی وجہ سے تمہارے دل میں جو کثافت پیدا ہوگی وہ مرنے کے بعد تمہیں سخت تکلیف پہنچائے گی۔ کسی کے ساتھ برائی نہ کرو۔ جو آدی تمہارے ساتھ برائی کرے اس کا جواب ہمیشہ نیکی سے دو یہاں تک کہ وہ تمہارا دوست بن جائے۔ بہتر یہ ہے کہ کسی کی برائیوں پر نظر ہی نہ کرو صرف خوبیوں کو دیکھو۔

۷۔ محبت و صداقت

اپنے دل میں تمام مخلوق خدا کے لئے محبت کا جذبہ پیدا کرو اور ہر کام حق و صداقت سے انجام دو۔ اس سے تمہارے قلب اور روح کو بڑا سکون اور اطمینان ملے گا۔ مگر جب فرائض منصبی کا تقاضا ہو تو اپنے محبوب ترین آدی کو بھی سزا دینے میں تامل نہ کرو۔ یاد رکھو کہ اسلام نے دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بھی محبت اور رواداری سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ اس حکم کی پوری تعمیل کرو لیکن جب ان غیر مسلموں سے کسی مسلمان یا تمہارے مذہب و ملت کو خطرہ ہو تو اس وقت محبت اور رواداری کو قطع کر کے ان لوگوں کے مقابلہ پر ڈٹ جاؤ اور اس وقت تک مقابلہ کرتے رہو جب تک خطرے کا قطعی استیصال نہ ہو جائے۔

۸۔ حقوق العباد

ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی بچوں، عزیز واقارب، ہمسایوں، شہریوں اور اہل ملک و ملت کے جو حقوق

تمہارے ذمہ ہیں، خوش اسلوبی اور خوش اخلاقی سے کما حقہ ادا کرو۔ اسی طرح وہ اتحاد پیدا ہو سکتا ہے جو قوموں کی بقائے دوام کا باعث اور ضامن ہے۔

۹۔ عمل

اپنی اور اپنے متعلقین کی بقائے حیات کے لئے خود کام کرو۔ اپنا بوجھ کسی دوسرے پر ہرگز نہ ڈالو یہ سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ جو کام شرعاً جائز ہو اسے ہرگز ذلیل اور بُرا نہ سمجھو۔ ملک اور قوم کی بہبودی کے لئے کام کرنا عبادت ہے۔ یقین جانو کہ ہر قسم کا رنج اور فکر صرف کام کرنے ہی سے دُور ہوتا ہے اور صحت، عزت، دولت اور راحت صرف کام کرنے سے ملتی ہے۔ جب شش جہت میں مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہوں، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہو اور خود کشی کرنے کو دل چاہتا ہو اس وقت کام میں مصروف ہو جاؤ اور کام کرتے رہو، کرتے رہو یہاں تک صبح سمرت کا آفتاب عالم تاب اپنی نور پاشیوں سے تمہارے دامن مُراد کو مالا مال کر دے۔

۱۰۔ تقدیر

تقدیر کے عقیدے کو غلط طریقے پر ماننے سے بزدلی اور بے عملی پیدا ہوتی ہے اس لئے تقدیر کو ہمیشہ عمل کے ساتھ مانو، بے عملی کے ساتھ ہرگز نہ مانو۔ یقین رکھو کہ موت کا جو وقت مقرر ہے۔ اس سے ایک سینکڑہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں۔ اس لئے کتنا ہی مشکل کام ہو اس کے خطرات کی پروا نہ کرو۔ اللہ کے توکل پر اسے انتہا تک پہنچانے کی کوشش میں مصروف رہو۔ پھر بھی ناکامی ہو تو بھی خوش رہو اور یقین رکھو کہ اس ناکامی میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت تمہارے لئے مضمر ہے۔

۱۱۔ حُسنِ اخلاق

تمام علم و تربیت، فضل و کمال، زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت اور ولایت و معرفت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی حُسنِ اخلاق کا پتلا اور رحم و کرم کا جسمہ ہو۔ جب تک یہ نہ ہوگا ہم کتنی ہی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں یا زکوٰۃ دیں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لئے ضروری ہے کہ عبادات کی ادائیگی کے ساتھ ہر مسلمان حُسنِ اخلاق یا اخلاقِ کامل پیدا کرنے کو اپنے اوپر لازم قرار دے لے۔ حُسنِ اخلاق صرف ان باتوں میں مضمر ہے کہ اول تمہارے کسی قول و فعل یا حرکت سے کسی انسان کو رنج، تکلیف یا نقصان نہ پہنچے۔ سوائے

اس حالت کے جب تم پر ظلم ہو رہا ہو یا تم کو فرائض کی بجا آوری میں حق کی خاطر ایسا کرنا پڑے۔ دوسرے یہ کہ ہمیشہ خوش رہو اور دوسروں کو خوش رکھو۔ ہر ایک کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ اگر سب نہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ تو خوش رہ سکیں گے۔

۱۲۔ خدمتِ خلق

خدمتِ خلق ہی سب سے بڑی نیکی، عبادت اور سراسر ”تعمیرِ ملت“ ہے۔ اس لئے اپنے مقدور اور استطاعت کے مطابق ہمیشہ خدمتِ خلق کرتے رہو۔ یاد رکھو تمام قوم میں خدمتِ خلق کا جذبہ ہوگا تو بہت سے آدمی تمہاری بھی خدمت کریں گے اور تم کو مدد دیں گے۔ عوام کے لئے خدمتِ خلق کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑا درجہ رکھتی ہیں۔ مثلاً کسی کو پانی پلا دینا، راستہ بتا دینا، بوجھ اٹھا دینا، راستہ سے پتھر یا کانٹے دور کر دینا معمولی باتیں نہیں ہیں۔ ان سے بڑے دور رس نتائج نکلتے ہیں۔ خواص اور صاحبِ استطاعت حضرات خدمتِ خلق کے ذریعہ ملک و قوم کو بے حد طاقتور بنا سکتے اور ترقی کے چرخ چہارم پر پہنچا سکتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کی طاقت کا راز اسی میں پوشیدہ ہے لیکن خواص کی خدمات سے ملک و قوم کو فائدہ صرف اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے جب کہ یہ خدمات خلوص کے ساتھ قومی بہبود کے لئے ہوں ذاتی اعزاز و افتخار کے لئے نہ ہوں۔ ہماری بد نصیبی کہ ہمارے اکثر زعماء اور امراء میں خلوص کا مادہ بالکل نہیں ہے۔

الحمد للہ کہ کتاب ختم ہوئی۔ اب ہم قوم کی ان برائیوں کو دور کرنے کے طریقے یعنی علاج لکھتے ہیں۔

====☆☆☆☆====

علاج

اس سوال کا جواب کافی تفصیل سے دے دیا گیا ہے کہ ہمارے زوال کی وجوہات کیا ہیں اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہم کو اپنی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہئے۔ اب سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ اس اصلاح یا تعمیر نو کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ بظاہر اس کے دو ہی طریقے ممکن ہیں۔ اول یہ کہ ہماری حکومت خود یہ کام کرے۔ دوسرے یہ کہ ملک کی طاقتور اور مشہور جماعتیں اسے اپنے ہاتھ میں لے لیں لیکن حکومت ہو یا جماعتیں ان سب کے اربابِ اختیار کی بھاری اکثریت نے قیام پاکستان سے اب تک ملک و ملت کی طرف سے جس غفلت و بے پروائی کا ثبوت دیا ہے اور اپنے ذاتی اقتدار و منفعت کے حصول کی خاطر جس اخلاقی فرومانگی کا مظاہرہ کیا ہے اس کے پیش نظر ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ ملت کے ”اخلاق“ کی اصلاح کے لئے کوشش کریں گے بیکار محض ہے۔ اس کے بعد لے دے کے صرف یہ طریقہ کار باقی رہ جاتا ہے کہ ہر شخص جو اپنی قوم کی اصلاح کرنا چاہتا ہے پہلے خود اپنی اصلاح کرے اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال، قریبی رشتہ داروں اور ان دوستوں کی جو اس کے زیر اثر ہوں۔ اس طرح کچھ عرصہ میں ان اصلاح یافتہ لوگوں کی ایک معقول جماعت وجود میں آجائے گی۔ پھر وہ جماعت اجتماعی طور پر یہ کام اپنے ہاتھ میں لے کر کامیابی سے آگے چلا سکیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اچھی اور قابل عمل تدبیر مدت سے ہمارے ذہن میں ہے لیکن یقین نہیں آتا کہ اس پر عمل ہو سکے تاہم بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ شاید کچھ اللہ کے بندے ایسے موجود ہوں یا پیدا ہو جائیں جو کسی وقت اس پر عمل کر سکیں۔ وہ تدبیر یہ ہے کہ ملک میں ایک ایسی آل پاکستان جماعت بنائی جائے جس میں تمام مذہبی فرقوں کے پیشوا اور تمام مذہبی، سیاسی اور معاشرتی جماعتوں کے صدر سیکرٹری اور منتخب نمائندے بحیثیت ممبر کے شریک ہوں۔ اس کی تشکیل یو این او کی ساخت پر کی جائے۔ اس کا مقصد اور موقف صرف اہل ملک کی اخلاقی اصلاح تک محدود ہو۔ مذہبی، سیاسی معاشرتی یا دوسرے اختلافی مسائل کا اس میں ذکر کرنا بھی منع ہو۔ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ صرف اخلاق ہی ایک ایسا متفق علیہ موضوع ہے جس پر تمام فرقے اور جماعتیں شدید مذہبی، سیاسی اور معاشرتی اختلافات کے باوجود ہر لحاظ سے بالکل ہم آہنگ اور

متفق ہیں۔ یعنی اخلاقی نقطہ نظر سے جو باتیں بری ہیں وہ سبھی کی نظر میں بری ہیں اور جو باتیں اچھی ہیں وہ سبھی کی نظر میں اچھی ہیں۔ اس جماعت میں صرف وہ طریقے سوچے اور عمل میں لائے جائیں جن میں ہر فرقہ کے افراد کا اخلاق، اخلاق محمدی ﷺ کا نمونہ بن جائے۔

اس جماعت میں بنیادی اختلافات کا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ صرف کام کرنے کے طریقوں پر شاید کچھ اختلافات پیدا ہوں گے مگر وہ اتنے شدید ہرگز نہ ہوں گے کہ ایک فرقے کو دوسرے فرقے کا دشمن بنا دیں۔ علاوہ ازیں ایسے اختلافات کا حل تجویز کر لینا بھی کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا۔ اس لئے ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس جماعت کے جلسوں کا ماحول بڑا ہی پرسکون اور محبت و اخوت کے نظاروں سے معمور ہوگا اور وہاں ہمارے علماء، زعماء اور رہنما باوجود فرقہ وارانہ اختلافات کے آپس میں مل جل کر ہمدردی اور محبت و یکجہتی کے جذبات سے اختلافی معاملات کو سلجھانے کی تربیت حاصل کر سکیں گے۔ اگر کسی طرح یہ جماعت وجود میں آجائے اور یہ کام ہو جائے تو اس سے ہمارے افراد کی اس حد تک اصلاح ہو جائے گی کہ وہ قوم کے عام فائدے کے لئے ایک ہی زاویہ نظر سے سوچنا اور کام کرنا سیکھ جائیں گے۔ اس طرح باہمی خصامت اور عناد و فساد کا جذبہ بہت کم اور تخریبی افکار و افعال کا خاتمہ ہو جائے گا اور قوم ہر لحاظ سے ترقی کے میدان میں آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ کاش کچھ اہل دل اور صاحب دماغ حضرات ہماری اس تجویز کے فوائد اور اسرار و نمونہ کو اچھی طرح سمجھ کر آگے بڑھیں اور ملت اسلامیہ کی بقا کے لئے یہ کام اپنے ہاتھ میں لے کر بسم اللہ کریں۔ آمین۔



رخصت نامہ
۱۹۹۰
از سنوں سورجہ علیہ خیروں

تمام - تمام حباہن و نادانان ذرہ سرخیزین سلسلہ عالیہ توحیدیہ
غریب من - اگر آفتاب وقت سے سینہ اپنا جا نہیں سدا
نہیر کے کبیر مر جاؤں تو دس وصیت نامہ کی رو سے علیہ استار
ہوا ولد حاضی علی محمد سکند بنوں کو میرا دادا احمد جا نہیں مانا
ادرسیمہ جا اور ان کا تمام اکتھام دررھو یا اسی طرح
مانی حباہن عطف کے میری -

میں اپنے تمام پیار سرخیزوں سے امید رکھتا ہوں کہ وہ
ذاتی لالیج سے دس حکم کی کوئی صلحت درزی نہ کرے اور
سب کی سلسلہ علیہ نے میں بوری دھو دینے عطف کے کھجلی
دیتے ہیں - جو خالفت کرگھا اسکی دنیا اور دین دونوں
تباہ ہو جائے - والسلام علیکم انصار



آستانہ سلسلہ عالیہ توحیدیہ
۹۲ - جی ماڈل ٹاؤن - لاہور

برادران سلسلہ اسلام علیکم
چونکہ آج کل شدید بیمار ہوں اور موت کا وقت معلوم نہیں کہ کس وقت آجائے اس لئے حلقہ
توحیدیہ کے استھکام اور بہبودی کے خیال سے جناب سکوارڈن لیڈر غلام رسول شاہ برکت ارشدیہ جناب حاجی
عبدالرحمن صاحب کو اپنا فیضان و جانشین مقرر کرتا ہوں اور سلسلہ عالیہ کے تمام جناب کو ہدایت کرتا ہوں
کہ وہ ابھی میری زندگی میں جناب سکوارڈن لیڈر غلام رسول شاہ برکت کے ہاتھ پر بیعت کریں۔
یہ بیعت بالمشافہ بھی ہوگی اور تحریری بھی۔ بہتر ہے کہ تمام احباب حلقہ فرود سکوارڈن لیڈر
غلام رسول شاہ برکت کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ بیٹے افراد بیعت ہوں وہ تحریری بیعت نامہ آستانہ عالیہ پر پہنچا دیں
لاہور تاریخ ۹۵ سالہ۔

عبدالستار خان
شفیع سلسلہ عالیہ توحیدیہ